


یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں  
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔



سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان



۷۸۶

۹۲-۱۱۰

یا صاحب الْوَمَانِ اور کشمکش



# لپک یا حسین

نذر عباس  
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA  
Unit#8,  
Latifabad Hyderabad  
Sindh, Pakistan.  
[www.sabeelesakina.page.tl](http://www.sabeelesakina.page.tl)  
[sabeelesakina@gmail.com](mailto:sabeelesakina@gmail.com)

Presented by [www.ziaraat.com](http://www.ziaraat.com)

[www.ziaraat.com](http://www.ziaraat.com)

NOT FOR COMMERCIAL USE

فاطمہ

شہید آیت اللہ مرضیٰ مطہری

مترجم

مولانا رياض حسین جعفری ناظم

اکارا لہ من درج الصدیقین اللہ

فطر

برناف

شیخ آجہت اللہ مرشی مطہری

مترجم

دیانت حسین جعفری فاضل

ناشر

ادارہ متھاج الصالحین، جناح ثاؤں، ٹھوکر نیاز بیگ لاہور

# جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ

فطرت	.....	کتاب
شہید آیت اللہ مطہری	.....	مولف
مولانا ریاض حسین جعفری	.....	مترجم
ایم ایجائز احمد ادارہ منہاج الصالحین	.....	کپوزنگ
فون 5425372	.....	
2006ء	.....	تیرا لائٹن
120 روپے	.....	حدیہ

ملے کا پتہ

ادارہ منہاج الصالحین

المخترکیٹ، فرسٹ فلور، دکان نمبر 20

غزنی شریٹ، اردو بازار لاہور۔ فون: 7225252

## فہرست

13 .....	باب اول: فطرت کے معنی
15 .....	فطرت اور تربیت
19 .....	لفظ فطرت کا لغوی مفہوم
21 .....	ابن اشیر کا قول
24 .....	ابن عباسؓ کا قول
26 .....	شیخ عباسؒ کی گفتگو
28 .....	فطرت، صبغہ، حنیف
33 .....	حنیف کا مفہوم
35 .....	طبیعت، غریزہ اور فطرت
35 .....	طبیعت
37 .....	غریزہ
40 .....	فطرت
41 .....	کیا انسان فطریات رکھتا ہے؟ ”فطری جیلیں“
46 .....	باب دوم: انسانی فطرت
52 .....	انسان پر اسرار ترین موجود
54 .....	شاخت سے مشعق انسانی فطرت

55 .....	افلاطون کا نظریہ
56 .....	اسلامی حکماء کا نظریہ
58 .....	قرآن کا نکتہ نظر
63 .....	مکررین کا نظریہ اور اس کا نتیجہ
69 .....	خواہشات سے متعلق انسانی نظرت
75 .....	<b>باب سوم:</b> مقدس رحمانات
80 .....	انسانی خصوصیات
84 .....	محسوں فطریات
84 .....	۱۔ حقیقت کی ٹلاش
89 .....	۲۔ نیکی و فضیلت کی طرف رحمان
91 .....	۳۔ حسن و جمال کی طرف رحمان
93 .....	۴۔ تحقیق اور ایجاد کار رحمان
96 .....	۵۔ عشق و عبادت
99 .....	<b>باب چہارم:</b> عشق اور پرستش
102 .....	حقیقت عشق کے بارے میں نظریات
107 .....	عاشق کا معشوق میں فنا ہو جانا
116 .....	جرات مند اور غیر جرات مند حسی
118 .....	عشے کے اقوال
120 .....	کافی سے ایک حدیث

122 .....	مولانا روم کی ایک مثال .....
126 .....	<b>باب پنجم:</b> روحانی عشق .....
128 .....	عشق روحانی کے حقیقت کے باڑے میں کچھ اور .....
134 .....	عشق عرفاء کی نظر میں .....
137 .....	کیا انسانی اقدار متغیر ہیں؟ .....
141 .....	ڈاکٹر ہشتو دی کا نظریہ اور اس کا تجزیہ .....
147 .....	<b>باب ششم:</b> انسانی "اصالتوں" کا ارتقاء "انسانی اقدار کا ارتقاء" ..
148 .....	مٹتے اور شاکشوں کے نظریات کا مقابل .....
151 .....	انسانی اصالتوں کے ارتقاء کا مفہوم .....
153 .....	انسانی معاشرے کے ارتقاء کی اقسام .....
154 .....	۱۔ معاشرتی ڈھانچے کے باہمی روابط میں ارتقاء .....
157 .....	۲۔ انسانیت میں تکامل (ارتقاء) .....
160 .....	مارکسزم اور انسانی معاشرے کا انسانیت میں تکامل (ارتقاء) ...
162 .....	اگریں ٹینشلوم (نظریہ وجودیت) اور انسانیت اصالتوں .....
171 .....	<b>باب ہفتم:</b> مذہب کی اساس ( نقطہ آغاز ) اور سرچشمہ .....
174 .....	خود بیگانگی اور خود فراموشی .....
176 .....	مولانا روا کا خیال .....
180 .....	فوبیاخ کی نظر میں دین کا نقطہ آغاز .....
183 .....	نظریہ فوبیاخ پر تقيید .....

185 .....	اُست کافٹ اور اپنر کا نظریہ
190 .....	رسل کا نظریہ: دین کمزوری اور خوف کا نتیجہ ہے
193 .....	تحقیق و تقدیم
196 .....	قرآن اور معرفت خدا

### باب ہشتم: دین فطری ہے

206 .....	مارکسزم اور پیدائش دین
210 .....	مارکسزم کے نظریے کا تقدیمی جائزہ
212 .....	قرآن حکیم کے بقول
215 .....	کیا دین چھالت کی پیداوار ہے؟
218 .....	ویل ڈیورنٹ کی رائے

### باب نهم: دین کے نقطہ آغاز کے بارے میں ڈور کہیم کے نظریے

222 .....	کا جائزہ
223 .....	مرکب اعتباری اور مرکب حقیقی
225 .....	انسانی معاشرے کی ترکیب کی نوعیت
228 .....	دین کی پیدائش کا سرچشمہ ڈور کہیم کی نظر میں
234 .....	ڈور کہیم کے نظریے کا تقدیمی جائزہ
237 .....	انسانی "انا"; "خودی"; "میں" کے کئی مدارج ہیں
238 .....	قرآن کا نظریہ

### باب دهم: دین کی پیدائش کے بارے میں قرآنی نظریہ

## عرضِ ناشر

”فطرت“ آیت اللہ مرتفعی مطہریؒ کی ایک شہرت یافتہ کتاب ہے، اس کتاب کا انداز تحریر دوسری کتابوں سے بالکل مختلف ہے، صاف و شفاف جملے، کشش لفظوں کا چنانچہ پھر مطالب کی ہمہ گیریت اور مقاصد کی رواں دواں عبارت، کامیابی کا چنانچہ پھر مطالب کی ہمہ گیریت اور مقاصد کی جامیعت نے کتاب کے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ آیت اللہ مطہریؒ نے کائنات کی آفرینش اور انسان اور دیگر مخلوقات کے مقصد تخلیق کو بہت ہی سادہ اور آسان لفظوں میں بیان کیا ہے، حالانکہ شہید مطہریؒ ایک بہت بڑے فلسفی، فقہ و حدیث کے ماہر عالم دین تھے، انہوں نے کتاب لکھتے وقت عام لوگوں بالخصوص طلبہ کی تربیتی سوچ کو بھی اپنے سامنے رکھا ہے۔ علامہ صاحب نے منقی اقدار کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جہالت و ظلم کی سخت الفاظ میں نذمت کی، پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اپنی اپنی جگہ پر درست اور بر محل ہے، کسی کا خوبصورت یا بد صورت ہونا فطری حسن پر اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ خلاق لم یزل نے کوئی نہ کوئی خوبی ہر انسان کو عطا کر دی ہے، گویا جو جو چیز یا جو جو نعمت جس جس کے حصے میں آئی تھی وہ اس کو پوری اہانت و حفاظت کے ساتھ مل گئی۔ کتنا خوبصورت توازن قائم کیا ہے مالک کائنات نے؟ اسلام میں علم و دانائی کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان علم و دانائی کا طالب صرف اس نئے نہیں ہے کہ وہ اسے فطرت پر غلبہ دیتے

ہیں اور اس کی مادی زندگی میں اس کو فتح پہنچاتے ہیں، بلکہ اس کے اندر حقیقت اور تحقیق کی نظری جگہ موجود ہے، علم بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنے فرائض بہتر طریقے سے انجام دینے کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر انسان کو مطلوب ہے۔ پھر کہا ہے کہ انسانی روح کی پائیدار اور قدیم ترین تجلیوں اور اصلی ترین پہلوؤں میں سے ایک دعا اور عبادت کا احساس ہے، دوسرے لفظوں میں دعا ایک ایسا زندہ عمل ہے جس کے ذریعے ہماری چھوٹی شخصیت اپنی حیثیت کو زندگی کے ایک بڑے "کل" میں پالتی ہے۔ اسلام نے خود شناسی پر خصوصی توجہ دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہنچانے اور اس عالم وجود میں اپنے مرتبہ کو سمجھے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود شناسی کے ذریعے اپنے آپ کو اس بلند مقام پر پہنچائے جس کا وہ اہل ہے۔ اسلام جسم کی پروردش، حفاظت کو ضروری سمجھتا ہے، روح کی پروردش اور انسانی کردار کی تعمیر و ترقی بھی حیات انسانی کے لئے لازمی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں پیغمبروں کی تشریف آوری اور آخرت مخصوصین کے انداز تبلیغ پر بہترین انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ دنیا و آخرت کا فلسفہ بھی آسان پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے، گویا آیۃ اللہ مطہریؒ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، کسی نے سچ کہا ہے کہ خوشبو تو وہ ہے جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے نہ کہ عطاوار کو اس کی تعریف کرنی پڑے۔

آیۃ اللہ مطہری شہیدؒ کی چند کتب ہم شائع کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، زیرِ نظر کتاب کی اشاعت ہمارے لئے کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اسلامی تعلیمات کے فروع اور دین الہی

کی نشر و اشاعت کے لئے کام کر رہے ہیں، جن احباب نے ٹیلی فون، خط و کتابت  
کے ذریعے ہمارے ساتھ اپنی محبت و ہمدردی کا اظہار فرمایا ہے، ان تمام دوستوں  
کے لئے بے حد شکریہ اور دعاۓ خیر!

ہماری دعا ہے رب العزت تمام امت مسلمہ کو عزت و سرپنڈی عطا  
فرمائے اور ہم سب کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔

(آمین ثم آمین)

دعا گو!

ریاض حسین جعفری

سرپرست ادارہ منہاج الصالحین لاہور

## فطری حسن

انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ غنوں اور دکھوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور خوبیوں، مسروق اور آسائشوں کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ شادمانی و رحمت سے ہمکنار ہے اور رنج و الم سے یکسر محفوظ! یہ اور بات ہے کہ وہ عیش و مسرت کی ہی تمنا کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی شادمانی و غم اور راحت و الم سے عبارت ہے۔ سطح پر موجودوں کا اضطراب پہم جس طرح روایتی ذریا کا پتہ دیتا ہے، اسی طرح زندگی کے دکھ تسلسل حیات کی غمازی کرتے ہیں، دکھ کے بعد سکھ سکھ کے بعد دکھ کا آنا فطری امر ہے۔ سocrates کا مقولہ ہے کہ ہر راحت کے بعد الم اور ہر الم کے بعد سکون ہے، جہاں دکھ یہ دھوپ چھاؤں زندگی کے گھر آگلن میں آنکھ پھولی کھیلتی رہتی ہیں، وہاں کبھی نغمہ شادی گونجتا ہے اور کبھی نوح غم بلند ہوتا ہے۔ قالم نے کیا اچھا شعر کہا

ہے

اک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق  
نوح غم سہی نغمہ شادی نہ سہی

ایک پوری مفکرہ کہنا ہے کہ دکھ ہمارے لئے صبر و استقلال، نفسیاتی جذبات، عقل و ہمدردی اور ایمان کے تخفے لے کر آتا ہے، اگر ان تکھوں سے منہ پھیر لیں تو ہم کو بزدی، کمزوری، مایوسی کا انعام خواہ تجوہ مل جاتا ہے۔ لائگ فیلو کا

قول ہے اس دکھ سے بڑھ کر کوئی دکھ نہیں جو انسان پر کھل سکے۔ مرزا غالب کا  
ایک شعر یاد آیا، کیا خوب بات کہی انہوں نے

بانٹ لے کوئی کسی کا درد یہ ممکن نہیں  
بارغم دینا ہے اٹھواتے نہیں مزدور سے

ایک اور مفکر کا قول ہے کہ پوری طرح کسی کا دکھ کوئی نہیں بانٹ سکتا،  
کیونکہ ہر دکھ کی تہہ میں اس شخص کے ذاتی راز ہوتے ہیں۔ ایک اور دانشور اپنا  
اظہار خیال ان الفاظ میں کرتا ہے دکھ میں انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے دکھ  
کی شدت میں خدا یاد آتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک حکیم نے کہا، اگر  
صرف سکھ کو اپنا لیا جائے تو دکھ خود بخود چلا جاتا ہے۔ ایک دانشور کا مقولہ ہے اگر  
ہم سکون و آسائش سے زندگی بر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوستوں سے مخلصانہ اور  
دشمنوں سے عفو و درگزرا راویہ اختیار کرنا چاہئے۔ ماون کا مقولہ ہے زندگی میں دکھ  
اور بے اطمینانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوتے؛ زندگی  
کی معمولی باتوں اور نادر موقعوں کے منتظر رہتے ہیں، جو ایک کرشمے کی طرح ہمیں  
سرت سے دوچار کر دیں، انہی کل جھوٹی امیدوں پر ہم آج کا سکھ کھو دیتے ہیں۔  
کسی دانشور کا کہنا ہے سکھ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو سکھ پہنچاؤ۔  
ایک اور دانش مند کا نظریہ ہے کہ جس نے اپنی طاقت کو پیچان لیا تو سمجھ لو کہ اس  
کے دکھ مختتم ہو گئے۔ ایک اور دانش مند کا مقولہ ہے زندگی کا سب سے بڑا لیکھن یہ  
ہے کہ کوئی ہم سے پیار کرتا ہے اور ایک مقولہ ہے سکھ باہر سے ملنے والی چیز نہیں  
ہے بلکہ وہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن غرور چھوڑے بغیر اسے نہیں پایا جا سکتا۔

لہذا انسانی عظمت کے نکھار کے لئے صبر و عمل کی اشد ضرورت ہے، جو شخص مصائب کے وقت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور خدا کی رضا پر راضی رہتا ہے تو وہ کبھی شکست و ریخت سے دوچار نہیں ہو سکتا، جب تسلیم و رضا کا جذبہ کسی قلب و ذہن میں جاگزین ہو جائے تو پھر غموں سے غم نہیں آتا اور خوشیوں سے خوشی نہیں آتی۔

یہ تو تحسیں ادھر ادھر کی باتیں، لیکن جس فطرت کے پوشیدہ اور سربراہ رازوں کو آئیے اللہ شہید مرتضیٰ مطہریؒ نے ظاہر کیا ہے کہ ان کی دنیا ہی کچھ اور ہے۔ اس کتاب میں جناب مطہریؒ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھر پور دلائل دیتے ہوئے ”فطرت“ کے پرکشش اور خوبصورت چہرے کو اس طرح عیاں کر دیا ہے کہ اس کو پڑھتے ہی قلب و ذہن کی دنیا جگما گا اٹھتی ہے۔

برادر علامہ ریاض حسین جعفری نے عبارت کو آسان اور عام فہم بنانے کے لحاظ سے ترجمے کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ موصوف اس کتاب کے مترجم بھی ہیں اور ناشر بھی۔ مذہبی و دینی خدمت کے حوالے سے مولانا جعفری صاحب اور ان کا موقر ادارہ کی تمام تر کوششیں قابل ستائش ہیں، دعا ہے رب العزت ان کو آباد و شادر کئے، علم و عمل کی یہ خوبصورت کہکشاں سدا جگما گاتی رہے۔ (آمين)

دعاؤ گو!

عبد عسکری فاضل قم

# باب اول

## فطرت کے معنی

ہمارا موضوع بحث "فطرت" ہے۔ فطرت بحث ایک لحاظ سے فلسفیانہ بحث ہے۔ فلسفے کے اہم موضوعات تین ہیں:

### ۱۔ خدا ۲۔ کائنات ۳۔ انسان

ہماری یہ بحث انسان سے متعلق ہے، ایک لحاظ سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان اور خدا سے متعلق ہے۔ موضوع کے ایک طرف انسان ہے اور دوسری طرف خدا ہے، اسلامی مآخذ یعنی قرآن و سنت میں فطرت کا بہت ذکر ملتا ہے۔ اس ضمن میں، میں نے پہلے سے کچھ یادداشتیں مرتب کر رکھی ہیں کہ جن کے بارے میں اس نشست میں گفتگو ہو گی کہ کیا قرآن انسان کے لئے فطرت کا قائل ہے؟ انسان کے بارے میں ایک خاص نکتہ نظر ہے۔ لفظ فطرت سے کیا مراد ہے؟ کیا قرآن سے پہلے کسی نے انسان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے؟ یا پھر یہ ایسے پہلوؤں میں سے ایک ہے جن کا قرآن نے ہی پہلی مرتبہ انسان کے متعلق ذکر کیا ہے؟ بظاہر قرآن سے پہلے اس لفظ کے استعمال کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، چنانچہ قرآن نے ہی اسے پہلی مرتبہ انسان کے لئے استعمال کیا ہے۔ اس کے قرآن کا بعد میں ذکر ہو گا۔

پہلے ہمیں لفظ فطرت کے لغوی پہلو کا جائزہ لینا چاہئے اور گہری نظر سے دیکھنا چاہئے کہ اس کی لغوی بنیاد کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جس کے بارے میں ہمیں اس مقام پر گفتگو کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ کیا انسان اصولی طور پر فطریات کے ایک سلسلے کا حامل ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ کیا انہیں ہر قسم کی فطرت سے عاری ہے؟ البتہ فطریات کی تعریف اس کے بعد بیان کریں گے۔

ہماری تیسرا بحث بالخصوص دین کے بارے میں ہوگی کہ کیا دین فطری ہے یا نہیں؟ قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ دین فطری ہے۔ ہمیں انسان اور دین کے بارے میں ایک علمی بحث کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ کیا دین بنیادی طور پر فطری ہے یا نہیں؟ قرآن نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ دین دین فطرت ہے۔ ہمیں انسان اور دین کے بارے میں ایک علمی بحث کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ دین بنیادی طور پر فطری ہے یا نہیں۔

### فطرت اور تربیت

البتہ اس مسئلے کے بہت سے پہلو مختلف حوالوں سے وجود میں آتے ہیں، ان میں سے ایک تعلیم و تربیت کا پہلو ہے، جو از خود ایک وسیع بحث کا حامل ہے۔ اس حوالے سے گفتگو یہ ہے کہ اگر انسان فطریات کے ایک سلسلے کا حامل ہے تو پھر اس کی تربیت قطعی طور پر انہیں فطریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی جانی چاہئے اور جو لفظ فطرت استعمال کیا جاتا ہے، چاہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اس کی بنیاد ہی ہے، کیونکہ تربیت کے معنی ہیں، پروان چڑھانا اور پروش کرنا اور یہ اس بنیاد پر ہے کہ انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایک سلسلے کو جسے آج کی زبان میں امتیازی خصوصیات کہا جاتا ہے، تسلیم کر لیا جائے۔

تربیت اور صنعت میں یہ فرق ہے کہ صنعت میں کسی "مادی" چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے، یعنی انسان کا ابتداء میں ایک مطبع نظر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے مختلف چیزوں سے کام لیتا ہے، جبکہ ان چیزوں

کی اصل ماہیت سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی، اسے اپنے مقصد کے حصول کے لئے مختلف ساز و سامان کی شکل و صورت کو بگاؤنے یا سنوارنے سے کوئی عرض نہیں ہوتی، اس کو صرف اور صرف اپنے مقصد کے حصول سے غرض ہوتی ہے۔

ایک بڑھی یا ایک معمار جس کا کام ایک طرح کی ساخت یا تعمیر ہے، جو اس کا کام ہونا چاہئے، اسے اس سے مطلب نہیں کہ لکڑی، لوہا، سینٹ وغیرہ اپنی ذات اور ماہیت کے لحاظ سے پروان چڑھتے ہیں اور کمال پاتے ہیں یا ناقص ہو جاتے ہیں بلکہ اصولی طور پر بڑھی تو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس ساز و سامان کو شکل و صورت کو ناقص اور تبدیل کرے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ لیکن ایک مالی اگرچہ اس کا اپنا ایک مطبع نظر ہدف اور فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے کام کی بنیاد یہ ہے کہ وہ پھول یا پودے کو فطری اور قدرتی تقاضوں کے مطابق پروان چڑھائے اور ایک لحاظ سے وہ پھول اور پودے کے قدرتی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے انہیں پروان چڑھاتا ہے۔

میں نے یہ مثال پہلے بھی دی تھی کہ کبھی انسان کسی مینڈھے کو اس کے ذاتی حوالے سے دیکھتا ہے اور کبھی انسان اسے ایک چیز کے حوالے سے دیکھتا ہے اگر مینڈھے کو اس کے ذاتی حوالے سے دیکھا جائے تو کیا مینڈھے کے مفاد میں ہے کہ اسے جنسی طور پر ناقص کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم اس عمل سے ایک طرف اسے اذیت دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم اسے جنسی لحاظ سے ناقص کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اسے اس کے ایک اہم قدرتی عضو سے جو کہ اس کے کمال اور ارتقاء کا باعث ہے سے محروم کر دیتے ہیں اس لحاظ سے بیہاں پر ہم

اسے ایک چیز کے طور پر سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ اس عمل سے مینڈھا کامل ہوتا ہے یا ناقص۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ فربہ اور موٹا تازہ ہو جائے اور اس کا گوشت زیادہ ہو جائے، اس لئے ضروری ہے کہ میں اسے جنی طور پر ناقص کر دوں تاکہ اس کی توجہ بھیڑ کی طرف نہ جائے اور وہ صرف کھانے اور چرنے کی طرف ہی توجہ رکھے، اس طرح وہ زیادہ کھائے گا اور زیادہ فربہ اور موٹا ہو گا، نتیجتاً اس کا گوشت بھی زیادہ ہو جائے گا اور جب ہم اس کو ذبح کریں گے تو ہمیں اس کا زیادہ گوشت میسر آ سکے گا۔

انسانوں کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، انسانوں کی تعمیر دو طرح سے کی جاسکتی

ہے:

ایک تو یوں کہ جس طرح چیزوں کی تعمیر کی جاتی ہے یعنی جو تعمیر کرنے والا ہے وہ فقط اپنے ہی مقصد کو پیش نظر رکھے اور کسی شے کو ایسا بنادے کہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے، چاہے اس کا یہ مقصد چیزوں کو ناقص کرنے سے حاصل ہوتا ہو یا کامل کرنے سے۔

جو لوگ اجتماعیت کے قائل ہیں (یعنی فرد کی لنفی کر کے معاشرے ہی کو اصل سمجھنا اور انفرادی کمال کو اہمیت نہ دینا) جیسے اشتراکی نظام کہ جو بذات خود ایک خاص طبقے (حکمران طبقے) کی حاکمیت پر مکمل ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی تعمیر یوں کریں کہ حکمران طبقے کا مقصد بہتر طور پر حاصل ہو یا ان کے بقول معاشرے کے لئے مفید ہو۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں بحث کریں گے کہ آیا فرد کے کمال اور معاشرے کے کمال میں کوئی تضاد ہے یا نہیں؟ اور کیا

بہت سے مسائل میں معاشرے کو کمال تک پہنچانے کے لئے ہم فردو ناقص کرنے پر مجبور ہیں یا نہیں؟

کہا جاتا ہے کہ ہمیں معاشرے کے لئے فلاں فلاں افراد کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ معاشرے کو نظم و ضبط کے سو فیصد پابند سپاہیوں کی ضرورت ہے جو اپر سے آنے والے حکم کی بلا حیل و جھٹ تعقیل کریں اور اپنے سالار کے حکم کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں غور و فکر نہ کریں۔ چنانچہ اگر کوئی انسان اپنے ذاتی ارادے اور عقل کو کام میں لاتا ہے، یعنی عقل و فکر کے اعتبار سے آزاد ہے اور سوچتا ہے کہ میں فلاں کام کیوں کروں یا وہ انسان جذبات کا حامل ہے تو پھر ایسا فرد ان کے نزدیک کسی کام کا نہیں اور ان کے بقول معاشرے کے لئے بے کار ہے۔ ان کے مطابق معاشرے کے لئے وہ لوگ کارآمد ہیں جو فکر اور جذبہ سے عاری ہوں وہ چاہتے ہیں کہ سپاہی ایسا ہو کہ یہ اسے ایک بھم دیں اور کہیں کہ جاؤ فلاں شہر پر گرا آؤ اور وہ یہ نہ سوچے کہ وہاں کے عوام کا کیا قصور ہے؟ اور میں ان پر بھم کیوں گراوں؟ وہ یہ نہ سوچے کہ آخر اس شہر میں جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں یا بچے ہیں، وہ بے گناہ ہیں یا قصوروار۔ اس بارے میں اسے نہ سوچتا چاہئے، نہ ذرہ بھر محسوں کرنا چاہئے بالکل ایسے ہی جیسے مینڈھے کی تنازلی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوب چرے اور خوب موٹا تازہ ہو۔ یہ لوگ انسانی جذبوں اور احساسات کو ختم کر دیتے ہیں اور اس میں درندگی کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، اس طرح فکری حریت اور استقلال کو پوری طرح اس سے چھین لیتے ہیں اور اس صورت میں یہ انسان ان کے لئے کارآمد ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ”تریتی“ کے حقیقی مفہوم کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ تربیت

کے معنی انسان کی حقیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے، اگر وہ عقل و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے ذہن میں چون و چرا امگھرتے ہیں تو پھر چاہئے کہ ان کی بھی پروش کی جائے نہ کہ اس کی ان صلاحیتوں کو ختم کر دیا جائے، اگر اس کے اندر انسانی جذبہ مثال کے طور پر حرم کا جذبہ موجود ہو تو چاہئے کہ اسے پروان چڑھایا جائے، تاہم ان چیزوں کی بھی افراط و تغیریط کے حوالے ہی سے حدود مقرر ہیں۔ یہ بات اس لئے بیان کی گئی ہے کہ مسئلہ فطرت کا ترتیب سے بہت قریبی رشتہ ہے جس کے بارے میں ہم جدا گانہ نفتگو کریں گے۔

دور حاضر کے انسانی فلسفوں میں اور معاشرہ شناسی کے علوم میں تاریخ کے ارتقاء کے مسئلہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اگر ہم فطرت کے قائل ہوں تو تاریخ کے ارتقاء کے ایک خاص اعتبار سے توجیہ کریں گے اور اگر ہم فطرت کے قائل نہ ہوں، جیسا کہ دور حاضر میں بہت سے مکاتب فکر انسان کے لئے کسی فطرت کی مجموعی طور پر نظر کرتے ہیں، تو اس صورت میں تاریخ کے ارتقاء کی توجیہ کسی اور طرح سے کریں گے۔ ان تمام امور پر تفصیلی بحثیں ہیں جن کی جانب ہم نے اجمالی طور پر اشارہ کیا ہے۔

### لفظ فطرت کا الغوی مفہوم

اب ہم پہلے مسئلے سے بات شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لفظ ”فطرت“ کہ جو قرآن میں آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد خداوندی ہے:

فطرة الله التي فطر الناس عليها (روم ٣٠)

مادہ ”فطر“ (ف۔ ط۔ ر) قرآن میں متعدد بار استعمال ہوا ہے کبھی

”فطر ہن“ (انیاء ٥٦)

کبھی ”فاطر السموات والارض“ (انعام ١٢) اور دیگر پانچ آیات۔

کبھی ”انفطرت“ (النطارة)

اور کبھی ”منفطر به“ (مزمل ١٨)

ہر مقام پر اسی لفظ کے معنی ہیں، ابداع اور خلق بلکہ خلق بھی ابداع کے معنی میں ہی ہے۔ ابداع کے معنی کسی سابقہ نہونے کو پیش نظر رکھے بغیر پیدا کرنے کے ہیں۔ لفظ ”فطرة“ اس صیغے میں یعنی بروزن ”فعلة“ صرف ایک آیت میں آیا ہے کہ جو انسان اور دین کے بارے میں ہے، جس کے مطابق دین ”فطرة الله“ ہے۔

فَاقْمُ وَجْهكَ لِلدِّينِ حِنْيَا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ

النَّاسُ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ (روم ٣٠)

اس آیت کی تشریح ہم بعد میں عرض کریں گے۔ جو لوگ عربی زبان سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ ”فعلة“ کا وزن نویعت اور کیفیت پر دلالت کرتا ہے۔ ”جلسة“ یعنی بیٹھنا اور ”جلسۃ“ یعنی بیٹھنے کا خاص انداز جیسے ”جلست جلسۃ زید“ یعنی میں زید کے انداز میں بیٹھا، یعنی جیسے زید بیٹھتا ہے میں ایسے بیٹھا۔ ابن مالک نے الفیہ میں کہا ہے:

وَ فَعْلَةً لَمَرَةً كَجَلْسَةٍ وَ فَعْلَةً لَهْبَيَةً كَجَلْسَةٍ

جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ قرآن میں لفظ ”فطرت“ انسان اور دین کے ساتھ اس کے رابطے کے بارے میں آیا ہے۔ ”فطرة الله التي فطر الناس عليها“ یعنی وہ خاص خلقت کہ جو ہم نے انسان کو دی، یعنی انسان ایک خاص انداز سے پیدا ہوا ہے۔ یہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ ”انسانی امتیازات“ تو اس سے فطرت کا مفہوم نکلتا ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم انسان کی اصل خلقت میں کچھ امتیازات اور خصوصیات کے قائل ہوں، یعنی فطرت انسان کے معنی ہوئے خلقت و آفرینش کے اعتبار سے انسان کے امتیازات و خصوصیات۔

### ابن اثیر کا قول

حدیث کی لغات کے بارے میں لکھی جانے والی معتبر کتب میں ایک کتاب ابن اثیر کی ”النہایہ“<sup>(۱)</sup> ہے جو معروف ہے۔ ہم چونکہ معتبر مدارک سے ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لئے اس کتاب کا بھی حوالہ پیش کرتے ہیں، جیسے لغات قرآن کے لئے ”راغب“ کی کتاب ”مفہودات“ نہایت عمدہ ہے، کیونکہ راغب نے قرآنی الفاظ کے بنیادی معانی کا اچھی طرح تجزیہ کیا ہے۔ یہی کام ابن اثیر نے حدیث کی لغات کے لئے انجام دیا ہے۔ ”النہایہ“ میں ابن اثیر نے اس معروف حدیث کو ذکر کیا ہے:

— وَتَنَبَّهُ إِلَيْنَا مِنْ كُلِّ حَمَّىٍ مِنْ بَعْدِ هُرَيْكَوْنَىٰ كَوْنَىٰ اِبْنِ اَثِيرٍ كَمَا جَاءَتْ بِهِ اُولَئِكَنْ بَعْدَ تَبَوَّءِهِمْ بِهِ اِسْلَامٌ كَمَّ تَحْقِيقُ عَلَمَاءُ مِنْ سَعَىٰ —

— ایک کاتب ”عز الدین“ ہے، درسے کاجحة الدین، ہے اور تیسرے کا حیار الدین ہے۔

## کل مولود یولد علی الفطرة (۱)

”ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین (بیرونی عوامل) اسے مخرف کر کے یہودی، عیسائی یا آتش پرست بنادیتے ہیں۔“

اس حدیث کے بارے میں ہم بعد میں بحث کریں گے۔ ابن اثیر نے یہ حدیث نقل کر کے لفظ ”فطرت“ کے معنی یوں بیان کئے ہیں کہ الفطرۃ الابتداء والاختراع (فطر) یعنی ابتداء و اختراع یعنی خلقت ابتدائی کہ جسے ایجاد بھی کہتے ہیں، اس سے مراد یہی خلقت جس میں کسی کی تقلید نہ کی گئی ہو۔ اللہ کا کام فطرہ ہے، اختراع لیکن انسان کا کام عموماً تقلید ہے، یہاں تک کہ انسان جو ایجاد بھی کرتا ہے، اس میں بھی تقلید کے عناصر موجود ہوتے ہیں۔

انسان عالم طبیعی کی تقلید کرتا ہے، یعنی عالم طبیعی پہلے سے موجود ہے اور انسان اسے نمونہ قرار دے کر اس کی بنیاد پر تصویر بناتا ہے، صنای کرتا ہے، مجسم سازی کرتا ہے، انسان کبھی ایجاد و اختراع بھی کرتا ہے اور ایجاد و اختراع کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن انسانی ایجاد و اختراع کا اصل سرچشمہ عالم طبیعی ہی ہے اور اسی سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ معارف اسلامی میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے، فتح البالام و میر اسلامی کتب میں اس سلسلے میں بہت کچھ موجود ہے اور

۱۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز ابواب ۸۰ اور ۹۳ ”کامل التواریخ“ اور اسد الغافر“ عز الدین کی کتابیں ہیں۔ ”جامع الاصول“ اور ”الٹہبیه“ جیسے الدین کی ہیں۔ الٹہبیہ بہت عمدہ اور دقیق کتاب ہے اس میں احادیث میں استعمال ہونے والے الفاظ کی توجیہ بیش کی گئی ہے۔

لازمی طور پر ایسا ہی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لئے کسی کی صنائی کی تقلید نہیں کی کیونکہ جو کچھ ہے اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اس کی صنائی سے کوئی چیز مقدم نہیں ہے، لہذا الفطر ابتداء اور اختراع کے مساوی ہے، یعنی ایسا عمل کہ جس میں کسی اور کی تقلید نہ کی گئی ہو۔ این اشیر اس کے بعد لکھتے ہیں:

والفطرة الحاله منه کا لجلسہ و الرکبة

فطرت: یعنی خلقت کی ایک خاص حالت اور ایک خاص نوعیت کے معنی ہوتے ہیں۔ (یہ خاص طور پر اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ جب ہم بعد میں وضاحت کریں گے تو ہمیں معلوم ہو گا کہ یہ معنی ان کلمات کے لئے ان کے مفہوم کی بناء پر ہیں اور یہ کہ اس صحیح لغوی مفہوم کو نہایت معتبر اہل لغت نے بہت پبلے بیان کیا ہے)۔

وہ مزید لکھتے ہیں:

والمعنى انه يولد على نوع من الجبله والطبع  
المتهبى لقبول الدين فلو ترك عليها لا ستمر على  
لزومها

”یعنی انسان ایک خاص طرح کی سرشت اور طبیعت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اس طرح سے کہ وہ دین کو قبول کرنے کی قابلیت رکھتا ہے اور اگر اسے اسی کے حال پر اور طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اسی راستے کا انتخاب کرے گا، بشرطیکہ بیرونی اور خارجی طور پر متاثر کرنے والے عوامل اسے اس

راستے سے نہ بھٹکا دیں۔“

اس کے بعد ابن اثیر کہتے ہیں کہ حدیث میں فطرت کا لفظ کئی بار آیا ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کہ جس کا ابتدائی حصہ ابن اثیر نے نہیں لکھا، یوں بیان ہوا ہے:

علیٰ غیر فطرة محمد یعنی علیٰ غیر دین محمد  
مقصد یہ ہے کہ اس مقام پر لفظ دین کے بجائے ”فطرت“ کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح ابن اثیر نے حضرت علیٰ سے نقل کیا ہے:

و جبار القلوب علیٰ فطراتها

(نحو البلاغہ میں اس سے ملتا جلتا جملہ آیا ہے: ”و جابر القلوب علیٰ فطراتہما“) اللہ تعالیٰ جس نے دلوں کو پیدا کیا ہے وہ ان دلوں کی فطرتوں کی بنیادوں پر ان کا جبار ہے۔ یعنی تلافی کرنے والا یا تکمیل کرنے والا اس سے مراد اخلاق ہے۔

ابن اثیر کہتے ہیں:

علیٰ فطراتها ای علیٰ خلقها (نہایہ ابن اثیر، جلد ۳، ص ۲۵۰)

## ابن عباس کا قول

ابن عباسؓ سے ایک عجیب حدیث مقول ہے۔ اس حدیث کو میں اس امر کے لئے قریبہ سمجھتا ہوں کہ فطرت کا لفظ ان الفاظ میں سے ہے جنہیں قرآن نے ہی پہلی مرتبہ استعمال کیا ہے۔ ابن عباسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

پچازاد تھے قریش تھے اور صاحب علم و فضل انسان تھے وہ کوئی عجی نہ تھے کہ ہم کہیں کہ عربی زبان سے واقف نہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں آنے والے لفظ فطرت کو پہلی بار اس وقت سمجھا جب ایک مرتبہ میری ایک بادیہ نشین بد و اعرابی سے ملاقات ہوئی۔ ("اعرابی" یعنی بادیہ نشین، قرآن میں آنے والا لفظ اعراب اس معنی میں نہیں کہ جس میں آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم لفظ اعراب کو عرب کی جمع کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ عرب کی جمع غرب ہے۔ اعراب اور اعرابی عام طور پر بادیہ نشینوں کو کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ فارسی زبان میں آج کل لفظ اعراب عرب کی جمع کے لئے بولا جاتا ہے)۔

اور اس نے ایک مسئلہ میں اس لفظ کو استعمال کیا۔ جب اس نے اس مسئلے میں یہ لفظ استعمال کیا تو مجھ پر آیت کامفہوم واضح ہوا۔

ابن عباسؓ کے الفاظ یوں ہیں:

ما كنْتُ ادرِي ما فاطر السموات والارض حتى

احتَكْمَ الى اعرا比ان فِي بَعْدِ

یعنی قرآن میں آنے والے لفظ فاطر کو میں صحیح طور پر نہیں سمجھا تھا۔ یہاں تک کہ دو بادیہ نشین میرے پاس آجئے کہ جن کا پانی کے ایک کنوئیں کے مسئلے پر اختلاف تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا "انا فطرتها"، وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کنوں میرا ہے اور اس کی مراد یہ تھی کہ اسے شروع میں یہیں نے کھو دا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کنوئیں کو کھو دا جاتا ہے تو ایک عرصے کے بعد اس کے پانی کی سطح پنجی ہو جاتی ہے لہذا اسے دوبارہ مزید نیچے گھرا کرنا پڑتا ہے تاکہ

پانی دوبارہ حاصل کیا جاسکے)۔

وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اس کا پہلا مالک ہوں، یعنی میں نے اسے پہلے کھو دا ہے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں اس سے سمجھا کہ قرآن میں ”فطرت“ کے کیا معنی ہیں، یعنی انسان کی ایک ایسی سو فیصد ابتدائی خلقت کہ غیر انسان میں جس کی کوئی مثال نہیں، دیگر مواقع پر بھی عربی زبان میں جہاں ”فطر“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں بھی یہ ابتدائی ہونے اور سابقہ نہ رکھنے کا مفہوم رکھتا ہے۔ مثلاً عرب کہتے ہیں:

فَطَرَ نَابُ الْعِيرَ فَطَرَ أَذَا شَقَ اللَّحْمَ وَ طَلَعَ  
اوْنَكَ كَه دَانَتْ جَبْ نَكَلَتْ ہیں اور وہ پہلی بار گوشت کو چیر کر نمایاں  
ہوتے ہیں تو ابتداء آن کے نکلنے کو ”فطر“ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔  
اسی طرح سے کسی جانور کے پستان سے جو پہلا دو دھ حاصل کیا جاتا  
ہے اسے اسی اعتبار سے فطرہ کہتے ہیں (یعنی بولی یا کھیں)۔

راغب اصفہانی نے بھی اس لفظ کا اسی طرح تجزیہ کیا ہے، جیسے ”النہایۃ“  
میں ابن اثیر نے اس کو واضح کیا ہے، چونکہ اسے دوبارہ بیان کرنے سے تکرار ہوتی  
ہے، اس لئے اس کی جانب اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔

### شیخ عباسؓ کی گفتگو

شیخ عباسؓ نے اپنی سفیہۃ البخار (شیخ عباسؓ کی بہترین مفید ترین)  
اور ایک اہم کتاب تھی ہے کہ حدیث کے بارے میں ہے اور اس کتاب میں

انہوں نے مجلسی مرحوم کی کتاب ”بخار“ کی احادیث کو لغوی اعتبار سے واضح کیا ہے۔ درحقیقت یہ مجلسی مرحوم کی ”بخار“ کی احادیث کی ایک فہرست ہے، اس کتاب میں انہوں نے کسی حد تک این اشیر کی پیروی کی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ این اشیر کی زیادہ توجہ لغت کی طرف ہے اور ان کی احادیث کی طرف) میں ایک اہم ماہر لغت ”مطرزی“ سے نقل کرتے ہیں کہ اس میں اس نے کہا ہے کہ فطرت یعنی خلقت۔ اس کے بعد ”خواں الالیانی“ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں:

### کل مولود یولد علی الفطرة

”یعنی ہر مولود فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے۔“

اس کے بعد انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں آپؐ نے ایک ممتاز بست کے لفاظ سے لفظ ”فطرة“ استعمال کیا ہے، لیکن فطرت کے اس استعمال سے ہٹ کر کہ جس میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ابی بصیر کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں موجود تھا، اونٹ کا گوشت لایا گیا اور ہم نے کھایا، پھر دودھ لایا گیا، آپؐ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا اور مجھ سے کہا کہ تم بھی پیو، میں نے بھی پیا۔ میں نے پوچھا:

”ایش“ یہ کیا ہے؟

اس میں ایک خاص قسم کا مزہ تھا۔ آپؐ نے فرمایا، ”انہا الفطرة“ یہ فطرة ہے (دودھ دو ہتے وقت اس کی جو جھاگ بن جاتی ہے وہ مراد ہے) پھر بھی اس لفظ میں وہی ابتدائیت کا مفہوم ہی موجود ہے۔ اب ہم لفظ فطرت کی لغوی بحث سے آگے بڑھتے ہیں۔

## فطرت، صبغہ، حنیف

قرآن حکیم میں تین الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ قرآن نے دین کے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے انہیں ہم معنی اور مفہوم کے لحاظ سے انہیں ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی تین ایسے مختلف مفہوم ہیں کہ ان کا مصدق ایک ہے۔ ان میں سے ایک یہی لفظ ”فطرت“ ہے۔

فطرة الله التي فطر الناس عليها (روم ۳۰)

دوسراللفظ ”صبغہ“ ہے اور تیسرا ”حنیف“، یعنی دین کے لئے ”فطرۃ اللہ“ بھی کہا گیا ہے ”صبغۃ اللہ“ بھی اور ”لددین حنیفَا“ بھی۔ اب ہم کچھ ”صبغہ“ اور ”حنیفَا“ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

صبغة الله ومن احسن من الله صبغة (ابقرة ۱۳۸)

”اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کیا ہے۔“

”صبغہ“، ” فعلۃ“ کے وزن پر ہے۔ یہ صبغہ اور صباغ کے مادہ سے ہے۔ ”صبغہ“ کے معنی ہیں رنگ کرنا اور ”صباغ“، یعنی رنگ ریزیا رنگ کرنے والا۔ صبغہ یعنی رنگ کرنے کی ایک خاص کیفیت، خاص طرح سے رنگنا ”صبغۃ اللہ“، یعنی وہ خاص رنگ جو اللہ نے کائنات میں بھرا ہے، یعنی الہی رنگ۔ دین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ الہی رنگ ہے، یہ وہ رنگ ہے کہ جسے دست قدرت نے کائنات اور خلقت میں بھرا ہے، اس نے انسان کو اس رنگ میں ڈھالا ہے۔

مفسرین نے کہ جن میں راغب بھی شامل ہیں، کہا ہے کہ قرآن میں یہ تعبیر اس عسل تعمید کی طرف اشارہ ہے کہ جو عیسائی انجام دیا کرتے تھے (کہتے ہیں کہ پانی میں چونکہ وہ لوگ ”عیسائی“، ”عموداً نہلا تے تھے، اس لئے اسے عسل تعمید کہتے ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ عسل کے لئے پانی کا کوئی خاص رنگ مثلاً زرد جیسا ہوتا تھا)۔ عیسائی عسل تعمید پر اعتقاد رکھتے تھے اور آج بھی اسے انجام دیتے ہیں، جب وہ کسی کو عیسائی بنا لانا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ عیسائیوں کے ہاں جب کوئی پچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے عیسائی مذہب میں داخل کرنے کے لئے یہ عسل دیتے ہیں، گویا اس طرح سے اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھاتے ہیں اور اس نہلانے کو ایک طرح سے میسحت کا رنگ دینا سمجھتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

”رنگ تو وہ رنگ ہے کہ اللہ نے جو خلقت کے اندر بھرا ہے۔“

ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا و لکن کان حنیفا

مسلمان (آل عمران ۶۷)

”ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے بلکہ وہ تو حنیف مسلمان تھے۔“

قرآن کہتا ہے کہ انسان ایک فطرت کا حامل ہے اور وہ دین ہے اور دین بھی اسلام اسلام ایک حقیقت ہے آدم سے خاتم تک، قرآن ادیبات کا

قابل نہیں ہے، ایک دین کا قابل ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں لفظ دین کی جمع استعمال نہیں ہوئی کیونکہ دین فطرت ہے راستہ ہے انسان کی سرشنست میں موجود ایک حقیقت ہے۔ انسانوں کو مختلف طرح سے پیدا نہیں کیا گیا ہے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے تمام احکام کی بنیاد فطری احساس کو بیدار کرنے زندہ کرنے اور پروان چڑھانے پر تھی۔ جو کچھ وہ پیش کرتے تھے اس فطرت انسانی کا تقاضا ہے، فطرت انسانی کے تقاضے مختلف طرح کے اور الگ الگ نہیں ہوتے، لہذا قرآن فرماتا ہے کہ جس چیز کے نوح حامل تھے وہ دین تھا اور اس کا نام اسلام تھا اور جس چیز کے ابراہیم حامل تھے وہ بھی دین ہی تھا کہ جس کا نام اسلام ہے۔ یہ جو نام بعد میں پیدا ہوئے اور وجود میں آئے حقیقی دین اور اس کی فطرت سے انحراف ہے، یعنی درحقیقت جس چیز کے نوح، "موی"، "عیسیٰ" اور ہر بھی حامل تھا، وہ دین اسلام ہی تھا۔ (بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا شریعتیں بھی فطری ہیں یا نہیں؟ ہم اس سلسلے میں بعد میں بیان کریں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دین فطری ہے تو اس کی کون سی چیز فطری ہے۔ آیا اس کے اصول و معارف فطری ہیں یا احکام بھی فطری ہیں۔ یہ جزئیات ہیں ان پر بعد میں گفتگو کی جائے گی)۔

لہذا قرآن فرماتا ہے:

ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا

مسلمان

"ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے بلکہ وہ تو حنیف مسلمان

تھے۔" (آل عمران: ۶۴)

قرآن یہ نہیں فرماتا چاہتا کہ ابراہیم رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان کی طرح کسی پیغمبر آخر الزمان کی امت تھے بلکہ فرماتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت حقیقی اسلام سے انحراف ہے اور اسلام درحقیقت ایک ہی ہے۔ وہ آیت مبارکہ جو میں نے پہلے بیان کی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ اس رنگ چڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ غسل تعمید اور اس جیسے غسلوں کی کیا تاثیر ہے؟ کیا غسل تعمید سے کسی کو وہ کچھ بنایا جا سکتا ہے جو کچھ وہ نہیں ہے؟ رنگ بھرنا تو وہ رنگ بھرتا ہے جو دست قدرت نے خود کائنات میں بھر دیا اور سو دیا۔ اللہ یہ فرماتا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہمارا نبی کہتا ہے وہی حقیقی اسلام ہے، وہی فطرت حقیقی ہے۔ فطرت حقیقی یعنی وہ رنگ کہ جسے اللہ نے خلقت ”خلوق“ میں بھر کر روح انسانی میں رچا دیا اور چڑھادیا ہے۔

راغب اصفہانی کہتے ہیں:

صبغة الله اشارة الى ما اوجده الله تعالى في الناسِ

من العقل المتميز به عن البهائم كالفطرة

(البترة وفطرت كعقل مخصوص به). -

و كانت النصارى اذا ولد لهم ولد غمسوة في اليوم

السابع في ماء عمودية يزعمون ان ذلك صبغة

فالله تعالى له ذلك

و من احسن من الله صبغة

یعنی قرآن کریم میں ”صبغة الله“ کی عبارت اس چیز کی طرف اشارہ

ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً انسانوں میں پیدا کی ہے، یعنی ”عقل“ جو انہیں حیوانوں سے اشرف، افضل اور ممتاز کرتی ہے اور یہی فطرت ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے ساتویں دن پانی میں عموداً ڈبوتے ہیں، اس سے وہ یہ خیال کرتے کہ بچہ پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اللہ کے رنگ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟“

حدیث میں ہے:

الدين الحنيف والفتراة و صبغة الله والتعريف في

الميثاق (معانی الاخبار، کوالہ بخار الانوار، چاپ جدید، جزء ۳، ص ۲۷۴)

”دین حنیف اور دین فطرت اور صبغۃ اللہ وہی ہے کہ جس سے اللہ نے انسان کو بیشاق کے موقع پر آشنا کیا ہے۔ (بیشاق وہ پیمان یا عہد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے روح انسانی سے لیا ہے)۔“

یہ بیشاق اسی ”چیز“ کی طرف اشارہ ہے کہ جسے عالم ذر سے تغیر کیا جاتا ہے، لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس مقام پر ہم عالم ذر کے مسئلہ پر فتنگوکریں اور دیکھیں کہ اس کا مفہوم اور معنی کیا ہیں۔ کیا انسان قبل ازیں اسی عالم مادہ میں چھوٹے چھوٹے جانداروں کی طرح تھے؟ اور پھر انہوں نے یہ ”موجودہ“ سورت اختیار کر لی ہے یا پھر اس کے کوئی دلیل تر معنی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ دلیل تر ہے۔

## حنفیت کا مفہوم

زاراہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا ”حنفاء لله“ نے کیا مراد ہے؟

”مال حنفیۃ؟“ حنفیت کیا ہے؟ امام نے فرمایا ”حنفیت یعنی فطرت۔ گویا امام نے بھی اسے ایک تکونی و طبیعی مسئلہ کی طرف پٹایا ہے۔ شیخ صدوق اپنی عمده کتاب ”توحید“ میں فرماتے ہیں کہ زاراہ نے امام باقر سے حنفاء لله غیر مشرکین ہے اور پھر حنفیت کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا:

ہی الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله  
”یہ ہے وہ فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ کی آفرینش تبدل نہیں ہوتی۔“

امام نے مزید فرمایا کہ اللہ نے انہیں معرفت پر پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد امام نے واقع ذر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے:

کل مولود يولد على الفطرة

یعنی على المعرفة بان الله عزوجل خالقه

”ہر کسی کی فطرت میں یہ معرفت موجود ہے کہ اللہ اس کا خالق ہے۔“

ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

عِرْوَةُ اللَّهِ الْوَثْقَى التَّوْحِيدُ وَالصِّبْغَةُ الْإِسْلَامُ

”اللہ کی مضبوط رسمی توحید اور رنگ اسلام ہے۔“

ابن اثیر نے مادہ ”خف“ کے وہی معانی بیان کئے ہیں جو ہماری  
احادیث میں آئے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ حفقاء کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے  
انسانوں کو گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے اس کے الفاظ یوں ہیں:

خَلَقَتْ عَبَادِي حَنَفَاءَ إِذْ طَاهَرِي الْأَعْضَاءَ مِنْ  
الْمُعَاصِي وَقَيْلَ اِرَادَاتِهِ خَلَقَهُمْ حَنَفَاءَ مُؤْمِنِينَ لِمَا  
اخَذُ عَلَيْهِمُ الْمِيشَاقَ: السَّتْ بِرْبَكْمَ قَالُوا بَلِي فَلَا  
يُوجَدُ اَحَدٌ الا وَهُوَ مُقْرَبٌ لَهُ رِبٌّ وَ اَنْ اَشْرَطَ بَهُ وَا  
خَتَلُفُوا فِيهِ. وَالْحَنَفَاءُ جَمْعُ حَنِيفٍ وَهُوَ الْمَائِلُ إِلَى  
الاسْلَامِ الثَّابِتُ عَلَيْهِ وَالْحَنِيفُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ كَانَ  
عَلَى دِينِ اِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَ اَصْلُ الْحَنْفَ  
الْمَيْلِ

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفیت یعنی حقیقت کی طرف رجحان اور  
میلان، پس اگر ہم لفظ حنفیت کی تعریف کرنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہو گی کہ  
”مائل بحق“، مائل بحقیقت، حق اور حقیقت کی جانب جھکاؤ رکھنے والا یا خدا اور  
توحید کی طرف میلان اور رغبت رکھنے والا۔ انسان کی فطرت میں حنفیت ہونے  
کے معنی یہ ہیں کہ حق و حقیقت کی طرف میلان ”رجحان“ اس کی فطرت میں شامل

ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو لفظ فطرت کے لغوی مفہوم کے بارے میں تھی اور قرآن و حدیث میں اس کے بنیادی معنی کی تلاش کے لئے، نیز اجمالاً جانے کے لئے کہ اس کی بنیاد آیات قرآنی اور احادیث میں موجود ہے اور یہ کہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، لہذا اس قدر عرض کرنا ضروری تھا۔

## طبعیت، غریزہ اور فطرت

اب ہم ان تین لفظوں کے مفہوم کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے:

### طبعیت

اب ہم انسان کی فطرتیات کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں۔ یہ گفتگو دینی، مذہبی اور قرآنی حوالے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس سوال کا جائزہ لیں گے کہ کیا انسان فطرتیات کا حامل ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لئے لامحالہ یہ دیکھنا ہوگا کہ فطرتیات سے کیا مراد ہے؟

ہمارے یہاں تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مناسب ہو گا کہ ہم ان کے درمیان تمیز کریں اور ان کا فرق بیان کریں۔ ان میں سے ایک لفظ "طبعیت" ہے، عموماً غیر جانداروں کے لئے لفظ طبیعت یا طبع استعمال ہوتا ہے، اگرچہ جانداروں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر جانداروں کے لئے یہ لفظ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ پانی کی طبیعت "خاصیت" ایسی ہے جب ہم بے جان موجود جس کا نام پانی ہے، کہ

خواص میں سے کوئی خاصیت بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پانی کی طبیعت ایسی ہے (ہمارے بیہاں اردو میں مادہ کے لئے خواص یا خاصیت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور عالم مادہ کے لئے طبیعت کی اصطلاح بھی مستعمل ہے)، یا کہتے ہیں کہ آسیجن کی طبیعت "خاصیت" ایسی ہے کہ سلگنے یا جلنے کے قابل ہے اور اس طرح سے مختلف اشیاء، عناصر کے مختلف خواص کے حوالے سے ہم ان کے لئے مختلف ذاتی خصوصیات کے قائل ہوتے ہیں۔ کسی بے جان چیز کی ذاتی خصوصیت کو ہم طبیعت "طبع" کہتے ہیں، یہ تمام انسانوں "بني نوع بشر" میں موجود ایک فلسفیائیہ سوچ و فکر کا نتیجہ ہے، یعنی انسان اسی طرح سے سوچتا ہے کہ دو ایک سی چیزوں کے خواص مختلف نہیں ہوتے، اگر خواص مختلف ہو گئے تو یہ ان چیزوں کے مختلف ہونے کی دلیل ہو گی، یعنی پھر وہ دو چیزوں میں مختلف ہوں گی، کیونکہ انسان نے چیزوں کو بعض پہلوؤں سے ایک سا پایا ہے اور مشاہدہ کیا ہے کہ بعض چیزوں باوجود اس کے کہ وہ جسم رکھتی ہیں اور مادہ ہیں، ان کے خواص مختلف ہیں۔ مثلاً انسان دیکھتا ہے کہ پانی جسم رکھتا ہے اور مادہ ہے، مشی بھی جسم رکھتی ہے اور مادہ ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اپنے ایسے خواص ہیں کہ جو دوسرے میں نہیں ہیں۔ لامحالہ اس نے یہ نتیجہ نکالا اور اخذ کیا کہ اس جسم میں ایک ایسی قوت، ایک ایسی توانائی اور ایک ایسی خصوصیت پوشیدہ ہے جو اس کی خصوص خاصیت کی بنیاد ہے۔ اس طرح ایک اور خاصیت دوسری چیز میں مخفی یعنی "پوشیدہ" ہے کہ جو اسی سے خصوص خواص کا سرچشمہ ہے لہذا ایک ایسی خصوصیت کہ جو کسی خاص تاثیر کی بنیاد بن جائے اس کا نام "طبع" ہے۔ آج کل ہم بھی اس لفظ کو ایسے ہی موقع

کے لئے استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چیری (Cherry) کی طبیعت یہ ہے یا فلاں درخت کی طبیعت یہ ہے کہ موسم سرما میں اس پر تروتازگی ہوتی ہے اور گرمیوں میں نہیں اور فلاں درخت کی "طبع" یعنی طبیعت ایسی ہے کہ وہ گرم علاقوں میں پروان چڑھ سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے، غیرہ۔ لیکن الفاظ طبیعت کو ہم بے جان کے علاوہ جانداروں کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں، مثلاً پودوں، حیوانوں اور انسانوں کے لئے بھی، تاہم ان پہلوؤں سے کہ جن میں وہ "غیر جانداروں" کے ساتھ مشترک ہیں، کیونکہ بے جان میں جو خصوصیات ہیں وہ جانداروں میں بھی ہیں، لیکن جانداروں کی جو ذاتی خصوصیات ہیں، وہ بے جانوں میں نہیں ہیں۔

### غرزہ

دوسرالفاظ جس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، وہ "غرزہ" یعنی "جلبت" ہے کہ جو زیادہ تر حیوانات کے لئے مستعمل ہے اور انسان کے لئے کم استعمال ہوتا ہے، لیکن جمادات اور نباتات کے لئے ہرگز استعمال نہیں ہوتا۔ ابھی تک غرزہ "جلبت" کے ماہیت واضح نہیں ہے، یعنی ابھی تک کوئی شخص حیوانات میں غرزہ کے مفہوم کی صحیح وضاحت نہیں کر سکا، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ حیوانات کچھ خاص اندروںی خصوصیات کے حامل ہیں کہ جو ان کی زندگی کی رہنمای ہیں اور حیوانوں میں نیم آگاہی "نیم شعوری" کی ایک حالت پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ راستے کو پہچانتے ہیں اور یہ حالت کبھی بھی نہیں ہے بلکہ ایک غیر اکتنا بی اور جملی ہے۔

(استاد شہید نے اس موقع پر فارسی کا لفظ ”سرشت“ استعمال کیا ہے)۔ مثال کے طور پر اڑنے والے جانور کا بچہ اپنی پیدائش کے آغاز میں ہی بغیر تعلیم و تربیت اور بغیر کسی غیرے کے ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ جو اس کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ گھوڑی کا بچہ انسان کے بچے سے مختلف ہوتا ہے انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پستان اس کے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے، اگرچہ بچہ بھی کسی حد تک اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا ہے اور چلاتا ہلاتا ہے اور کمزور علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کا مبتلاشی ہے اور اس کی جتو میں مصروف ہے، جبکہ گھوڑی کا بچہ ”ٹھو“ پیدا ہوتے ہی کوشش کرتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو چند بار زمین پر گرتا ہے، لیکن آخر کار اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بغیر ماں کی رہنمائی کے اپنا سرٹیٹھا کرتا ہے اور ماں کے شکم کے نیچے کچھ تلاش کرتا ہے، یقیناً وہ ماں کے پستان کی تلاش میں ہے، چنانچہ چند لمحات میں ماں کا پستان ڈھونڈ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ گھوڑی کے بچے کی یہ حالت، اس کا اٹھ کھڑا ہونا، ماں کے پستان کی جتو کرنا اور جلدی سے اسے ڈھونڈ لینا، اسے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں یہ حیوانی غریزہ ”جلبت“ ہے۔ حیوانوں کے غریزے بہت مختلف ہیں، مثلاً چیونٹی اپنی خوراک جمع کرنے کے بارے میں ایک خاص غریزہ ”جلبت“ رکھتی ہے۔

مور گرد آورد بہ تابستان

تا فراغت بود زمانش

”چیونٹی موسم گرم میں اپنی خوراک ذخیرہ کر لیتی ہے تاکہ سردیوں میں اسے پریشانی نہ ہو،“

چیوٹی کی حالت تو بہت عجیب ہے، یہاں تک کہ اپنی خودا ک ذخیرہ کرنے کے لئے ایسے ایسے غیر معمولی اور محیر العقول کام کرتی ہے کہ معلوم نہیں (معلوم نہیں سے مراد ہے کہ اس سلسلے میں کئی نظریات ہیں)۔ ان کا سرچشمہ اور بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ گندم جمع کرتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ اگر اس کے دانے سالم رہے تو پھر سے اگ پڑیں گے، گویا انہیں بانجھ کر دیتی ہے، یعنی دو ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی دو ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ وہ پھر اگنے کے قابل نہ رہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت سے حیران کن کام کرتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ غریزہ ہے، یہم آگاہی "نیم شعوری" پر منی ایک کام ہے جسے آگاہی "شعور" بھی کہا جاسکتا ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آگاہانہ اور شعوری طور پر نہیں ہے، ایک بہت ہی مہم سی حالت ہے۔

بچوں میں کو دکان باما دران

سر میل خود نداند در لبان

"جیسے بچوں کا ماوں کی طرف میلان اور رغبت ہوتی ہے  
لیکن وہ ماوں کی طرف بڑھنے والا ہونوں کا راز نہیں  
جائے"۔

ایک طرف تو اس لحاظ سے کہ یہ ایک داخلی میلان و رغبت ہے، آگاہی کی حالت ہے۔ میلان یا رغبت ایک روحانی کیفیت کا نام ہے، انسان اس میلان سے متعلق حضوری آگاہی رکھتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ میلان و رغبت کیوں ہے۔ یہ تو اسے خبر ہے کہ اس کے اندر ایک رغبت یا زندگان ہے، لیکن خود اس کے

بارے میں نہیں جانتا، اپنی اس آگاہی کا راز نہیں جانتا۔ اجنبال اور ابہام کی بناء پر اس میں یہ رغبت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ خود اس رغبت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، چونکہ کسی چیز سے آگاہی اور بات ہے اور اس کا حضور اور بات ہے۔

”غزیہ“ کا لفظ حیوانات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی تک کہیں بھی دینی یا غیر دینی اصطلاح اور محاورے میں یہ نہیں دیکھا کہ حیوانات کے لئے لفظ فطرت استعمال ہوا ہو اور اگر کسی نے استعمال کیا بھی ہو تو قصور و ار گردانا نہیں جاتا (فطرت کا مفہوم اردو زبان میں موجود ہے اور استعمال کے اعتبار سے وسیع تر ہے، یہاں تک کہ یہ انگریزی زبان کے لفظ Nature کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا فارسی مترادف طبیعت ہے، اگرچہ انسان کے لئے لفظ فطرت کا استعمال زیادہ موزوں ہے)۔

بہر حال مجھے یاد نہیں کہ حیوانات کے بارے میں جہاں پر ”غزیہ“، جبلت کا لفظ استعمال کیا جانا چاہئے، ”فطرت“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو۔

### فطرت

اس لفظ کا انسانوں پر اطلاق ہوتا ہے اور لفظ ”فطرت“، ”طبیعت“ اور ”غزیہ“ کی طرح ایک تکوئی مفہوم رکھتا ہے، یعنی انسان کی سرنشست کا ایک حصہ ہے۔ تکوئی سے ہماری مزاد یہ ہے کہ یہ ایک اکتسابی یا کسبی نہیں ہے، یہ ”غزیہ“ سے بالاتر ایک آگاہانہ چیز ہے۔ انسان جو کچھ جانتا ہے وہ اپنے اس علم کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتا ہے، یعنی انسان کچھ ”فطريات“ کا حامل ہے اور

یہ جانتا ہے کہ اس میں کچھ فطریات ہیں۔

## کیا انسان فطریات رکھتا ہے؟ ”فطری جبلتیں“

”فطریات“ کا ”غیریہ“ سے ایک اور فرق یہ ہے کہ غیریہ کا تعلق حیوان کی مادی زندگی سے ہے، جبکہ انسان کی ”فطریات“ ایسے امور سے مر بوط ہے جنہیں ہم امور استثنائی کہتے ہیں، یعنی حیوانی امور سے ہٹ کر پس درحقیقت ”فطرت“ سے متعلق بحث کروہ امور جو خالص انسانی امور ہیں اور حیوانی امور سے ہٹ کر ہیں، آیا تمام کبی ہیں اور ان کی بنیاد خود انسان کے اندر موجود نہیں ہے یا پھر یہ کہ کیا ان تمام مسائل کا سرچشمہ انسان کی ذات ہے اور یہ انسان کے لئے فطری ہیں؟ مثلاً ایک موضوع حقیقت خواہی کے نام سے ہمارے سامنے ہے جس کا اپنا ایک مفہوم ہے اور یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ”حقیقت خواہی“ سے میری مراد یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے جو حقیقتیں مخفی ہیں ان کا انکشاف کرے۔ پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا انسان واقعی طالب حقیقت ہے؟ اس بات کا امکان ہے کہ اس بات کو تسلیم نہ کیا جائے کہ انسان حقیقت کا طالب ہے اور اگر طالب حقیقت ہے بھی تو مجھ اپنے مفاد کی خاطر۔ یہ بحث علم کے ہمارے میں ہے چونکہ علم انسان کے لئے حقوق کو واضح کرتا ہے اور یہ بھی سوال ہے کہ آیا انسان خود علم کی ذاتی قدر اور اہمیت کا قائل ہے یا اسے فقط ایک دیلے کی سی اہمیت دیتا ہے، اس میں شک نہیں کہ علم انسان کے لئے ایک ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں، ”تو انا بود ہر کہ دانا بود“، یعنی علم انسان کو طاقت عطا کرتا ہے، جبکہ

علم اسے طاقت بخشتا ہے تو گویا یہ ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو ترقی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ سوال بھی ہے کہ آیا علم انسان کے لئے خود سے کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ علم انسان کے لئے ذاتی اہمیت رکھتا ہے یعنی آج کا انسان حقیقت کا طالب ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ حقیقت خواہی سماجی ضرورتوں کا نتیجہ ہے یا پھر انسانی سرشست کا حصہ ہے یعنی کیا انسان حقیقت خواہی پیدا ہوا ہے؟

دوسری مثال اخلاق حشر کی ہے دور حاضر میں کچھ مفہوم اور مطالب ایسے ہیں جنہیں ہم اخلاق حشر کا نام دیتے ہیں، یعنی اخلاقی کلتھ نظر سے انہیں انسانی اخلاق یا اخلاق حشر کہتے ہیں اور ان کے عکس مفہوم کو اخلاق سینکڑ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر احسان مندی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان سے اچھا سلوک کرے تو انسان اس کے جواب میں نیکی کرے اور اس کا شکرگزار ہو یہ احسان فراموشی کے مقابلے میں ایک مفہوم ہے۔ احسان مندی یعنی نیکی کے جواب میں نیکی یہ اخلاقی مسئلہ ہے بہر حال دور حاضر میں یہ بات قبول کر لی گئی ہے:

### هل جزاء الاحسان الا الاحسان (ال الرحمن ۷۰)

اس آیت میں سوال یہ انداز کا مقصد انسانی فطرت سے جواب حاصل کرنا ہے، یعنی یہ ایک فطری امر ہے کہ احسان کا صدر احسان ہی ہو سکتا ہے۔ گویا قرآن پوچھ رہا ہے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ احسان کی جزا احسان نے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ انسان جواب دیتا ہے نہیں، نیکی کی جزا نیکی ہی ہے۔

یہ اصول انسان نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کیا یہ پند و نصیحت ہے جسے معاشرتی تقاضوں نے انسان پر ٹھوں دیا ہے؟ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ اگر اجتماعی "سماجی" تقاضے بدلتے تو یہ اصول بھی تبدیل ہو جائے گا اور یہ بات پھر قابلی اخلاق "سمبی اخلاق" تک جا پہنچے گی یا پھر کیا یہ ایسا امر ہے جو انسان کی سرشت میں موجود ہے؟

خود دین اور عبادت کا مسئلہ انہی امور میں سے ہے اور کیا وہ حس جسے حس دینی کے نام سے جانا جاتا ہے جو بہر حال انسانوں کے اندر موجود ہے، کا سرچشمہ انسان کی جبلت ہے اور انسان کی سرشت باطن کا تقاضا ہے یا یہ کہ بعض دیگر عوامل کا نتیجہ ہے۔ (ایسے عوامل کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے) لہذا فطریات انسان یا انسانی فطرت کی بحث کو ہم اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ کچھ امور ایسے رہے ہیں اور ہیں کہ جنہیں آج انسانیت کا نام دیا جاتا ہے، کوئی ایسا مکتب فکر نہیں ہے جو آج کی اصطلاح میں کچھ نہ کچھ انسانی اقدار کا قائل نہ ہو۔

انسان اپنے مفادات اور فائدوں کی جستجو میں ہوتا ہے، یہ ایک منطقی امر ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے جملی تقاضوں کے پیش نظر حیات و بقاء کو پسند کرتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے جو اس کی حیات کے تسلیل میں مددگار ہو اور انسان کا اپنے فائدے کی جستجو میں رہنا ایک فطری امر ہے۔

کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو فائدے کے مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں اور مفادات کی منطق سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ فرنگیوں نے غلط طور پر ان کا نام

Value رکھا ہے، انہیں یہ نام دینے کے باعث بھی بہت سی غلط فہمیاں وجود میں آئی ہیں۔ Value's (اقدار) کی اصطلاح انہوں نے اس لحاظ سے استعمال کی ہے کہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ حقائق سے مختلف چیز ہے، لیکن انسان نے باہمی سمجھوتے سے انہیں سند عطا کی ہے اور وہ چیز جسے ہم باہمی سمجھوتے اور سند کے ساتھ اہمیت دیں۔ درحقیقت کچھ بھی نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جسے ہم ایک ہزار نوٹ کے لئے باہمی سمجھوتے سے ایک قیمت کے قابل ہیں، مثلاً اس نوٹ کو دے کر ہم دو من گندم خرید سکتے ہیں، اگر اس نوٹ کی یہ سندیت ختم کر دی جائے تو اس میں اور عام سادہ کاغذ میں کوئی فرق نہ رہے، نام اس کا کچھ بھی رکھ دیا جائے۔ جن چیزوں کو آج کل انسانی اقدار کہا جاتا ہے وہ کیا ہیں؟ کیا انسانی سرشت اور جلس میں ان کی کوئی بنیاد ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ یہ بذات خود ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز انسان کی سرشت میں موجود ہو تو پھر وہ کچھ اور مسائل اور حقائق کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد کچھ فطری جبلتوں پر مبنی ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جنہیں آج امور انسانی اور ماوری حیوانی اور جن کا نام ہم اسلامی اقدار کہتے ہیں اسلام معارف کی نظر میں ان کا سرچشمہ انسانی سرشت اور جلس میں موجود ہے۔

ہم بعد میں بیان کریں گے کہ انسان اور انسان کی حقیقی انسانیت کی جو فطری جبلتوں کو قبول کرنے کا لازم ہے۔ یہ فضول سی بات ہے کہ ہم انسان کے لئے فطری جبلتوں کو نہ مانیں، یعنی ان کے لئے انسان کی سرشت میں موجود کسی بنیاد کے قابل نہ ہوں اور انسان خالص کا بھی دم ہھریں۔

پس ہماری بعد کی گفتگو انہی انسانی اقدار اور ان کے فطری ہونے کے بارے میں ہے۔ انہی سے ہم نتائج اخذ کریں گے اور پھر ان چیزوں کو شمار کریں گے جو انسانی فطرت کا حصہ ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ اقدار کیا ہیں؟ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلامی تصنیف میں ان کے فطری ہونے کے بارے میں کیا دلائل موجود ہیں؟ ہم اس سوال کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا قرآن اور اسلامی تصنیف میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ اخلاق حسنے ایسے امور کا ایک سلسلہ ہے جو انسان کی سرشنست میں موجود ہے، ہم جائزہ لیں گے کہ کیا ہم اخلاقی مسائل کے بارے میں زیرِ نظر آیت سے فطرت کا مفہوم اخذ کرتے ہیں:

وَنَفْسٌ وَمَا سُواهَا فَالْهُمَّ هَا فَحُورُهَا وَتَقْوِيهَا  
(الشمس: ۸۶)

اس طرح اس آیت سے بھی یہ استفادہ کر سکتے ہیں:

هَلْ جَزَاءُ الْأَحْسَانِ إِلَّا الْأَحْسَانُ (آل عمران: ۱۷۰)

عموماً جب قرآن سوال کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جواب انسان کی فطرت سے حاصل کرنے، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کی سرشنست میں موجود ہیں اور ہر کوئی انہیں جانتا ہے۔

باب دوم  
انسانی فطرت

ہماری بحث کے متعلق دو سوال اٹھائے گئے ہیں، پہلے ہم ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں، پھر اصل گفتگو کو جاری رکھیں گے:

پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن نے جو معاملات نوع انسان کی زبان سے بیان کئے ہیں، کیا فطری ہیں یا نہیں؟ مثلاً قرآن مجید فرماتا ہے:

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسْوَفَ اخْرَجَ حَيَا (مریم: ۲۲)

”اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر جلد ہی مجھے زندہ نکال لیا جائے گا۔“

کیا اس آیت سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ قیامت پر اعتقاد فطری ہے؟

مجموعی طور پر یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا گھری نظر سے جائزہ لیا جانا چاہئے اور یہ دیکھا جانا چاہئے کہ قرآن کریم نے نوع انسانی کی زبان سے جو کچھ نقل کیا ہے وہ انسان کے فطری امور کا ترجمان ہے یا نہیں؟ بہر حال مجموعی طور پر یہ سوال قابل بحث اور اہم ہے۔ ضروری ہے کہ اس ضمن میں آنے والی تمام آیات کو سمجھا کیا جائے، لیکن خاص طور پر مذکورہ آیت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتداء میں یہ دیکھنا ہو گا کہ یہ قولِ انسان نوع انسان کی زبان سے ہے یا پھر کسی خاص انسان کی طرف اشارہ ہے۔ مجھے اچھی طرح سے تو یاد نہیں لیکن اختال یہ ہے کہ آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے۔ (صاحبِ مجمع البیان لکھتے ہیں کہ ”نَزَّلَ قَوْلَهُ: وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ“ مذکورہ آیات ابی بن خلف جبی اور بعض کے مطابق ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے)، یعنی کسی ایک انسان نے یہ بات کی ہے۔ قرآن

تعجب اور انکار کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ انسان ایسی بات کر رہا ہے! اگر یوں ہو تو پھر ایسا کہنا بی ن نوع انسان کا ترجمان نہیں، بلکہ کسی ایک شخص کا قول ہو گا۔ ثانیاً یہ کہ قیامت پر اعتقاد کا فطری ہونا یا نہ ہونا اس بات کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہم قیامت پر اعتقاد کو کس صورت میں بیان کرتے ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو اس شکل میں بیان کریں جس میں خود قرآن اپنی اکثر آیات میں بیان کرتا ہے۔ قیامت کا جو معنی اور مفہوم قرآن بیان کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف بازگشت ہے۔

انا لله وانا اليه راجعون

اگر قیامت کا مفہوم یہ ہو تو پھر جواب ثابت ہے، یعنی ہاں قیامت پر ایمان فطری ہے۔

لیکن عموماً اس امر کو ایک ناقص صورت میں بیان کیا جاتا ہے، جس میں اس کا حقیقی مفہوم بیان نہیں ہوتا۔ بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح ایک کار میگر کوئی چیز بناتا ہے پھر اسے توڑ دیتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے اور دوسری مرتبہ پھر سے بنانا چاہتا ہے، اسے بھی گویا ایسے ہی کرتا ہے۔ مذکورہ آیت میں جس شخص کی بات نقل کی گئی ہے، اس کا تصور بھی ایسا ہی تھا، اس کے سامنے قیامت اور معاد کا حقیقی تصور نہ تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ قیامت میں لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے مگر اس نے اس زندگی کو دنیا کی طرف بازگشت خیال کیا۔ اکثر لوگوں کا خیال ایسا ہی ہے، وہ اسے خدا کی طرف بازگشت نہیں سمجھتے اگر قیامت کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہو کہ یہ اسی دنیا کی طرف لوٹ آئے کا نام ہے تو معاد پر اعتقاد یعنی طور پر فطری نہیں، لیکن قیامت کے بارے میں ہمارا تصور حقیقت میں اللہ کی طرف

بازگشت ہو تو پھر یہ ایسا امر ہو گا جو خدا اور انسان کے درمیان ہر رابطے سے متعلق ہے۔ اس امر کے بارے میں متعلقہ مقام پر بحث کریں گے کہ یہ فطری ہے۔ کیا اپنے آپ میں کسی چیز کا پانا اس کے فطری ہونے کی دلیل ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے وجود میں فطرت کی موجودگی۔

اس بات کے لئے اپنے آپ میں فطری جبلت کا پانا کافی ہے یا کسی اور استدلال کی ضرورت ہے کیونکہ پہلی صورت میں اغراضِ خواہشات نفسانی اور جبلتوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور اصطلاحی و لفظی فرق پر انحصار کافی نہیں ہو گا۔ خلاصہ یہ کہ فطرت اور جبلت کے درمیان حد فاضل کیا ہے اور کیا یہ باہمی افہام و تفہیم کا نتیجہ ہے (مثلاً شعوری اور غیر شعوری کی صورت میں تقسیم) یا پھر کیا یہ ایک حقیقی امر ہے؟

در اصل یہ دو سوال ہیں جو ایک دوسرے کے تسلیل میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ آیا ایک امر کے فطری ہونے کے اثبات کے لئے یہ کافی ہے کہ ہم اسے اپنے وجود میں پائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم کسی چیز کے فطری ہونے کے بارے میں بحث نہیں کر رہے نہ ہی کسی چیز ہونے کی علامات بیان کر رہے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ دوسرے بالفرض اگر ایسا ہو بھی تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کہ کوئی امر ہمارے نزدیک فطری ہو اور اس کے فطری ہونے پر دلیل یہ ہو کہ اس کے فطری ہونے کو ہم اپنے آپ میں محسوس کریں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ہمارے نزدیک کچھ مسلم الشیوٰت دعووں "کلیات اولیہ" کا ایک سلسلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں "کل جزو" سے برا ہوتا ہے

اور ”جزء“ کا اپنے ”کل“ کے برابر یا اس سے بڑا ہونا محال ہے۔ اس بات کے اثبات کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلم الثبوت بات ”کلیہ“ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے مسلم الثبوت ہونے پر کیا دلیل ہے؟ یعنی خود تو یہ بات مسلم الثبوت ہے، لیکن اس کا مسلم الثبوت ہونا مفروضہ ہے یا دعویٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کہ یہ بات مسلم الثبوت ہے، بذات خود ثابت شدہ ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ اس دعوے کا مسلم الثبوت ہونا ثابت نہیں بلکہ یہ ایک مفروضہ اور قیاس ہے تو پھر اس کے لئے دلیل پیش کرنا ضروری ہے، پھر یہ دیکھنا ہو گا کہ خود ہماری دلیل کیسی ہے؟ مفروضہ ہے یا مسلم الثبوت دلیل ہے؟ اگر فرض کریں کہ ہماری دلیل قیاسی اور مفروضہ ہے تو پھر اس کے لئے بھی دلیل کی ضرورت ہو گی۔ اب اس دلیل کے لئے لائی جانے والی دلیل کو دیکھنا ہو گا کہ وہ مفروضہ ہے یا مسلم الثبوت ہے۔ اگر آخراً ہم ایک ایسے دعوے پر پہنچ جائیں جو مسلم الثبوت ہو تو پھر یہ درست ہے، لیکن اگر یہ اصول مسلم الثبوت نہ ہو تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے پاس نہ مفروضہ ہے نہ مسلم الثبوت دعویٰ، یعنی جب کوئی بات مسلم الثبوت نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں استدلال پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ اس صورت میں ہمارا استدلال ایک قیاسی اور فرضی امر پر ہو گا، یعنی اس کی بنیاد ایک مجہول ”نامعلوم“ امر پر ہو گی۔ اگر ہم چاہیں کہ ایک مجہول ”نامعلوم“ چیز کے لئے مفروضہ کو دلیل بناؤ کر پیش کریں، یعنی امر مجہول کے لئے دلیل بھی امر مجہول ہو تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک صفر کے ساتھ ایک صفر کا اضافہ کر دیا جائے کہ بجائے خود لا حاصل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

پس یہ بات عجیب نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم فطری امور کے ایک سلسلے کے حامل ہیں اور ان کے فطری ہونے کو خدا پنے آپ میں پاتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسئلے کے بارے میں بعد میں مزید وضاحت کی جائے گی۔

اس سوال کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس صورت میں "جلت"، "غیریہ"، خواہش اور ان کے مانند دیگر امور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔

اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے پہلے جو بحث کی تھی وہ لغوی تھی، یعنی ہماری گفتگو کا محور یہ تھا کہ لفظ "فطرت" جو پہلے قرآن مجید میں اور پھر علماء کی اصطلاحات میں استعمال ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی مضائقہ نہیں کہ کوئی شخص ان مسائل فطری کا نام "غیریہ"، "جلت" رکھ دے، لیکن یہ نام رکھنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بحث تو اسی جملی یا فطری امر کی ماہیت و حقیقت کے بارے میں ہے۔ اب آپ چاہے اس کا نام "غیریہ"، "جلت" رکھ لیں یا "فطرت"۔ ہماری بحث کا محور الفاظ نہیں ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ لفظ "فطرت"، لفظ "غیریہ" یا "جلت" سے مختلف ہے یا نہیں۔ بحث تو اس بارے میں ہے کہ وہ چیز ہے انسانیت (Humanity) کا نام دیا جاتا ہے اور چیز "انسانی خصوصیات" کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے وہ کبی ہے یا غیر کبی؟ (الفاظ سے سروکار نہ ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہمارے مدعای میں الفاظ کا کوئی کردار نہیں، اگرچہ ہمیں الفاظ کی بھی ضرورت ہے) اور کیا یہ خصوصیات بیرونی ہیں اور انسان پر مسلط کی گئی ہیں یا خود انسان کی ذات سے

پھوٹی ہیں؟ ہماری بحث اس کے بارے میں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیات فطری ہیں، یعنی انسان کی ذات سے پھوٹی ہیں اور انسان ایک ایسا موجود ہے کہ اس کے وجود کی گہرائی میں ان خصوصیات کا شیخ بولیا گیا ہے، اب اگر آپ اس کا نام ”غیریہ“، ”جلت“، رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں۔ یہ پھر ایک لغوی بحث ہو جائے گی، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عام طور پر ایسے موقع پر لفظ ”غیریہ“، ”جلت“ کا اطلاق نہیں کیا جاتا، نیز عام طور پر حیوانوں کے لئے لفظ ”فطرت“، ”استعمال“ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کوئی حیوانوں کے لئے لفظ فطرت استعمال کرنا چاہتا ہے تو کرے، پس ہماری بحث کوئی لغوی بحث نہیں ہے۔

اس اعتبار سے کہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان میں جو کچھ ہے وہ شعوری ہے اور حیوان میں جو کچھ ہے، غیر شعور ہے۔ اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہے کہ اس طرح کا فرق بھی موجود ہے، پس اس بات کو ہمارے لئے اعتراض کی بنیاد نہیں بننا چاہئے۔ اب ہم اپنے موضوعِ خن کے بارے میں گفتگو جاری رکھتے ہیں:

### انسان پر اسرارِ ترین موجود

کائنات کے موجودات میں سے انسان سے بڑھ کر کوئی موجود تفیر و تشریع کا محتاج نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فلسفے میں جن موضوعات پر بحث کی جاتی ہے، یعنی دنیا کے تمام فلسفے جن کے بارے میں بحث کرتے ہیں وہ ”خدا“، ”کائنات“، ”انسان“ ہیں، بعض ”کائنات“ کے بارے میں زیادہ تر بحث کرتے ہیں اور بعض انسان کے بارے میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجزاءِ عالم

میں انسان کو کیا خصوصیت اور کیا امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے کائنات اور انسان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے؟ کیا انسان کائنات سے جدا ہے؟  
ہاں! انسان کائنات کا جزو ہے، لیکن دیگر تمام اجزاء سے بہت مختلف ہے یا یوں کہئے اس میں ایسی ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ جو کائنات کی دیگر اکائیوں اور اجزاء سے زیادہ توحید و تفیر کی محتاج ہیں۔ دھات بھی ایک چیز ہے، لواہ، سونا، چاندی اور پودے کائنات کے اجزاء ہیں، لیکن یہ اس قدر تفصیل و توضیح کی محتاج نہیں کہ ضروری ہو جائے کہ ان کے لئے بہت سے مفروضے قائم کرنے پڑیں اور بہت سے نظریات و آراء پیدا ہو جائیں اور ان کی شناخت کے لئے طرح طرح کے مسائل درپیش ہوں، لہذا اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ موجودات عالم میں سے انسان پر اسرار ترین موجود ہے۔

الیکسٹر کارل نے ایک کتاب لکھی ہے، جس کا عنوان اس نے "انسان پر اسرار موجود" یا "مجھول موجود" (الانسان ذالک المجهول) رکھا ہے۔ خوب نام ہے کہ تعجب ہے کہ خود انسان نے بہت سی چیزوں کو پہچانا ہے اور اپنے سے بہت دور کی چیزوں کو اس نے شناخت کر لیا ہے اور اب وہ ان کے بارے میں اس بات کا مدعا ہے کہ اس کے لئے اب ان چیزوں کے بارے میں کچھ مجھول نہیں ہے، لیکن موجودات میں سے جو اس کے نزدیک ترین ہے، یعنی خود اپنی ذات یعنی انسان کہ جو سب کو پہچاننے والا ہے، اس کے بارے میں اس کے اسرار و رموز اور مجھولات بہت زیادہ ہیں۔

انسان کے بارے میں مجھولات میں سے ایک یہی ہے انسان کی فطرت

کا مسئلہ ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک شناخت فہم اور دریافت سے متعلق ہے اور دوسرا خواہش اور رغبت سے متعلق ہے۔

## شناخت سے متعلق انسانی فطرت

شناخت اور دریافت کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ انسان بعض فطری یعنی غیر کسی معلومات رکھتا ہے یا نہیں؟ اس وقت ہمارے ذہن میں ہزاروں تصورات اور مصدق م موجود ہیں کہ جن کے بارے میں شک نہیں کہ تقریباً تمام کسی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ حج کی ایک آیت یوں ہے:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطْوُنِ أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ  
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْسُدَةَ لِعُلْكُمْ  
تَشَكَّرُونَ (حُجَّ، ٢٨)

”اللہ نے تمہیں تمہاری ماوں کے بطنوں سے اس عالم میں پیدا کیا ہے کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور تمہیں قوت ساعت بصارت اور دل عطا کیا، تاکہ تم شکرگزار ہو جاؤ۔“

بعض نے اس آیت سے یہ معنی اخذ کرنا چاہا ہے کہ انسان کی تمام معلومات کسی ہیں اور کوئی معلومات فطری نہیں ہیں۔ آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماوں کے بطنوں سے نکلا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی تمہاری لوح دل پاک اور صاف تھی اور اس پر کوئی نقش موجود نہ تھا، تمہیں کان اور آسمانکھیں دیں اور یقیناً ان دونوں کا ذکر جو اس میں سے غمونے کے طور پر ہے،

نیز فرمایا اور تمہیں دل عطا کیا کہ جس سے مراد فکری صلاحیت ہے یعنی تمہاری لوح دل پر کچھ نہ لکھا تھا۔ یہ تو حواس کا قلم ہے کہ جو دل اور عقل کے ہاتھوں سے اس صاف و پاک لوح پر کیا کیا لکھتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے:

### افلاطون کا نظریہ

ایک اور نظریہ ہے کہ جو افلاطون کا ہے جو اس نظریے کے برعکس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ہر چیز جانتا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو نہ جانتا ہو، انسان کی روح بدن میں آنے سے پہلے ایک اور دنیا میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے بقول وہ دنیا ”دنیائے مثل“ یا ”عالم مثل“ ہے، ”مثل“ کا مفہوم اس کے نزدیک اس عالم کے موجودات کے حقائق سے عبارت ہے۔ روح انسانی نے اس دنیا میں ”مثل“ کو جانا ہے اور حقائق اشیاء تک پہنچ چکے ہیں، جب اس روح کا تعلق بدن سے قائم ہوتا ہے تو اس کے اور اس کی معلومات کے درمیان ایک طرح کا جواب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایسے شخص کی طرح ہو جاتی ہے کہ جو کوئی چیز جانتا ہوتا ہے لیکن وقت طور پر اسے بھول جاتا ہے۔ اس کے نظریے کے مطابق جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے تمام علوم مثلاً ریاضی وغیرہ جانتا ہوتا ہے، پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تعلیم و تعلم کیا ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ تعلیم و تعلم یاد آوری اور یاد دلانے کے لئے ہوتا ہے۔ معلم یاد دلانے والا ہے، معلم اس چیز کو یاد دلانے والا ہے جو معلم اپنے باطن میں جانتا ہوتا ہے۔ یہ اسے اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے، اسے وہ چیز یاد دلاتا ہے کہ جسے وہ پہلے سے

جانتا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے مکتب میں تعلیم فقط ایک طرح کی یاد دہانی ہے اور بس یہ نظریہ پہلے نظریے کے بالکل مدقابل ہے۔

### اسلامی حکماء کا نظریہ

تیرا نظریہ ہے کہ انسان بعض چیزوں کو بالفطرت جانتا ہے، البتہ ایسی چیزیں کم ہیں۔ انسانی فکر کے وہ اصول جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں، فطری اصول ہیں، جبکہ ان بنیادوں پر اٹھنے والے افکار کی عمارت کبھی ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصول فکر فطری ہیں، اس کا مفہوم افلاطون کے اس نظریے سے مختلف ہے کہ روح انسانی نے کسی اور دنیا میں انہیں یاد کیا ہے اور یہاں آ کر انہیں فراموش کر دیا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن انہیں جاننے کے لئے اسے کسی معلم، کسی متفقی استدلال یا تجربے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی انسانی فکر کی عمارت اس طرح سے ہے کہ جو نبی ان امور کو دیکھتا ہے تو انہیں سمجھ لیتا ہے اور کسی استدلال یا دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے سے انہیں جانتا ہو۔ یہ ایک اور نظریہ ہے اور عموماً حکماء اسلامی نے بھی یہی نظریہ اختیار کیا ہے، بعض خصوصیات میں اختلاف کے ساتھ ارسطو کا بھی یہی نظریہ رہا ہے۔

دور حاضر کے فلاسفوں میں بھی یہ اختلاف رائے موجود ہے، لیکن شاید موجودہ دور میں کوئی بھی افلاطون کے نظریہ کا قائل نہ ہو، البتہ اس دور میں بھی بعض فلاسفہ انسان کی کچھ معلومات کے فطری اور پیدائشی ہونے کے قائل ہیں اور

باقی معلومات کے بعد میں حاصل کئے جانے اور ان کے تجربہ کی بنیاد پر حصول کے قائل ہیں۔ اس نظریے کا سرخیل قرن حاضر میں دنیا کا معروف عظیم فلسفی ”کافٹ“ ہے، اس کی رائے کے مطابق انسان کی بعض معلومات تجربے اور حواس سے حاصل شدہ نہیں بلکہ پیدائشی ہیں، یعنی ایسی معلومات جو کہ اس کے نظریے کے مطابق انسان کی ہنی ساخت کا لازمہ ہے۔

جرمنی کے فلسفیوں میں یہ نظریہ موجود رہا ہے، لیکن انگریز فلسفیوں میں سے پیشتر کہ جو حسی (تجربیون مکتبہ فکر کے فلاسفہ) ہیں، ان کا نظریہ اس کے برعکس ہے، ان میں سے جان لاک اور ہیوم وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی لوحِ دل پر کچھ نہیں لکھا ہوتا اور انسان سب کچھ باہر سے حاصل کرتا ہے اور ہر چیز سکھنے کی ہے۔

جو کتنے میں نے عرض کیا ہے وہ تہایت ہی دلیل ہے، ہم نے اسے اصول فلسفہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ اسلامی فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ تفکر انسانی کے اولین اصول آموختی اور استدلالی نہیں ہیں اور استدلال سے بے نیاز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان اصولوں کو انسان کی ذات کا حصہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ افلاطون یا کافٹ انہیں انسانی ذات کا حصہ جانتے ہیں۔ حکماء اسلامی کا کہنا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ فکر کے ان اصولوں تک سے تبی دامن ہوتا ہے لیکن فکر کے اصول اولیہ کہ جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں، وہ تجربے کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ انسان مسئلے کے دونوں پیلوؤں کو تصور کرتا ہے، یعنی موضوع و محمول کو تصور کرتا ہے۔ انسانی ذہن کی ساخت ایسی ہے کہ

وہ فوری طور پر موضوع و محوال ”منطق کی دو اصطلاحیں“ کے درمیان رابطے کے بارے میں جتنی نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ ”کل جزو سے بڑا ہوتا ہے“ تو افلاطون یہ کہتا ہے کہ دیگر تمام مسائل کی طرح روئیں ازل سے جانتی ہیں اور کافی کہتا ہے کہ ہمارا یہ کہنا کہ ”کل جزو سے بڑا ہے“، ذہن کے فطری عناصر میں سے ہے، ایسے عناصر کہ جن کا اس کی ذہنی ساخت میں عمل دخل ہے، عناصر کے اس سلسلے کی کچھ مقدار باہر سے حاصل کی گئی ہے اور کچھ خود ذہن سے۔ اسلامی حکماء کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، یہاں تک کہ وہ مذکورہ مسئلے کو بھی نہیں جانتا ہوتا، کیونکہ ابھی تو اسے کل کا کوئی تصور ہوتا ہے نہ جزو کا، لیکن جو نبی اس کے لئے کل اور جزو کا تصور پیدا ہوتا ہے اور وہ ان دو کا موازنہ کرتا ہے تو پھر بغیر کسی دلیل، استاد اور تجربے کے یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ ”کل جزو سے بڑا ہے۔“

اس بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ معلومات کے بارے میں کسی قدر اختلاف نظر موجود ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ کیا ہم فطری معلومات رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو کیا افلاطون کے نظریے کے مطابق ہیں یا مسلم حکماء کے نظریے کے مطابق؟ اور معلومات رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ موضوع بہر حال قابل بحث ہے۔

### قرآن کا نکتہ نظر

اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

وَاللَّهُ أَخْرُجَكُمْ مِنْ بَطْوَنِ أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا  
وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتَدَةَ لِعُلْكُمْ  
تَشَكَّرُونَ (خ, ٢٨)

گویا قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی  
لوح دل ہر چیز سے پاک اور صاف ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن  
بعض مسائل کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ استدلال کی  
احتیاج نہیں رکھتے، مثلاً آپ دیکھیں کہ توحید کا مسئلہ قرآن میں میں کس طرح سے  
پیش کیا گیا ہے اور یہ آیات کس طرح سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو سکتی  
ہیں۔ قرآن کے نزدیک مسئلہ توحید کہ جس سے متعلق آیات ہم بعد میں پیش  
کریں گے ایک فطری امر ہے ایسے میں یہ بات کہ

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

”تُمْ كَجْهَنَهْ جَانَتِ تَحْتَهْ“

اور اس کے ساتھ یہ بات کہ تم اپنے باطن میں اور اپنے ضمیر میں ایک  
طرح خدا کو جانتے ہو، آپس میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس  
میں قابل جمع ہیں اور انہیں اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔

پھر یہ بھی قرآن کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ ”تذکر“ اور ”یاد ہانی“  
کا بہت ذکر کرتا ہے، بہت عجیب ہے کہ ایک طرف افلاطونی نظریے کو قرآن میں  
شدت سے رد کیا گیا ہے اور دوسری طرف قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سے فرماتا ہے ”فذكر“ یعنی ”پس“ یاد دلادیں۔ ”انما انت مذکر“ یعنی آپ تو ہیں ہی ”توجہ دلانے اور یاد دہانی کرنے والے“ لست علیہم بمحضیٰ  
یعنی آپ ان پر کوئی گران تو نہیں ہیں۔ (غاشیہ ۲۲-۲۳)

تذکر سے متعلق آیات کوئی ایک وہیں ہیں، یہاں تک کہ خود قرآن کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لفظ ”ذکر“ کا اطلاق ہوا ہے:

قد انزل الله اليكم ذكر ارسولا (اطلاق ۱)

”تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر بھیجا جو کہ رسول ہے۔“

ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی جیزوں کا بھی قائل ہے کہ جن کے لئے تذکر اور یاد دہانی کافی ہے اور ان کے لئے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً مندرجہ ذیل آیت میں استفہام اقراری ہے:

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون (زمر ۹)

”کیا جانے والے اور نہ جانے والے برابر ہیں؟“

یہ آیت قرآن کی ایک خاص روشن کی عکاس ہے، اس روشن کے مطابق قرآن مجید مسائل کو سوال کی صورت میں اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جب ایمان اور عمل صالح کی دعوت دینا چاہتا ہے تو فرماتا ہے:

ام نجعل الدين امنوا و عملوا الصالحات كا

لمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالمجاه

(۲۸)

”کیا ہم اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں  
فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دیں؟ کیا ہم متقيوں کو  
فاجر و جیسا بنا دیں؟“

یعنی ہم سوال کرتے ہیں جواب تم خود سوچو۔ (تعلیم و تربیت کے اس طریقے کو سقراطی روش کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سقراط نے اپنی تدریس و تعلیم میں یہی طریقہ اپنایا ہے۔ وہ جب کوئی بات کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا چاہتا تو سلسلہ کلام واضح ترین مسائل سے شروع کرتا اور سوال کی صورت میں کہتا، کیا یہ بات ایسے نہیں ہے یا ویسے نہیں ہے؟ کیونکہ مسئلہ واضح ہوتا تو مخاطب اسی بات کا انتخاب کرتا جو سقراط چاہ رہا ہوتا اور جو نبی وہ بات کو دھن کے روشن صفحہ پر لے آتا، تو پھر ایک نسبتاً بالآخر سوال کرتا، پھر مخاطب جواب میں وہی بات انتخاب کرتا کہ جو سقراط کی خواہش ہوتی۔ جب وہ بات واضح طور پر اس کے صفحہ ذہن پر منتقل کر دیتا تو پھر ایک اور سوال کرتا اور جواب حاصل کرتا، یہاں تک کہ ایک دم مخاطب متوجہ ہوتا ہے کہ اس نے خود سے سقراط کے مدعا کا اعتراف کر لیا ہے، بغیر اس کے کہ سقراط نے ایک کلمہ بھی کہا ہو، یعنی وہ مخاطب کے اندر سے جواب باہر نکال کے لاتا۔ چونکہ استاد فن تھا، ایک عظیم ماہر نفسیات تھا، وہ نفسیات اور ذہن و فکر کی حرکت کو پہچانتا تھا، لہذا بات کو ایسے مقدمات سے شروع کرتا کہ بغیر خود سے کچھ کہے، مخاطب کا ذہن قدم خود آگے بڑھتا چلا جاتا۔

سقراط کی والدہ دایی تھی۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی طرح دایی کا سماں کام کرتا ہوں۔ دایی کسی بچے کو دنیا میں نہیں لاتی، وہ تو زچہ ہے جو طبیعی طور پر وضع

حمل کرتی ہے۔ دایہ تو صرف ماں کی رہنمائی کرتی ہے، اس کا کام نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بچے کو پکڑے اور باہر نکال لے، یہ تو ایک ناقص کام ہے، اسے انتظار کرنا چاہئے کہ خود کار انداز میں بچہ جنم لے۔ سقراط کہا کرتا تھا کہ ایسے ہی میرا کام بھی دایہ کا سا ہے، یعنی میں وہ کام کرتا ہوں کہ ذہن فکر کی تولید کرتا ہے، جیسے ماں بچے کو جنم دیتی ہے۔ میں تو صرف ذہنوں کی مدد کرتا ہوں، تاکہ وہ نئے افکار کو جنم دیں۔)

ایسی ہی آیات کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے:

انما يَتَذَكَّرُ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ (زمر، ۹)

”صاحبان عقل خود ہی متوجہ ہو جاتے ہیں۔“

لہذا قرآن جن فطریات کا قائل ہے، وہ افلاطونی نظریات کی سی نہیں کہ بچہ جنہیں بیدا ہونے سے پہلے جانتا ہو اور انہیں ساتھ لے کر دنیا میں آئے۔ قرآنی نظریہ یہ ہے کہ ان کی استعداد ہر کسی میں موجود ہوتی ہے، اسی طرح سے کہ جو بھی بچہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ ان کے بارے میں تصور کرے تو ان کی تصدیق اس کے لئے فطری ہوتی ہے۔ یہ آیت کہ

وَاللَّهُ أَخْرُجَكُمْ مِنْ بَطْوَنِ أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ لِعْلَكُمْ

تَشَكَّرُونَ

اس امر سے کہ توحید فطری ہے اور اس مسئلے سے کہ قرآن بہت سے مسائل کو تذکرہ اور یاد ہانی کے طور پر ذکر کرتا ہے، کوئی تضاد نہیں رکھتی۔ چونکہ فطری

ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے لئے سیکھنے اور استدلال کی ضرورت نہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان اسے جانتا ہو، لہذا دونوں آیات ایک دوسرے سے کوئی تضاد نہیں رکھتیں۔ یہ تھی فطریات کے بارے میں علمی گفتگو۔

### منکرین کا نظریہ اور اس کا نتیجہ

جو لوگ مجموعی طور پر فطریات کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ انسانی فکر ثابت اصولوں کے کسی ایسے سلسلے کی حامل نہیں ہے کہ جو عقل کے انداز کا رکارکا لازمہ ہو اور وہنی ساخت کا لازمہ نہ ہو، جیسا کہ کائنٹ کہتا ہے۔ اصول فکر کے سلسلے میں ان کی باقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تناقض محال ہے (تناقض یعنی ایک دوسرے کی ضد ہونا) یعنی دو قیص (دو ضدیں) آپس میں جمع نہیں ہو سکتیں، یعنی محال ہے کہ آنے واحد میں (ایک خالت اور ایک ہی معنی میں)، درحقیقت ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ اس معنی میں کہ ایک فکر اور ایک نظریہ محال ہے کہ ایک ہی وقت میں واقع کے مطابق بھی ہو اور واقع کے مطابق نہ بھی ہو (البتہ اس مسئلے کے بارے میں فلسفہ ”ہیگل“ اور اس کے بعد ”مارکسزم“ میں کئی ایک ایسی باتیں آتی ہیں جو ہمارے موضوع بحث سے بالکل خارج ہیں اور اگر ہم ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی) یادہ کہتے ہیں دو چیزیں کہ جن میں سے ہر ایک کسی تیسرا چیز کے مساوی (براہ) ہے، وہ آپس میں بھی مساوی ہیں (یعنی اگر  $C = A$  اور  $A = B$  درست ہے تو  $B = C$  بھی درست ہے)۔

اسی طرح ”کل جزو“ سے بڑا ہے، ”ترجیح بلا مردح محال“ ہے وغیرہ یعنی

اگر ایک چیز کے بارے میں دو مخالف امکان موجود ہوں اور اس چیز کے لئے ہر دو امکان برابر ہوں تو اس چیز کا کسی ایک کی طرف جھک جانا، کسی خارجی عامل کا محتاج ہے۔ اگر کسی خارجی عامل کا عمل دخل نہ ہو تو ایک امکان سے دوسری طرف ترجیح پیدا کرنا محال ہے، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ کسی بہت اچھے ترازو کے دونوں پلڑے بالکل مساوی و برابر ہیں (اب آپ یہ نہ کہئے گا کہ ایسا حساس کوئی ترازو نہیں ہو سکتا، آخر انسان کی ساخت ہے اب چاہے یہ فرق  $1/10,000,000$  ہے)۔

کیوں نہ ہو، ہم اس فرق کو منہا کر کے حساب کریں گے۔  
 اگر کوئی عامل دخیل نہ ہو (عمل دخل نہ ہونا) تو عقل یہ بھی ہے کہ ایک پلڑے کا جھکنا یا اٹھنا محال ہے۔ اب یہ عامل ہوا کی حرکت ہو یا کسی ایک پلڑے میں وزن ڈال دیا جائے یا کسی ایک پلڑے پر کوئی چیز لگ جائے یا مقناطیسی قوت ہو یا کسی ایسے قوی انسان کا ارادہ ہو کہ عالم طبیعت پر اثر انداز ہو سکتا ہے (مثلاً ہو سکتا ہے کہ ایک پلڑے میں سے کوئی چیز کم ہو جائے، ایک زیادہ کہہنہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے کوئی چیز اس میں سے گر جائے، اس بارے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہئے کہ یہ سب عوامل میں سے ثمار ہوں گے)۔

ایسی اور بھی مثالیں موجود ہیں مثلاً ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز جو جگہ گھیرتی ہے، ایک ہی وقت میں اپنے وجود کے دو گنایا دو برابر جگہ گھیر لے یا دو جگہ پر موجود ہو، اسی طرح دو مکانی چیزیں ایک ہی وقت میں یا بیک وقت ایک مقام پر نہیں ہو سکتیں۔

یہ ایسی چیزیں ”باتیں“ ہیں کہ ان کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی مجوہلات ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔

بعض چیزوں اور امور کے لئے دلیل پیش نہیں کی جاسکتی اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ چیز اس طرح سے ہے یا نہیں، مثلاً ابعاد عالم (کائنات کی حدود) کے متعلق کہ یہ تناہی ہیں یا لامتناہی ہیں۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے ”مجھے معلوم نہیں کہ تناہی ہیں یا لامتناہی؟ کیونکہ اس کے لئے دلیل نہیں لائی جاسکتی“، یا ایک اور مشہور مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں بھی بڑا ہوتا جا رہا ہوں تو میرا قد جو پہلے ۸۰ میٹر تھا، اب ۸۱ میٹر کیوں نہیں ہے؟ وہ جواب یہ ہے، میٹر خود بھی تمہارے ہی حساب سے بڑا ہو گیا ہے۔ یہ بات کہ تمام اشیاء ایک تناسب سے بڑی ہو رہی ہیں، دلیل کے ساتھ دریافتی نہیں کی جاسکتی۔ اسی طرح اگر کوئی اس کے عکس کہے اور یہ دعویٰ کرے کہ تمام اشیاء ایک ہی تناسب سے چھوٹی ہو رہی ہیں، اس بات کی بھی نظری یا اثبات ممکن نہیں۔ یہ بھی انسان کے لئے مجوہول کے طور پر باقی رہتی ہے، لیکن یہ بات کہ یہ جسم ایک ہی وقت میں دو مقامات پر موجود ہے، اس کے لئے بھی دلیل نہیں دی جاسکتی، اس لئے نہیں کہ یہ بات مجوہلات میں سے ہے، بلکہ ایسا ہونا جھوٹ اور محال ہے۔

وہ لوگ جو اصول فکر کے فطری ہونے کے قابل ہیں، وہ ان اصولوں کو لامتغیر اور خطاؤ غلطی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم جب اس عالم میں ہیں تو بھی یہ اصول درست ہیں اور اگر ہمیں اس سے نکال کر کسی اور ماحول اور حالات

میں رکھا جائے، مثلاً کسی اور سیارے پر لے جایا جائے تو پھر بھی یہ اصول اس طرح سے رہیں گے۔

ان کے علاوہ بھی ایسے امور ہیں جنہیں ثابت تو نہیں کیا جاسکتا، لیکن ثابت ہونے کے قریب تر ہیں، وہ اسی طرح ہیں مثلاً  $2 \times 2 = 3$  دنیا میں بھی ایسے ہی ہے اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہے، اس زمانے میں بھی یہ قانون ایسے ہی ہے جب زمین آگ کا ایک گولہ تھی اور اس دنیا کی کروڑوں سال عمر گزر جائے تب بھی یہ مساوات  $(2 \times 2 = 3)$  درست رہے گی۔

اگر ہم فکر کے لئے ایسے اصولوں کے قائل ہو جائیں اور انہیں مان لیں تو پھر فروع کی اہمیت کو بھی مان لیں گے، کیونکہ ان کے فروعات کی بنیاد یہی اصول ہیں۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ خود یہ اصول بھی کبی ہیں، اس لحاظ سے کہ ایک عامل انہیں واضح اور ثابت شدہ سمجھنے کا سبب بنا ہو اور اس عال کی کیفیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم یوں خیال کریں، ہم آئینے کی طرح ہیں، جو مختلف صورتوں کے سامنے موجود ہے۔ چونکہ اس وقت ہم ان صورتوں کے سامنے ہیں اور ہمیشہ ان کے سامنے رہے ہیں اور اب انہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا ایسا محسوس کر رہے ہیں، اگر ان صورتوں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دیا جائے اور دوسری صورتیں ان کی جگہ سامنے لائی جائیں تو پھر صورت حال بر عکس ہو جائے گی۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ”کل جزو سے بڑا ہے“ تو یہ اس ماحول کے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے کہیں، ماحول تبدیل ہو جائے تو ممکن ہے کہ ہم اس کے بر عکس سوچیں اور یہ کہیں کہ ”جزو

اپنے کل، سے بڑا ہے۔ فی الحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نتیجہ کیا ہو گا، اگر ہم فکر کے لئے اصول فطری کا انکار کریں؟ تو پھر کسی ایجاد اور علم کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ تمام ریاضی علوم کی بنیاد کچھ مسلمہ اصولوں پر ہے، جو لوگ فطری اصولوں کے مکر ہیں ان کے نزدیک تو ریاضی کے ان (مسلمہ اصولوں) کی بھی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں اور یہ اصول ذہن کی مخصوص ساخت کی وجہ سے ہیں اور اگر ہماری ہنفی ساخت تبدیل کر دی جائے تو پھر ہم بھی کچھ اور کہیں گے۔ ان اصولوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم مر رخ پر رہنے لگیں تو ہماری سوچ کا انداز بھی بدلت جائے گا۔ اس نظریے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کسی فلسفے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، پس ہم ابتدائی طور پر اس سے یہ نتیجہ نکالنے ہیں، لیکن اسے ثابت نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو فکر کے لئے بنیادی اصول کے مکر ہیں، وہ حتی طور پر کسی خاص تصور کائنات کے حامل نہیں ہو سکتے، وہ کسی اپنے فلسفے کے حامل نہیں ہو سکتے کہ جس کی بنیاد پر وہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کائنات کو پہچان لیا ہے اور اصل بات یہی ہے۔

بہر حال ان کے نکتہ نظر کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خود بھی اس طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہو اور اس ٹہنی کو کاٹ رہا ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں وہ خود بھی نیچے جا گرے گا۔

اگر نادیت کے فلسفی حصی محض (حوالہ خمسہ سے قائل) ہوں تو ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں کہ وہ تمام انکار کو خاص بیرونی عوامل کا نتیجہ قرار

دیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فکر کے لئے کسی ایسے مسلم اور قطبی اصول اولیہ (بنیادی اصول) کے قائل نہیں جو اختلاف سے پاک ہو، یعنی وہ سب کچھ کہ جو ہم کہتے ہیں ان کے اصول اور فروع سب بے بنیاد ہیں اور یہ معتبر نہیں ہیں۔ اگر ان کی یہ بات درست ہو تو پھر خود یہ فلسفہ بھی جس کی عمارت اسی بنیاد پر رکھی گئی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور پھر ان لوگوں کے نزدیک کسی فلسفے کی کوئی حیثیت نہیں اور ان باتوں کا نتیجہ فلسفہ شک ہے، نفی علم اور نفی فلسفہ ہے۔ اس سے کسی خاص ازم (خاص مکتب فکر) کا اثبات نہیں ہو سکتا، اس کا نتیجہ تو پھر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں، سب ایک خاص ماحول یا حالات اور اس کے تقاضوں کا ساختہ و پرداختہ ہے۔

یہاں تک ہماری بحث کا تعلق فطریات کے اس حصے سے تھا جس کا تعلق ایجاد و دریافت سے ہے۔ ابھی تک ہم نے مختلف نظریات بیان کئے ہیں اور ان میں سے ایک نظریے کا انتخاب کیا ہے اور یہ کہ اصول تفکر فطری ہے اور ہم نے وضاحت کی ہے کہ ہم جسے فطرہ کہتے ہیں، وہ اس فطری سے مختلف ہے جو کافی افلاطون کہتے ہیں، فطری سے ہماری مراد پیدائشی آگاہی نہیں ہے۔ اس بحث سے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ علم انسانی، فکرانسانی اور فلسفہ انسانی کو اہمیت دینے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم اصول اولیہ تفکر (تفکر کے اولین اصولوں) کے فطری ہونے کو قبول کریں۔ اگر یہ اصول ہمارے پاس نہ ہوں تو ہمارے پاس شک مطلق کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا، لہذا وہ فلسفہ کہ جو اصول اولیہ تفکر (تفکر کے اولین اصولوں) کے فطری ہونے کے قابل نہیں ہیں اور ساتھ یہ بھی کہنا

چاہئے کہ ہم ایک فلسفے کے قائل ہیں۔ ان سے کہنا چاہئے کہ خود تمہارا یہ فلسفہ بھی ایک ایسی فلکر ہے کہ جس کا کوئی اعتبار اور حیثیت نہیں ہے مثلاً جو لوگ مادیت جدیاقداد مادی علم معقول (Dialectic Materialism) کے قائل ہیں اور جن کے نزدیک کائنات مادہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور صرف مادہ کے قائل ہیں اور روح کے وجود کے منکر ہیں، ان پر خود ان کے مفہوم پر اعتراض کے علاوہ یہ اعتراض بھی کیا جاسکتا ہے اور ان سے کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے اپنے فلسفے کی جو بنیاد قرار دی ہے یہ تو کوئی بنیاد ہی نہیں اور آپ تو اس شخص کی مانند ہیں کہ جو کسی درخت کی ثہنی پر بیٹھا ہوا ہو اور اسے خود درخت کی سمت سے کاٹ رہا ہو اور اس کی حالت بس ایسی ہو کہ ابھی گرا کرے گرا۔

### خواہشات سے متعلق انسانی فطرت (فطریات)

بحث کا دوسرا حصہ خواہشات سے متعلق انسانی فطرت کے بارے میں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان خواہشوں کے بارے میں کچھ فطریات رکھتا ہے یا نہیں؟ پہلا حصہ شناخت کے بارے میں تھا اور یہ حصہ خواہش کے بارے میں ہے، اس حصے کو پہلے میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے یہاں لفظ کے بارے میں بحث کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں لفظ غریزہ (جلبت) کہنا چاہئے یا فطرت یا کوئی اور لفظ، اس بات سے سروکار نہیں ہے۔ بہر حال انسان کی فطری یا جلبی خواہشات دو طرح کی ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی خواہش سے مراد وہ خواہشات ہیں کہ جو سو فیصد جسم سے وابستہ ہوں، جیسے بھوک یا پیاس،

غذا کی خواہش، بھوک کے بعد انسان میں غذا کی خواہش کا پیدا ہونا، یہ امر بالکل معدی اور جسمانی ہے اور یہ ایسی جبلت ہے کہ جو انسان اور ہر جیوان کے بدن کی ساخت سے مربوط ہے۔ اس کیفیت کے لئے قدماء نے ”بدل ماتخلل“، کی اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی جب غذا ہضم ہو جاتی ہے تو مزید غذا کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس طرح معدے میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر یہ احساس کی صورت میں انسانی شعور میں عکس انداز ہوتی ہے، چاہے انسان کو اس کا علم بھی نہ ہو کہ اس کا کوئی معدہ بھی ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کے بعد اپنے اس احساس کی تسلیکین کے لئے غذا کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ احساس بھی جاتا رہتا ہے بلکہ ایک حالت نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حالت جنسی جذبے کی ہے، جسی جذبہ جہاں تک شہوت سے مربوط ہے اور جہاں تک جسم کے Hormons اور غددوں کے ترشحات سے مربوط ہے، شک نہیں ہے کہ یہ ایک جملی (ہم نے متعدد مقامات پر لفظ غریزہ کا ترجمہ جبلت کیا ہے) امر ہے (عشق محمدؐ کے بارے میں یہ بحث ہے کہ کیا عشق اور شہوت ایک ہی چیز ہیں یا دو مختلف چیزیں ہیں اور دو انسانوں کے درمیان جو عشق ہوتا ہے اسے شہوت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ ہم فی الحال ان امور کو آپس میں نہیں ملاتے) خواہ اس کا نام فطری رکھا جائے یا نہ، یعنی یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو کبھی نہیں ہے اور انسانی جسم کی ساخت سے مربوط ہے۔ اسی طرح ”نینڈ“، بھی ہے، نینڈ کی باہیت کچھ بھی ہو چاہے یہ جسم کے خلیوں کی تھکاوٹ اور خشکی یا زیادہ کام کی وجہ سے ان کے مسموم ہو جانے (زہر آسودہ ہو جانا) یا پھر انسان کی جسمانی توانائی کے صرف ہو

جانے کے بعد دوبارہ توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو اس کی جو بھی تغیر پیش کی جائے، انسانی جسم کی ساخت سے مربوط ہے۔ ان تمام امور کو عموماً جملی امور کہتے ہیں۔

فی الحال ہماری بحث ان جملی یا جسمانی و فطری امور کے بارے میں نہیں ہے، یہ مسئلہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ انسانی خواہشات اور رحمات کے بارے میں بعض غریزے یا فطری امور ایسے ہیں جنہیں علم نفسیات "روحانی امور" کا نام دیتا ہے، ان سے پیدا ہونے والی لذتوں کو وہ روحانی لذتیں کہتا ہے۔  
 جیسے اولاد کے لئے انسان کی خواہش، اولاد کی خواہش جسی جلت سے مختلف ہے، کیونکہ جسی جلت تو تسلیم شہوت سے مربوط ہے اس خواہش سے ماوراء ہر کسی کے اندر اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اولاد ہونے سے انسان کو جو کیف و مسرت حاصل ہوتی ہے وہ ایک جسمانی لذت نہیں ہے اور انسان کے کسی عضو سے وابستہ نہیں ہے۔ رہاوہ فرق جو مہرین نفسیات نے روحانی لذتوں اور جسمانی لذتوں میں روا رکھا ہے وہ ایک الگ بحث ہے جو ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ دوسروں پر بالادستی اور اقتدار و حاکیت کی خواہش کا جذبہ بھی انسان کے اندر ایک روحانی پہلو رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی انہتہ نہیں۔ سعدی گفتہ ہے:

تیم تانی گر خورد مرد خدائی  
بذری درویشان کند نیم گر

ہفتِ اقیمِ ارگیرد بادشاہ

چھپناں در بندِ اقیمی دگر

”اگر کوئی عارف باللہ آدمی روٹی کھائے تو باقی آدمی وہ  
متاجوں کو دے دیتا ہے، جبکہ اگر کوئی بادشاہ سات ملکوں پر  
قابلش ہو جائے تو پھر بھی ایک اور ملک پر قبضہ جمانے کی  
خواہش رکھتا ہے۔“

اگر کوئی انسان خواہش اقتدار اور بالادتی کے راستے پر چل نکلے تو پھر  
اس کی کوئی انہنیں نہیں ہے، اگر ساری زمین اس کے زیرنگیں ہو جائے تو بھی اگر  
اسے معلوم ہو جائے کہ کسی اور اقیم پر بھی انسان آباد ہیں یا کہیں اور بھی کوئی تمدن  
ہے اور کہیں اور بھی اقتدار کی گنجائش ہے تو وہ اس فکر میں ہو گا کہ وہاں بھی لشکر کشی  
کرے اور وہاں بھی اپنا اقتدار قائم کرے۔ انسان کے اندر حقیقت خواہی، حقیقت  
تک رسائی، علم، دانائی، کشف حقائق، ہنر، حسن، خلاقیت، تخلیق و ایجاد، آفرینش اور  
ان سب سے بڑھ کر وہ کہ جے ہم عشق و پرستش کہتے ہیں، کا جذبہ موجود ہے۔  
ہاں حقیقی پرستش وہی ہے جو عشق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، وہ عبادتیں کہ جو لاپچ  
یا خوف کے سبب ہوتی ہیں، اسلام کی نظر میں بھی ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں یعنی  
ان کی اہمیت صرف مقدماتی اور ابتدائی ہے اور اس لئے ہے کہ بعد میں انسان  
ایک بالاتر مرحلے پر پہنچ جائے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان چھوٹے پیچ کو  
ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا لاپچ دے کر مر سے یا سکول بھیجا ہے۔ اس لئے نہیں کہ  
سکول یا مر سے میں جانا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت طے ہو سکتی ہو اور

اس کے لئے بچے کو کوئی مزدوری دی جانا چاہئے۔

درحقیقت ایسا نہیں ہے، اس چیز کی ذاتی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ بچے ابھی عقل و شعور کے مرحلے تک نہیں پہنچا ہوتا، اس لئے اس سے بہلا پھسلا کر اسے کوئی نافی یا بسکٹ دے کر یا بچوں والی سائکل خرید کر دی جائے تاکہ وہ سکول جائے۔

یہ خواہشات و رہنمائی کا ایک سلسلہ ہے، ان کے بارے میں ہم بعد میں بحث کریں گے کہ آیا یہ خواہشات فطری ہیں یا نہیں! علم اور ادراک کے حوالے سے فطریات کا انکار کر کے ہم ایک خطرناک وادی تک آپنچھتے ہیں۔ یہ خطرناک وادی شکِ مطلق ہے، شک بھی وہ جو ہمیں سو فٹائیت تک لے جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر مسلم اور ادراکِ حقیقت کی نفی تک۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواہشات میں سے کچھ بھی خواہشات فطری بھی ہیں یا نہیں۔

اس سلسلے میں بھی اسی طریقے سے بحث کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم کچھ فطری خواہشات رکھتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہم ایسی خواہشات رکھتے ہوں تو ہم کہاں پہنچیں گے اور ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ اور اگر ہم ایسی خواہشات کے حامل نہ ہوں تو ہمارے پاس کیا باقی رہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے بعض لوگ فکر کے اصول اولیہ (بنیادی) کا انکار کرتے ہیں اور اس کے باوجود اس کی شاخوں سے وابستہ ہیں؟ اس مقام پر بھی ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے کہ جو فطریات کا اور ان اصولوں کا انکار کرنے کے باوجود اور جڑوں کو کائیں کے باوجود شاخوں سے چھٹے ہوئے ہیں، پھر شاخوں سے ان کی

وابستگی بھی انہائی شدید ہے اور خود انہیں بھی خبر نہیں ہے کہ خود انہوں نے اس کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے۔ اس امر کا جائزہ لینے کے بعد پھر ہم مابعد کے سر جلے میں داخل ہوں گے، یعنی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے مرحلے میں۔

اب ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ میں علم فطريات (فطري رجحانات) کا قائل نہیں، یعنی میرا نظریہ سو فسطائی اور شک مطلق کا ہی ہے اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ خواہشات اور رجحانات میں بھی میں فطريات کا قائل نہیں اور انسانی امتیازات یکسر طور پر مانتا ہی نہیں۔ وہ مرے لفظوں میں وہ ہم سے یہ کہے کہ منطق کے ماہرین جسے جدل کہتے ہیں، تم اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، یعنی وہی امور کہ جو وہ لوگ مانتے ہیں، انہی سے کام لینا چاہتے ہو، جبکہ ہم انہیں ہرگز نہیں مانتے جنہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں یہ کہے کہ کیا ایسی صورت میں ہمارے لئے ان فطريات کا اثبات پیش کر سکتے ہو یا نہیں؟ تو ہم عرض کریں گے کہ ہاں! ہم ثابت کر سکتے ہیں اور یہ بات ثابت کرنے کے بعد دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔

باب سوم  
 مقدس (پاکیزہ) رحمات

اب ہم دو سوالوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ دونوں سوال ہماری بحث کا موضوع ہیں، لہذا ہم نے فصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا وقت ان کے جواب میں صرف نہ کریں۔ اجمالاً اتنا عرض کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح کے سوالات ہیں، ایک سوال تو خدا کے بارے میں جستجو کے فطری ہونے کے معنی سے متعلق ہے، اس سوال میں جو اکثر بہشتی کی کتاب ”خدا و دیدگاہ قرآن“ (خدا قرآن کی نظر میں) سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان جب طبعی مظاہر کو دیکھتے ہیں تو ان کی علت کی جستجو کرتے ہیں اور جب ایک علت کو پایتے ہیں تو پھر اس علت کی علت کو تلاش کرتے ہیں، اسی بات کو انسان نے آخر کار اس حد تک پہنچایا کہ علتوں کے اس سلسلے کا کسی جگہ اختتام ہونا چاہئے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ہر مظہر خود ہی کسی دوسرے مظہر کا معلوم ہو، یعنی دوسرے مظہر کے وجود میں آنے کی علت یا سبب ہو تو وہ دوسری چیز بھی تو اسی کے ماند ہے۔ مثلاً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارتقاء فکر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یوں تسلسل پیش آتا ہے کہ جو کہ مجال ہے انجام کاران کی فکر یہاں تک پہنچی کہ کوئی مرکزی نقطہ ہونا چاہئے جو ”علت العلل“ ہو اور ہر علت وہیں سے جنم لئی چاہئے۔ یہ بات مذکورہ کتاب سے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ لہذا اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ خارجی ”بیرونی مظاہر انسان کو تخلیق کے نقطہ آغاز کی جستجو پر ابھارتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اصول فلسفہ کی جلد پنجم میں جو یہ کہا ہے کہ خدا کے بارے میں بحث فطری ہے، اس کی آپ کیسے توجیہہ کریں گے؟ (کس طرح درست ثابت کریں گے؟) جبکہ بیرونی مظاہر انسان کو خدا کی جستجو پر ابھارتے ہیں۔ دوسرے مفظوں میں کیا ہم خود اس بات کو

تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ بیرونی مظاہر انسان کو خدا کے وجود کی جستجو کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تاکہ انسانی وجود کے اندر سے کوئی عامل اسے اس کے لئے ابھارتا ہے؟

میرا خیال ہے کہ آپ نے اصول فلسفہ کا بھی غور سے مطالعہ کیا ہو تو اس کا جواب وہاں موجود ہے جتنا مجھے ابھالاً یاد ہے کہ علت عامہ کے حوالے سے ایک بات ہم نے وہاں کہی ہے یعنی یہ کہ انسان جو اللہ کی جستجو کرتا ہے، اس کی علت یہی ہے کہ اصول علت اس کی روح پر حکم فرمائے، یعنی انسان علتوں کی جستجو میں ہے اور علتوں کی اسی جستجو نے اسے "علت العلل" (نبیادی علت) تک پہنچایا ہے اور اس کا بالکل یہی مطلب ہے کہ عامل وجود انسانی کے اندر موجود ہے، یعنی اگر یہ الہامی کیفیت انسان کے اندر موجود نہ ہوتی کہ وہ علتوں کو تلاش کر کے علتوں کے سرچشمہ شک چاپنے تو پھر بیرونی مظاہر کو دیکھ کر وہ ان کے پاس سے بغیر کوئی توجہ کئے گزر جاتا۔ بحث یہ ہے کہ انسان جب بیرونی مظاہر کو دیکھتا ہے تو اسے کوئی سی چیز اس پر ابھارتی ہے کہ وہ ان کی علتوں کی جستجو کرے۔ جب بیرونی مظاہر جیسا اپنے آپ کو انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں ویسا ہی جیوانوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ انسان دیکھتا ہے، جیوان بھی وہی کچھ دیکھتے ہیں، لیکن جو چیز ان بیرونی مظاہر کے دیکھنے کے بعد انسان کو ان کی علتوں کی جستجو پر ابھارتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسی حس انسان کے اندر موجود ہے، جو اسے کہنی ہے کہ ہر مظاہر اور ہر چیز کا وجود ایک علت کا محتاج ہے اور یہ لازمی بات ہے کہ اگر وہ علت بھی کسی مظاہر کی طرح کوئی اور کا مظاہر ہو اور اسی چیز کی طرح کوئی اور چیز ہو

اور وہ خود بھی کسی علت کی نیتی نہ ہو تو انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گی کہ کیا سب علتوں کا کوئی ایک سرچشمہ بھی ہے؟ ایسا سرچشمہ کہ جو اپنی علت خود ہو جو اسی موقع پذیر ہونے والی نہ ہو اور بالکل یہی فطری ہونے کا معنی ہے۔ یہ بات نہ صرف اس امر کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کی تائید کرتی ہے، اس کی تفسیر بعد کے لئے رہنے دیتے ہیں۔

دوسرा سوال فطری ہونے کی علامات کے بارے میں ہے۔ پہلے بھی ہم عرض کرچکے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم آئندہ بحث کریں گے کہ کسی خصلت کے فطری ہونے کی کیا علامات ہیں؟ ہم کہاں سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ انسان کی فلاں صفت یا فلاں خصلت فطری ہے یا بعض صفات سماجی یا انفرادی یا ہر ورنی عوامل کا نتیجہ ہیں؟

ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کہ انسان ان تمام دیگر موجودات سے کہ جنہیں ہم جانتے ہیں، یہ فرق رکھتا ہے ”اس فرق کے ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی دوسرے فرق کی نفی کریں“، کہ یہ ایک ایسا موجود ہے جو کائنات کا اور اک کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کائنات کے بارے میں سوچتا ہے، مزید برآں یہ ایک ایسا موجود ہے کہ جو سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے۔ موجودہ دور کی تعبیر میں یہ ایک آگاہ اور باشور موجود ہے، خود سے بھی آگاہ ہے اور کائنات سے بھی۔ انسان اپنی اس صفت کی وجہ سے کائنات کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا ہے کہ جنہیں ہم اور اک کہتے ہیں اور یہ کیا عمدہ لفظ ہے جو قدیم زمانے سے انتخاب شدہ ہے؟

اور اک لیٹنی "پالیتا اور پہنچنا"، فلسفیوں نے بھی اس لفظ کے لغوی بنیاد سے کام لیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کی جستجو میں ہو اور اس تک جا پہنچے تو عربی زبان میں کہتے ہیں، ادرک ہو" "پالیا"؛ مثلاً اگر کوئی شخص کسی آدمی کا پیچھا کر رہا ہو اور وہ بھاگ جائے تو اور یہ بھی اس کے پیچھے دوڑے تو یا تو اسے پالیتا ہے یا اس تک نہیں پہنچ پاتا، اگر اس تک جا پہنچے تو کہتے ہیں "ادرک ہو" "پالیا"۔

کائنات کے بارے میں انسان کی دریافت اور اور اک انسان اور کائنات کے درمیان ایک طرح کا استعمال اور رابطہ ہے، اس طرح سے کہ گویا انسان جب تک جاہل ہے، اس کے اور کائنات کے درمیان پردہ یا زکاٹ موجود ہے اور جس قدر وہ کائنات سے آگاہ ہو گا، اسی قدر وہ کائنات کو پالے گا اور اس تک پہنچ جائے گا، تو یہ ایک طرح کا پہنچنا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اس لحاظ سے جمادات، نبادات اور حیوانات میں سے کوئی بھی انسان کا شریک نہیں۔ حیوانات کائنات کے بارے میں ایک طرح کی مہم "غیر واضح" آگاہی رکھتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ آگاہی انسانی آگاہی کے برابر نہیں ہے، کم از کم یہ ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ فکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی موجود حاصل شدہ معلومات کے ذریعے ایک نئی آگاہی حاصل کرے، یعنی وہ جو کچھ جانتا ہے، اس کے ذریعے مجبولات "غیر شناخت شدہ" کو مکشف کرے۔ آپ جب کسی موضوع کے بارے میں غور و فکر کرنے بیٹھتے ہیں، مثلاً کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ فکر کرنا کون سا عمل ہے؟ یہ عمل یوں ہے کہ آپ اپنے پاس موجود

معلومات کو آپس میں اس طرح سے مرکوز کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے مجهول معلوم میں بدل جائے، یعنی ایک نئی راہ حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ عمل بالکل عالم مادہ اور عالم جسم توالد و تناصل کے مانند ہے کہ جس میں موجود ”مزکر اور مونث“ ایک دوسرے سے ازدواج کرتے ہیں اور ان کے اس ازدواج سے نیا مولود جنم لیتا ہے۔ انسان جب فکر کرتا ہے تو پہلے سے موجود معلومات کے سرماۓ کی آپس میں پیوند کاری ہوتی ہے اور اس پیوند کاری اور جفت بندی سے ان کے درمیان رابطہ وجود میں آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک نئی سورج اور ایک نئی راہ حل پیدا ہو جاتی ہے۔ حیوانوں میں یہ بات نہیں ہے، حیوان فقط حصہ رکھتا ہے اور سطحی سا مشاہدہ کرتا ہے، مثلاً ہم بھی رنگوں کو دیکھتے ہیں اور حیوان بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی حرارت کا احساس کرتے ہیں اور وہ بھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، جبکہ فکر کرنا انسان کی خصوصیت ہے۔

## انسانی خصوصیات

دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ انسان بعض رجحانات کے لحاظ سے غیر انسان سے مختلف ہے، ان رجحانات کو ایک لحاظ سے مقدس رجحانات (پاکیزہ رجحانات) کہا جاسکتا ہے۔ دوسرے لحاظ سے یہ ایسے رجحانات ہیں جو خود ”محوری“ پر مبنی نہیں ہیں، یعنی انسان ایسے رجحانات رکھتا جو ”خود محوری“ سے بالاتر ہے۔ یہ خود محوری کیا ہے؟ ایسے رجحانات جو انجام کا صرف انقلابی ہوں، ایسے رجحانات حیوانات میں ہوتے ہیں اور انسان میں بھی۔ حیوان بھی غذا کی خواہش رکھتا ہے، لیکن غذا کی

خواہش کا رجحان اور تعلق خود اسی سے ہوتا ہے، یعنی رغبت اپنے لئے حصول غذا کی خاطر۔ انسان میں بھی خود محوری پر مبنی بعض رجحانات ہیں، کیونکہ یہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ حیوان بھی ہے، بلکہ پہلے حیوان ہے، بعد میں انسان، لہذا ایسے رجحانات انسان میں بھی ہیں۔

بہر حال انسان میں کچھ رجحانات ایسے ہیں جو اولاً تو خود محوری کی اساس (بنیاد) پر نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے خمیر میں ان رجحانات کے لئے ایک طرح کی قدرامت کے احترام کا قائل ہے، یعنی ان کے لئے ایک طرح کے بلند مرتبے اور برتری کا قائل ہے۔ اس طرح جو انسان جس قدر بھی ان رجحانات کا عامل ہوگا، اس انسان کو اتنا ہی عالی تر سمجھا جائے گا۔ حیوان کے رجحانات یا تو محض خود محوری پر مبنی ہیں، مثلاً نیند اور غذا وغیرہ کی طرف رغبت یا اگر کچھ خود پروری پر مبنی تر بھی ہوں تو بھی اس کی حد بقاء نوع تک ہی ہوگی، یعنی توالد اور تناسل اور تولد افزایش نسل کی حد تک اور وہ بھی جبلت اور تحریک حیوانی (انگریزی میں اسے "Instinct" سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے دائرے میں۔ پھر ہم جبلت کی تاریخ میں آپنچھتے ہیں، یعنی حدود کے اندر یہ ایک آگاہ دانا شعوری آزادانہ اور منتخب عمل ہے اور یہ بہت زیادہ محسوس اور مشہور ہے، مثلاً ہم گھوڑی کو دیکھیں جب اس کا پچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اور جوں جوں پچے کی پیدائش کا مرحلہ قریب آتا ہے تو پچے کے لئے اس کی خواہش اتنی شدید ہوتی جاتی ہے کہ خدا ہی جانتا ہے۔ جب یہ پچہ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ اس گھوڑی پر سوار ہوتے ہیں تو وہ حرکت نہیں کرنا چاہتی، اسے اپنے پچے کی فکر ہوتی ہے اور اگر آپ اسے دو قدم دور کر دیں تو اپنا

رخ موڑ کر بچے ہی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کی طرف بھاگتی ہے۔ اس بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کی ماں کی طرف رغبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر گھوڑی کی طرف اس کا کوئی رجحان نہیں ہوتا، مثلاً اگر کوئی گھوڑی سات سال کی ہو اور اس کا بچہ دو سال کا ہو اور جب ماں اسے دیکھے تو بچے کے جوان ہونے کی وجہ سے اسے ایک طرح کی لذت محسوس کرنا چاہئے، جبکہ وہ اس کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتی اور اگر وہ اس کے قریب آئے تو وہ اسے دولتی مارتی ہے اور اسے ٹھکرایتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ (معلوم نہیں کہ فردوسی کے زمانے کے گھوڑے اور مرد کس طرح کے تھے کہ اس نے لکھا ہے:

”سہ بیج سال اسپ و سہ دہ سالہ مرد“

اب تو ۲۰ سال کے مرد بوڑھے ہوتے ہیں اور ۳۰ سال کے گھوڑوں کا تو سرے سے ہی وجود ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلت صرف اس بچے کی حفاظت کے لئے تھی، یعنی صرف اس لئے کہ نسل جاری رہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ تھی۔ اب جبکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے اور اپنی ماں کی طرح کا ہو گیا ہے تو اب ماں کی نظر میں اس میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔

حیوانات کی بھی سماجی زندگی ہوتی ہے، لیکن ان کا عمل آزادی انتخاب کے ذریعے نہیں ہے بلکہ انقلابی ”منصی“ ہے، یعنی طبیعت کی طرف سے وہ اس کام کے لئے منتخب ہوئے ہیں اور اپنا کام جری طور پر انجام دیتے ہیں، اس لئے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ مثلاً شہد کی کھیاں یا بعض چیزوں میں سماجی زندگی رکھتے

والے جانوروں میں شمار ہوتی ہیں، اس طرح ہر بھی کسی حد تک سماجی زندگی (Social Life) برقرارتا ہے، البتہ اس کا عمل بھی جملی ہوتا ہے، یعنی خود بخود اور نیم شعوری کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ ان کے اپنے انتخاب کے ذریعے یعنی شروع ہی سے ان کی طبیعت میں یہ سب کچھ موجود ہے اور یہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہ کیفیت ہے حیوانات کے رحمانات کی۔

لیکن انسان جو رحمانات رکھتا ہے، اولاً تو ”خود محوری“ کے ساتھ ہی ہم آہنگ نہیں ہیں اور اگر اس حوالے سے ان کی توجیہ ”وضاحت“ کی جائے تو یہ تمام تر پہلو محل بحث اور ناقص ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک انتخابی شکل اور آگاہانہ شعوری صورت ہو گی، بہر حال یہ ایسے امور ہیں کہ جو انسانیت کے معیار اور احتیاز کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی دنیا کے تمام مکاتب فکر چاہے وہ الی ہوں، مادی ہوں یا ”سوفاطائی“، شکاک ”شک پر بنی فلسفہ“ یا کوئی اور ”Sceptic“ ”دہریہ“ سب انسان کے بارے میں ایسے امور کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ”ما فوق الحیوانی“ نفوذ ہوتے ہیں۔ پہلے ہم ان امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد اس سامرا کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ امور انسان کے لئے فطری ہیں یا نہیں؟ نیز یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ فطری نہ ہوں تو نتیجہ کیا ہو گا اور فطری ہوں تو پھر کیا نتیجہ ہو گا؟ بعد ازاں ان کے فطری ہونے یا نہ ہونے کے دلائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

## محسوی فطريات

### ۱۔ حقیقت کی تلاش

یہ رہنمائی کے جنہیں کبھی "مقدسات" (قابل ادب و احترام) بھی کہا جاتا ہے، اجمالاً پانچ قسم کے ہیں یا کم از کم ہم ابھی ان کی پانچ اقسام کو جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک "حقیقت" ہے، "حقیقت" کی اصطلاح کو ہم "دانائی" یا "دریافت حقیقت کائنات" بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان میں ایک ایسا رہنمائی موجود ہے کہ حقائق جیسے کہ وہ ہیں ان کے کشف کرنے کا رہنمائی حقائق اشیاء کا ادراک "کما ہی علیہا" یعنی جیسے وہ حقیقت میں ہیں یہ کہ انسان "حیات ہستی"، "عالم وجود" اور اشیاء کو ان کی حقیقی ماہیت کے مطابق دریافت کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منسوب دعاوں میں سے ایک میں آپ فرمایا کرتے تھے:

اللهم ارنا الاشياء كما هي

"یا اللہ! ہمیں اشیاء کو دیساہی دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔"

جسے حکمت اور فلسفہ کہتے ہیں، بنیادی طور پر اس کا ہدف یہی ہے۔ انسان جو فلسفہ کی طرف آیا ہے تو اصولی طور پر اس کی بنیاد یہی حس ہے کہ وہ حقیقت اور حقائق اشیاء کو جانا چاہتا ہے، اس حس کا نام ہم "حس فلسفی" بھی رکھ سکتے ہیں؛ چاہے ہم اسے حقیقت جوئی کہیں یا مقولہ حقیقت کا نام دیں یا عنوان فلسفی کے تحت دیکھیں یا اسے دانائی کے زمرے میں قرار دیں۔ ایک جملہ ہے کہ جو بوعلی

سینا نے استعمال کیا ہے اور یہ تعبیر استعمال کرنے والا وہ قدیم ترین شخص ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے ایسی تعبیر کا وجود تھا یا نہیں، البتہ بعد میں شیخ اشراق اور دیگر افراد نے اسے استعمال کیا ہے۔ فلسفے کے مقصد اور ہدف و غایت کے نتیجے کے اعتبار سے فلسفی کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے:

صیروۃ الانسان عالما عقلیا مضاہیا للعالم العینی

یعنی فلسفی بنے کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اس عالم مادی و ظاہری ہی کی ماتندا ایک "عالِم عقلی" بن جائے یعنی اس "عالِم عینی" اور مادی کو اس طرح سمجھے اور دریافت کرے کہ جس طرح وہ حقیقت میں ہے اور بعد میں وہ خود ایک کائنات بن جائے، لیکن وہ عالم بیرون عالم عینی سے خارج ہو گا، اگرچہ یہ عالم جدید وہی جہان عینی "عالِم مادی" ہے، البتہ یہ اس کی عقلی صورت ہے۔

یہ حقیقت اور حقیقت جوئی، فلاسفہ کی نظر میں انسان کا کمال فطری ہی ہے انسان جملی اور فطری طور پر کمال فطری کا طالب ہے، یعنی حقائق جہان کو جاننے کا مثلاشی ہے۔ اس طرح کے رجحانات انسان میں حقیقت عالم تک رسائی کے لئے موجود ہیں۔

علم نفسیات میں بھی اس پر حسی حقیقت جوئی یا حسی جستجو کے نام سے بحث کی جاتی ہے۔ جب کسی مسئلے کو ایک وسیع سطح پر پیش کیا جاتا ہے تو اس کا نام "حس کاؤش" یا "حس جستجو" رکھا جاتا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دو یا تین سال کے پھر تک میں موجود ہوتی ہے، البتہ مختلف پھر میں مختلف سطح کی ہوتی ہے۔ پچھے جب تین سال کا ہوتا ہے تو طرح طرح کے سوال پوچھتا رہتا ہے، تعلیم و تربیت میں

ماں باپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب دیں اور انہیں جھڑک نہ دیں۔ نادان اور بے توجہ ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا تین چار سالہ بچہ ہمیشہ سوال ہی کرتا رہتا ہے تو وہ اسے ایک فضول حرکت قصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ”خاموش ہو جاؤ“ کیا فضول سوال جواب کر رہے ہو، البتہ ایسا طرز عمل غلط ہوتا ہے۔ یہ خس سوال ہے، تلاشِ حقیقت کی خس ہے، خس حقیقت جوئی ہے، جو اس میں ابھی اٹھی اور پاپا ہوئی ہے اور وہ پوچھتا ہے اور حق رکھتا ہے کہ پوچھئے، یہاں تک کہ اگر وہ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھے کہ جس کا آپ جواب نہ دے سکیں یا جس کا جواب وہ سمجھنہ سکے، تب بھی اسے ڈانٹا، جھڑک دینا یا اس کی اس خس کو دبا دینا درست نہیں ہے اور اس کا یہ جواب نہیں کہ خاموش ہو جاؤ، جس قدر ممکن ہواں کا جواب دینا چاہئے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی بہت سی شرارتیں اسی خس کی وجہ سے ہیں، گیونکہ بچے کا شرارتی ہونا بھی ایک مسئلہ ہے، جس چیز تک بھی پہنچتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے، کبھی اس چیز کو اس پر مارتا ہے، کبھی اس کو اس پر گراتا ہے، کیا انسان فطرتا شرارتی ہے؟ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو کیا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اس خس ”حقیقت شناسی“ کا نتیجہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے یعنی کسی چیز کو اس پر مار کر دیکھئے کیا ہوتا ہے؟ اب ہم جو ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ اس لئے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم باہم تحریر کر رکھے ہیں، الہذا ہمارے لئے مسئلہ حل شدہ ہے، لیکن اس کے لئے یہ مسئلہ ابھی واضح نہیں ہے۔ انسان کے اندر سوال پیدا ہونا اپنی جگہ ایک اہم مسئلہ ہے، فلاسفہ اس کو ایک بالاتر سطح پر پیش کرتے ہیں،

ماہرین نفیات اس کو عمومیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ بچے کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، بہر حال انسان حقیقت اور حقائق کو جاننے کا رجحان رکھتا ہے۔ ابو ریحان بیرونی کا ایک معروف واقعہ ہے جو شاید آپ نے سنा ہو۔ وہ مرغ الموت میں بتلا تھے، ان کا ایک ہمسایہ فقیہ تھا، وہ ابو ریحان کی عیادت کے لئے آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بستر پر پڑے ہیں اور روپہ قبلہ لیٹھے ہوئے ہیں اور زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں۔ ابو ریحان نے اپنے ہمسائے سے وراشت کا ایک شرعی مسئلہ پوچھا۔ اس فقیہ کو تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کون سا وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ ابو ریحان کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ میں مر رہا ہوں، لیکن آپ سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں، اگر میں اس مسئلہ کا جواب جان کر مر جاؤں تو بہتر ہے یا نہ جانتے ہوئے مر جاؤں تو بہتر ہے؟ واضح ہے کہ جان کر مرنा بہتر ہے..... ابو ریحان کہنے لگا پھر اس کا جواب بتائیں؟ تو اس نے جواب دیا۔ اس فقیہ کا کہنا ہے کہ میں ابھی واپس اپنے گھر نہ پہنچا تھا کہ ابو ریحان کے گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بہر حال یہ انسان میں موجود ایک حس ہے، جنہوں نے اپنی اس حس سے کام لیا ہے اور اسے زندہ رکھا ہے، وہ اس مرحلے تک جا پہنچتے ہیں کہ کشف حقیقت کی لذت ان کے لئے ہر دوسری لذت سے بڑھ کر ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں لذت علم ان کے لئے ہر لذت سے بالاتر ہوتی ہے (اس کیوضاحت اس لئے زیادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ جان لیں کہ یہ انسان کے بارے میں ایک حقیقت ہے اور اس کا تخلیل و تصریح بہت ضروری ہے۔ میں قبل ازیں یہ کہہ چکا ہوں گے انسان کا موضوع دوسرے ہر موضوع سے زیادہ توضیح و تفسیر کا

محتاج ہے)۔

ججۃ الاسلام سید محمد باقر شفیقی اصفہانی مرحوم کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہمارے قدماء نے نقل کیا ہے اور بالکل ایسا ہی واقعہ پاپچر کے بارے میں بھی ہے۔ جناب سید باقر مرحوم کی شب زفاف تھی، جب دہن کا ہاتھ دہنا کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور پھر عام طور پر عورتیں دہن کو جملہ عروی (وہ خاص کرہ جو دہن کے لئے آرستہ کیا جاتا ہے) میں لے جاتی ہیں، اس وقت جناب سید محمد باقر کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے تاکہ جب عورتیں چلی جائیں تو پھر دہن کے پاس جائیں، تو انہوں نے سوچا کہ موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اور مطالعہ کیا جائے، انہوں نے مطالعہ شروع کر دیا۔ عورتیں چلی گئیں، دہن بیچاری تنہا بیٹھی رہی، بہت انتظار کیا کہ دوہما میاں آ جائیں، مگر وہ نہ آئے۔ سید محمد باقر جب متوجہ ہوئے تو وقت سحر تھا، یعنی علم کی کشش نے انہیں اس طرح سے جذب کر لیا کہ وہ سہاگ رات کو اپنی دہن کو بھول گئے۔

پاپچر کے بارے میں بھی ایسا ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی بھی شب عروی تھی، ایک گھنٹہ دہن کے پاس جانے میں باقی تھا، اسے موقع مل گیا اور وہ اپنی لیبارٹری میں چلا گیا اور ایسا مصروف ہوا کہ صبح تک وہیں کام میں مگن رہا اور بھول گیا کہ یہ تو اس کی سہاگ رات تھی۔

آب یہ کیا ہے؟ یہ حقائق ہیں، یہ حس کم و پیش سب انسانوں میں موجود ہوتی ہے، البتہ دیگر حسنوں کی طرح کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ نیز یہ بات اس امر سے مر بوط ہے کہ انسان نے اسے کس حد تک پروان چڑھایا ہے، لہذا انسان کو علم

اور جانے کی وجہ سے غیر انسان پر ترجیح دی جاتی ہے۔  
انگلستان کا مشہور اور ہر دن بزرگ فلسفی استوارٹ کہتا ہے:  
”اگر انسان دانا ہو اور مفلس ہو تو وہ اس حق سے بہتر ہے  
کہ جو خوشحال ہو ایک رنجیدہ و بے حال سقراط کو ایک موٹے  
سکور پر ترجیح حاصل ہے۔“

ایسی سب باتیں انسان کے حقیقت کے مثالی ہونے کی اہمیت کو واضح  
کرتی ہیں، کیونکہ دنائی کا آخر کار کیا معنی ہے؟ یہی آگاہی کائنات کی تہہ تک  
پہنچنا، دنیا کو سمجھنا اور جاننا۔

## ۲۔ نیکی و فضیلت کی طرف رجحان

انسان میں ایک اور بھی رجحان ہے کہ جسے نیکی و فضیلت کی طرف  
رجحان کہا جاسکتا ہے۔ یہ رجحان اخلاقی پہلو کا حامل ہے، یہ وہی ہے کہ جسے ہم اپنی  
اصطلاح اور روزمرہ میں اخلاق کہتے ہیں۔ انسان بہت سی چیزوں کی جانب رغبت  
رکھتا ہے، اس لئے کہ وہ اس کے لئے فائدہ مند اور منافع بخش ہیں۔ انسان دولت  
سے رغبت رکھتا ہے، اس لئے کہ وہ اس کے لئے منافع بخش ہے، اس کی مادی  
ضروریات کو پورا کرنے کے لئے یہ ایک ذریعہ ہے۔ اپنے فائدے اور منافع کی  
طرف انسان کی رغبت خود مجبوری اور خود خواہی ہے، یعنی انسان ایک چیز کی طرف  
رجحان رکھتا ہے کہ جسے وہ اپنے لئے حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے سلسلہ  
حیات کو جاری و ساری رکھ سکے (البتہ ایک زندہ موجود کا اپنی زندگی کی بقاء کی

طرف رجحان کیا ہے؟ اور اس میں کیا راز ہے؟ یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے)۔ اس سطح تک تو اس بات کا تجربہ کسی حد تک آسان ہے، لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ انسان ان کی طرف رجحان رکھتا ہے، اس لئے نہیں کہ یہ اس کے لئے فائدہ مند ہیں، بلکہ اس لئے کہ وہ عقلی اعتبار سے فضیلت و نیکی کے زمرے میں آتے ہیں۔ خیرخواہی حسی ہے جبکہ فضیلت غیر عقلی ہے، فضیلت مثلاً انسان کا سچائی کی طرف رجحان، اس لحاظ سے کہ وہ سچائی ہے، اس کے مقابلے میں جھوٹ سے نفرت، اسی طرح انسان کا تقویٰ اور پاکیزگی کی طرف رجحان۔ مجموعی طور پر وہ تمام رجحانات جن کا شمار فضیلت میں ہوتا ہے، وہ قسم کے ہیں، بعض انفرادی ہیں اور بعض سماجی، انفرادی مثلاً ذاتی نظم و ضبط، نفس پر قابو رکھنا اور اسی طرح اور بہت سے انفرادی اخلاقی کے مفہایم، یہاں تک کہ شجاعت بھی کہ جو بزرگی کے مقابلے میں ہوتی ہے، اس سے مراد زور بازو نہیں کیونکہ وہ اخلاق کی تعریف سے باہر ہے۔ سماجی رجحانات مثلاً دوسروں کے ساتھ تعاون اور ان کی مدد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی معاشرتی یا سماجی کام کی انجام دہی۔ احسان اور نیکی کی طرف رغبت اور قربانی کا رجحان ذاتی مفاد کے مفہوم میں نہیں آتا، کیونکہ قربانی کا جذبہ یعنی اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہاں تک کہ اپنی جان سے گزر جانا۔ اسی طرح ایشارگی طرف رجحان:

وَبِوَثُورُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ

”وہ ایشارگرتے ہوئے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے“

جبکہ وہ خود ضرورت مند ہیں۔ (حشرہ)

و يطعمن الطعام على جبه مسكينا و يتيمما و اسيرا  
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا  
شكورا

”وہ اللہ کی محبت میں مسکین، متیم کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور یہ  
کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اللہ کے لئے کھلایا ہے اور ہم تم سے  
کسی جزا (بدلہ) اور شکریہ کے خواہش مند نہیں ہیں۔“  
(انسان ۹۸)

### ۳۔ حسن و جمال کی طرف رجحان

انسان میں حسن و جمال کی طرف رجحان موجود ہے۔ اب یہ چاہے حسن  
پسندی کے لحاظ سے ہو چاہے تخلیق حسن کے حوالے سے کہ جس کا نام فن و هنر  
(Art) ہے۔ یہ بھی انسان کے اندر موجود ایک رجحان ہے اور کوئی شخص بھی اس  
احساس سے عاری نہیں ہے۔ انسان اگر لباس بھی پہنتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ  
تاحد امکان وہ اسے اچھا لگے۔

جب انسان ایک عمارت تعمیر کرتا ہے، پہلے مرحلے میں تو گرمی و سردی  
سے نچنے کے لئے، اسی طرح سے چور وغیرہ سے حفاظت کے لئے بناتا ہے، لیکن  
ہمیشہ اس کی تعمیر میں اپنی حسن پسندی کو آمینتہ کر لیتا ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ  
خواہش ہوتی ہے کہ عمارت دیکھنے میں بھلی لگے، فریج پر اچھا ہو، کروں میں قابیں  
خوبصورت ہوں۔ یہ تمام ترزیباتی اور حسن کی طرف رجحان انسان کے اندر موجود

ہے۔ انسان خوبصورت قدرتی مناظر کو پسند کرتا ہے، جب صاف و شفاف پانی کو دیکھتا ہے یا جب کسی آبشار پر اس کی نظر پڑتی ہے یا کسی دریا کو دیکھتا ہے تو وہ لطف انداز ہوتا ہے، چنانچہ وہ قدرت کے خوبصورت مناظر سے محفوظ ہوتا ہے۔ انسان کی طرف اس کی نظر اٹھتی ہے، افق کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کا نظارہ کرتا ہے، تو ان سب چیزوں سے وہ لطف انداز ہوتا ہے، یہ چیزیں اسے بھلی لگتی ہیں۔ اسی طرح سے فن و هنر (Art) کا مسئلہ ہے اور یہ وہ حسن ہے کہ جو انسان خود تخلیق کرتا ہے۔ وہ چیزیں کہ جنہیں قدیم زمانے سے فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، جیسے خطاطی ہے، جو بہت قدیم فن ہے۔ بہت خوبصورت خطاطی کی انسان کے لئے غیر معمولی اہمیت ہے، اسے وہ محفوظ رکھتا ہے، کسی نہایت دیدہ زیب خط میں لکھا گیا قرآن اگر انسان نے دس مرتبہ بھی دیکھا ہو تو گیارہویں دفعہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ بھی دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں رہتی ہے۔

ہمارے والد مرحوم رضوان اللہ علیہ کہ جن کا اپنا خط بھی خوب تھا، انہیں خطاطی سے بہت لگاؤ تھا، کہا کرتے تھے کہ بہت خوبصورت خط میں کوئی قرآنی نسخہ میرے ہاتھ میں ہوتا میں اس کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے خط اور حسن میں ایسا کھو جاتا ہوں کہ پڑھنیں پاتا۔ روضہ امام رضا علیہ السلام میں ایوانِ تصورہ کے باہر ایک کتبہ لکھا ہے، دیدہ زیب خط کا یہ ایک فن پارہ ہے۔ یہ ایک بڑا سا کتبہ ہے جو ایوان کی پیشانی پر لگا ہے، اسے بالیسفہ نے جو گوہر شاد کا بیٹا تھا، لکھا ہے۔ اس نے خود اسے کتبے کے آخر میں لکھا ہے:

کتبہ بایعنقر بن شاہ رخ بن امیر تیمور گور کان

گوہر شاد شاہ رخ کی بیوی تھی، بائیسفر اس کا بیٹا تھا۔ اس کا یہ کتبہ خط نہت میں ہے۔ بائیسفر کا خط بے مثال ہے، اس سے پہلے کسی نے خط نہت میں ایسی تحریر پیش کی ہے، اس کے بعد کوئی اس جیسا لکھ سکا ہے، حالانکہ علی رضا عباسی ایک ایسا خطاط گزر ہے کہ جو شاہ عباس کے زمانے میں تھا اور غیر معمولی طور پر اچھا خطاط تھا، اس کے خطاطی کے فن پارے آج بھی اصفہان یا پھر قم (ایران کے دو اہم شہر) میں شاہ عباس کے مقبرے میں موجود ہیں کہ جو نہایت دیدہ زیب ہیں، لیکن اس کے باوجود بائیسفر کے پائے تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن بذات خود الہی نشانیوں میں سے ایک ہے، اس کا اپنا ہی حسن ہے، یعنی فصاحت و بлагعت ہے اور قرآن کو عالمگیر کرنے کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک ہے، اس کا عامل زیبائی یعنی فصاحت و بлагعت مجزنمہ ہے۔

غرضیکہ حسن کی طرف رجحان اور خوبصورتی کے مظاہر کی طرف گشش بھی انسان کے رجحانات میں سے ہے۔

### ۲۔ تخلیق اور ایجاد کا رجحان

چوتھے نمبر پر تخلیق و ایجاد کا رجحان ہے، انسان میں چیزوں کو ایجاد کرنے کا رجحان موجود ہے۔ ایسی اشیاء جو وجود نہیں رکھتیں، انسان چاہتا ہے کہ انہیں وجود میں لائے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ انسان نے اپنی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لئے صنعت و حرفت اور ایجاد و ابداع کا کام کیا ہے، لیکن جس طرح علم انسان کے لئے زندگی اور معاش کا ذریعہ بھی ہے اور بہت خود مطلوب و

مقصود بھی ہے ایجاد و تخلیق کی بھی یہی صورت ہے۔ آج کل اس مسئلے پر بہت بحث کی جاتی ہے کہ آیا علم برائے علم ہے یا علم برائے زندگی ہے؟ جواب یہ ہے کہ دونوں مطلوب ہیں، یعنی علم انسان کے لئے مطلوب بالذات بھی ہے اور مطلوب باغیر بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علم بالذات بھی مطلوب ہے اور انسانی مشکلات کو حل کرنے کے لئے ایک ذریعہ کے طور پر بھی۔ اس اعتبار سے کہ علم دریافت اور کشف ایک حقیقت ہے، مطلوب بالذات ہے اور اس لحاظ سے کہ یہ ایک طاقت و توانائی ہے۔ بقول۔

تو انہا بود ہر کہ دانا بود

”جو صاحب علم ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔“

زندگی کی مشکلات حل کرنے کا ذریعہ ہے، مطلوب باغیر ہے، تخلیق و ابداع بھی اسی طرح ہے۔ آپ نے طلبہ کے بارے میں مشاہدہ کیا ہو گا اور جانتے ہوں گے کہ جب ایک طالب علم کوئی چیز تخلیق یا ایجاد کرتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ میں ایک خاص حیثیت کا احتساب کرتا ہے۔ جب آپ اسے کوئی دستکاری کا کام کرنے کے لئے دیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے ایک نئی چیز تخلیق کرنے مجموعی طور پر ابداع و ایجاد جس شعبے میں بھی ہو ایک قسم کی تخلیق ہے۔ بعض افراد کو آپ کہتے ہیں کہ وہ تخلیقی امتیاز و صلاحیت رکھتا ہے، یعنی طرز تدریس میں اس کا امتیازی اور بے مثال اسلوب ہے۔ دیگر اشخاص ممکن ہے فقط دوسروں کی روشن اور اسلوب کی پیروی کریں، لیکن اس کے عکس بعض افراد یہ صلاحیت ملکہ اور طاقت رکھتے ہیں کہ ایک نئی روشن تخلیق

کریں۔ مجموعی طور پر اجتماعی پروگراموں، مملکت کو چلانے کے طور طریقوں، شہری مخصوصہ بندی اور وہ امور جن میں بلدیہ کے لئے منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح کتب کی تالیف و تصنیف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ موجود اور نوا آور ”خلاق“ جبکہ بعض دیگر مخفی پسراںی روشن کی تقلید کرتے ہیں، بالخصوص کتابوں میں یہ تقلیدی پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ مشہور ضرب المثل ہے کہ ”چھپی ہوئی کتابوں کو پھر سے کتابت کرتے ہیں اور کتابت شدہ کو پھر چھاپ دیتے ہیں“، یعنی چھپی ہوئی کتابوں میں سے بعض باتیں اخذ کرتے ہیں اور تو دین کر لیتے ہیں اور اس کو دوبارہ چھاپ دیتے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ یہ کام تخلیقی نہیں ہے، لیکن بعض افراد کی کتابیں تخلیقی ہیں اور انسان میں بیرون جان موجود ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تخلیق کا رہ ہو۔ نظریات میں معاملہ اس سے بالاتر ہے کہ کوئی شخص ایک نظریہ کی تخلیق کرتا ہے، بعد میں اسے ثابت کرتا ہے، دوسرے لوگ اس کے نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ خود اپنی جگہ پر ایک طرح کی قدرت اور صلاحیت ہے، مثلاً وہ شخص کہ جس نے ”جوہری حرکت“ کے نظریے کی تخلیق کی، بعد میں اس کو ثابت کیا اور اب دوسرے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ البتہ بعض اوقات یہ دو تین رہ جان آپس میں مل جاتے ہیں، مثلاً جب کوئی حافظہ کی طرح اشعار کی صورت میں ایک نئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اس نے ایک ہی وقت میں دو کام سرانجام دیتے ہیں، ایک یہ کہ وہ ایک نئی چیز کو وجود میں لایا ہے اور تخلیقی حس کی تشکیل کو بجا یا ہے اور دوسرا یہ کہ چونکہ ایک خوبصورت اور حسن چیز کو یعنی خوبصورت شعر کو معرض وجود میں لایا ہے، اپنی ”حس زیبائی“ کے شوق کو بھی اس نے سیراب کیا ہے اور ممکن ہے کہ اس کی

”تلash حقیقت“ کی حس کو بھی تسلیم حاصل ہوئی ہو۔

## ۵۔ عشق و عبادت

پانچویں چیز کا نام ہم نے عشق و عبادت رکھا ہے البتہ ہم ابھی اپنی پہلی بات کی طرف آتے ہیں۔

ہم نے کہا کہ اس کائنات میں کوئی موجود بھی ایسا نہیں ہے جو انسان سے زیادہ تشریح و توضیح کا محتاج ہو۔ چونکہ انسان میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو غیر انسان میں موجود نہیں اور اس میں ایسی پیچیدگیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کی تشریح آسان کام نہیں بلکہ انتہائی دشوار ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو ”عالم صغیر“ یعنی ”چھوٹی کائنات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی انسان بذات خود ایک کائنات ہے۔ عرفاء ”عارف بالله“ اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ انسان ”عالم صغیر“ ہے وہ کہتے ہیں کہ کائنات عالم صغیر ہے جبکہ خود انسان ایک مکمل کائنات ”عالم اکبر“ ہے۔ مولوی کہتا ہے:

چیست اندر خانہ کا اندر شہر نیست

چیست اندر جوئی کا اندر نہر نیست

”گھر شہر کا جز ہے جو کچھ بھی گھر میں ہے یقیناً شہر میں پایا جاتا ہے لیکن ممکن ہے کہ شہر میں بعض چیزیں ایسی ہوں جو گھر میں نہ پائی جاتی ہوں۔“

”اس طرح جو کچھ ایک چھوٹی سی ندی میں ہے دریا میں یقیناً

وہ پایا جاتا ہے۔“

اس کے بعد متوجہ اخذ کرتے ہوئے کہتا ہے:

این جہان جوی است دل چون نهر آب

این جہان خانہ است دل شہری عجاب

”یہ جہان“ کائنات ”چھوٹی سی ندی کے مانند ہے اور دل

دریا ہے۔ یہ جہان ”کائنات“ گرفتار کی طرح ہے اور دل

عجائبات کے شہر کی مانند۔“

یعنی اس کے برعکس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دل گرفتار کی مانند ہے اور کائنات

ایک شہر کی طرح۔

میرا مقصد انسان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ انسان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تشریح کی محتاج ہیں اور انسان کو غیر پیچیدہ اور مخلوق اور سادہ سمجھنا غلط فہمی ہے، جبکہ بہت سے اس غلطی کے مرتكب ہوئے ہیں، فی الحال وہ موضوع کہ شاید جس کی وضاحت زیادہ ضروری ہے ”عشق و عبادت“ ہے اور درحقیقت خود ”عشق“ ہی تشریح طلب ہے۔ انسان میں عشق کا ظہور خود ایک عجیب و غریب اور دشوار مسئلہ ہے کہ جو بہت زیادہ تشریح کا محتاج ہے۔ بعض لوگ ”عشق“ کو ایک طرح کی شہوت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عشق جنسی جلت کی ہیجانی کیفیت کا نام ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی اس کی ابتداء جنسی جذبہ ہے اور انتہاء بھی بھی ہے۔ دوسرے نظریے کے قائل لوگ کہتے ہیں کہ عشق جنسی جذبے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں لطیف احساس میں تبدیل ہو جاتا ہے

اور جنسی جذبہ ختم ہو کر ایک روحانی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ جو بنیادی طور پر دو قسم کے عشق کا قائل ہے، ایک جسمانی عشق کہ جس کی ابتداء بھی جسمانی اور انتہاء بھی جسمانی ہے اور دوسرا روحانی عشق جس کی ابتداء بھی روحانی ہے اور انتہاء بھی روحانی ہے۔

عشق خصوصاً جہاں عبادت و پرستش کے ہمراہ ہو بلکہ ہر وہ شخص جو حقیقی عشق کے مرحلے تک پہنچ جائے، پرستش کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ دونوں حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور آپس میں لازم و ملزوم ہیں، بہر حال انسان میں عشق و پرستش کا مسئلہ بہت زیادہ تشریع، تجزیہ اور توضیح کا محتاج ہے۔ تحقیق کرنی چاہئے کہ واقعاً اس کے کیا عوامل ہیں؟ آیا قدیم زمانے سے یہ بات جو افلاطون سے منسوب کی گئی ہے اور آج کل بھی عشق افلاطونی کے نام سے جانی جاتی ہے درست ہے یا نہیں؟ کیا واقعاً انسان میں عشق کے لئے کوئی غیر مادی اور غیر جسمانی عوامل موجود ہیں؟ آیا انسان میں عشق روحانی بھی پایا جاتا ہے اور اگر ہے تو وہ کونسا جذبہ ہے؟

باب چہارم

عشق اور پرستش

انسانی رجحانات کے دلائل

ہماری بحث انسان میں پائے جانے والے ان رجحانات کے بارے میں تھی کہ جو حیوان میں موجود نہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انہی رجحانات کی وجہ سے ”انسان“ تصریح و تفسیر اور فلسفے کے لئے ایک اہم موضوع بن گیا ہے۔ چار رجحانات کے بارے میں ہم پہلے وضاحت پیش کر چکے ہیں، اب ایک اور رجحان کی جانب مختصر طور پر اشارہ کرتے ہیں۔ یہ رجحان وہی چیز ہے کہ جس کا نام ”عشق و پرستش“ رکھا جاسکتا ہے۔

اس بات کی توضیح عرض کرتا چلوں، جو چیز انہائی طور پر محسوس کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں ایک ایسی چیز کی صلاحیت موجود ہے کہ جسے ہم ”عشق“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عشق محبت سے ایک بالاتر چیز کا نام ہے۔ عام طور سے جذبہ محبت ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ انسان میں کئی طرح کی محبتیں موجود ہیں، مثلاً دوستوں کے درمیان باہمی محبت، مرید کی اپنے مرشد پیر کی مرید سے محبت، بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، والدین اور اولاد کے درمیان محبت، ان کا شمار معمول کی محبتوں میں ہوتا ہے، لیکن انسان میں ایک اور چیز کی صلاحیت موجود ہے کہ جسے عشق کہتے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ ”عشقہ“ سے لیا گیا ہے، ”عشقہ“ اس بیل کو کہتے ہیں کہ فارسی میں جس کا نام ”پیچک“ ہے، یعنی آ کاس بیل۔ یہ بیل جس چیز تک بھی پہنچتی ہے، اس کے ارد گرد لپٹ جاتی ہے، مثلاً جب کسی درخت یا گھاس تک پہنچتی ہے تو اس طرح اس کے ارد گرد لپٹ جاتی ہے کہ اسے اپنے چنگل میں جکڑ لیتی ہے، اس کو مکمل طور سے اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ اس طرح کی ایک حالت انسان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ معمول کی محبت

کے برعکس عشق انسان کو اس کی روزمرہ زندگی کے معمول سے خارج کر دیتا ہے، اس کی نیند حرام کر دیتا ہے اور کھانا پینا اس سے چھوٹ جاتا ہے، اس کی تمام ترتیب و کام مرکز اس کا معاشق بن جاتا ہے۔ ان کے درمیان ایک طرح کی وحدت و یکتاںی وجود میں آ جاتی ہے، عشق اسے ہر چیز سے کاٹ دیتا ہے اور اس کی توجہ کو صرف ایک چیز کی جانب مرکوز کر دیتا ہے اس طرح کہ اس کے لئے سب کچھ معاشق کی ذات ہو جاتی ہے ایسی شدید محبت کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حیوانات میں اس کیفیت کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ جو احساسات اور جذبات پائے جاتے ہیں وہ اسی حد تک ہیں کہ جو والدین، اولاد یا میاں بیوی کے درمیان پائے جاتے ہیں، غیرت و محبت وغیرہ جو کچھ بھی ان میں پایا جاتا ہے، تھوڑا بہت حیوانات میں بھی موجود ہے، لیکن یہ صورت حال اس مخصوص انداز میں صرف انسان میں ہی پائی جاتی ہے۔ عشق حقیقت میں کیا چیز ہے؟ بذات خود فلسفہ کا موضوع ہے۔ بولی سینا نے عشق کے موضوع پر مستقل طور سے ایک کتاب تصنیف کی ہے، اسی طرح ملا صدر انے اپنی کتاب "اسفار" کے الہیات کے باب میں قریب قریب چالیس صفحات حقیقت عشق کے لئے مختص کئے ہیں کہ یہ حالت جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کیا ہے؟ جس طرح کہ آج کل یہ مسئلہ نفیات میں بھی زیر بحث ہے کہ اس حالت کا تجویز کیا جائے کہ انسان میں پائی جانے والی یہ حالت کیا ہے؟

## حقیقتِ عشق کے بارے میں نظریات

اس سلسلے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، بعض نے تو اسے ایک خاص قسم کی بیماری یا عارضہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک طرح کا عارضہ اور مرض ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عشق کو بیماری تصور کرنے والوں کے نظریے کا بھی تک کوئی حامی نہیں ہے بلکہ نہ صرف اسے بیماری نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک نعمت خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ مجموعی طور پر عشق صرف ایک ہی قسم کا ہے یا اس کی دو فرمیں ہیں؟ بعض نظریات کے مطابق عشق کی فقط ایک ہی قسم ہے اور وہ جنسی عشق ہے، اس کی بنیاد عضوی اور حیاتیاتی (Organic & Psychologic) ہے اور یہی ایک قسم ہے۔ ان کے نزدیک جتنے بھی عشق اس دنیا میں موجود تھے اور موجود ہیں، اپنے تمام ترااثات اور خصوصیات کے ساتھ رومانوی عشق ہیں۔ دنیا کے ادبی شاہکار ایسی عشقیہ داستانوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن مجنوں کی داستان کے مائدے یہ تمام عشق جنسی نوعیت کے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک اور گروہ ہے کہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے عشق کہ جو اس وقت زیر بحث ہے، کوئی بھی دو قسم کا سمجھتا ہے، مثلاً بوعلی سینا، خواجہ نصیر الدین طوسی اور ملا صدر عشق کی دو اقسام کے قائل ہیں۔

بعض عشق کو جنسی سمجھتے ہیں کہ اس کو عشقِ حقیقی کے مقابلے میں عشق مجازی سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بعض عشق روحاً نویت

کے ہیں اور روحانی ہیں، یعنی درحقیقت دوروں کے درمیان ایک طرح کی کشش (Attraction) پائی جاتی ہے۔ جسمانی عشق میں جنسی جذبہ کا فرما ہے کہ جو معشوق تک پہنچنے اور جنسی خواہش کی تسکین کے بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا انجام یہی کچھ ہے کیونکہ اگر اس کی علت اور سبب پیدائش بدن میں داخلی مادہ کی تحریک ہے تو ان کے جدا ہونے سے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس طرح وہاں سے اس کا آغاز ہوا اور یہاں پر ختم ہو گیا، لیکن روحانی عشق کے قائل لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان بعض اوقات عشق میں ایسے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ جو ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوی اس مرحلے کو ”مشائکلة بین النقوس“ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی روؤں کے درمیان ایک طرح کی مشابہت پائی جاتی ہے۔

درحقیقت یہ لوگ اس بات کے مدعا ہیں کہ انسانی روح میں روحانی عشق کے لئے بنیاد موجود ہے اور حقیقت میں اگر یہاں کوئی نفس پایا جاتا ہے تو وہ فقط انسان کو ہی متحرک رکھتا ہے جبکہ انسان کا حقیقی معشوق عالم طبیعت سے بالاتر ایک حقیقت ہے کہ جس سے انسان کی روح متعدد ہوتی ہے، اس تک پہنچتی ہے اور اسے پالیتی ہے۔ پس حقیقت میں انسان کا حقیقی اور اصل معشوق اس کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اس ضمن میں کئی داستانیں نقل کی جاتی ہیں۔ اس نظریے کے حوال لوگ کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ عاشق کو محظوظ کا خیال اور اس کی یاد خود محظوظ سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ خود محظوظ اور اس کی طرف اولین تحریک کے عوامل خود انسان کے اندر موجود ہیں، وہ اپنے

اندر ایک نئی حقیقت سے مانوس ہو جاتا ہے کہ جو اس کی روح میں موجود معشوق کی تصویر ہی ہے، لیکن درحقیقت یہ تصویر ظاہری معشوق نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری چیز ہے۔

ان داستانوں کا فلسفی کتب میں بھی تذکرہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنوں باوجود اس کے کہلی کے فراق میں اور اس کے عشق میں کتنے ہی شعر اور غزلیں کہہ چکا تھا، لیکن جب ایک دن جنگل میں لیلی اس سے ملنے آئی اور اس نے اسے آواز دی تو مجنوں نے سراٹھیا اور پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں لیلی ہوں، تمہاری تلاش میں آئی ہوں، وہ سمجھ رہی تھی کہ مجنوں فوراً اٹھ کھڑا ہو گا اور اپنے محبوب کو جس کے فراق میں اس نے کتنی گریدہ وزاری کی ہے، آغوش میں لے لے گا۔ مجنوں کہنے لگا، نہیں، یہاں سے چلی جاؤ:

### لی عنی عنک بعشقک

”میں تمہارے عشق ہی میں محو ہوں، تمہارے جسم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے ان دور کے مشہور شاعر شہریار کی سوانح عمری میں بھی پڑھا ہے۔ شہریار جو کہ میڈیکل کالج میں سال آخر کا طالب علم تھا اور تہران میں کرانے کے ایک مکان میں رہتا تھا خود وہ تبریز کا رہنے والا تھا، وہاں وہ مالک مکان کی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور عاشق بھی شدید قسم کا۔ بہر حال انہوں نے لڑکی کا رشتہ کسی وجہ سے اسے نہ دیا، اس نے بھی مجنوں کی طرح ہر کام کاج اور طالب علمی سے باتھ کھینچ لیا اور اس کی خواہش میں محو ہو گیا۔ کئی سال بعد

خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایک تفریجی مقام پر سیر کر رہی تھی کہ شہریار پر اس کی نظر پڑی تو خاتون اسے ملنے کے لئے قریب آئی تو وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا، اسے کہنے لگا، مجھے اب تم سے کوئی سروکار نہیں، میں اپنے خیالوں سے ہی خوش ہوں اور انہی سے مانوس ہوں، اگر تم اپنے شوہر سے طلاق بھی لے لو تو بھی مجھے تم سے کوئی کام نہیں، اسی حصن میں اس کے اشعار بھی ہیں۔ اس خاتون کے آنے کے بعد وہ اشعار کہتا ہے اور اپنی صورت حال کی تعریف کرتا ہے کہ کس طرح وہ اس کے عشق سے مانوس ہو گیا ہے اور خود اس کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہے۔

ابھی مختصرًا یہ بات بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اسلام میں عرفانی کلچر ”تہذیب“ سے تھوڑے بہت آشنا ہوں کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو بہت زیادہ قابل توجہ اور قابل تحلیل و تجزیہ ہیں، اس سلسلے میں ملا صدر اے چند اشعار نقل کئے ہیں، میرے خیال میں مجی الدین عربی کے ہیں۔ اگرچہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کسی شاعر کے نہیں ہیں، صرف اتنا کہا ہے کہ کسی نے یوں کہا ہے لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ مجی الدین کے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ وہ جب اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ بعض عشق جسمانی نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں، تو ان خوبصورت اشعار میں یہ بات یوں بیان کرتا ہے:

### اعانقها و النفس بعد مشوقة

### اليها و هل بعد العناق تدانى

”اپنے معشوق سے گلمل رہا ہوں، لیکن پھر بھی دیکھتا ہوں کہ میرا نفس اس کے لئے بہت مشتاق اور بے قرار ہے، مگر

کیا گلے ملنے سے زیادہ بھی کوئی ایک دوسرے کے قریب تر آ سکتا ہے؟“

کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر دو جسموں کے درمیان کشش پائی جاتی ہے اور عشق اس کا نتیجہ ہے تو اب جبکہ وہ اپنی آرزو کو پہنچ چکے ہیں اور جبکہ یہ بات اپنی انہا تک پہنچ چکی ہے تو عشق کو ختم ہو جانا چاہئے:

وَالشَّمْ فَاهَا كَمِي نَزُولُ حَرَارَتِي

فَيَزِدُ دَادُ مَا الْقَى مِنَ الْهَيْجَانَ

”کہتا ہے کہ میں اس کے دونوں کا بوسہ لیتا ہوں تاکہ

میرے اندر کی حرارت اور گرمی زائل ہو جائے، لیکن میں

دیکھتا ہوں کہ وہ تو اور بھی ہوا ہو جاتی ہے۔“

اب اس سے فلسفی جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے:

كَانَ فَوَادِي لَيْسَ يَشْفَى غَلِيلَهُ

سَوْيَ أَنْ يَرِي الرُّوحَانِ يَتَحَدَّانَ

”ممکن نہیں کہ میری یہ اندر وونی آگ خاموش ہو جائے، مگر یہ

کہ دونوں روحیں آپس میں مل جائیں۔“

پس یہ نظریہ عشق کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے، عشق جسمانی اور عشق

روحانی، یعنی وہ ایک اپنے قسم کے عشق کا قائل ہے، جو سرچشمہ کے اعتبار سے بھی

عشق جسمانی سے مختلف ہے اور اس کا سرچشمہ خنی نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں

انسان کی نظرت اور روح میں پائی جاتی ہیں۔ نیز ہدف و انتہاء کے لحاظ سے بھی

جنی عشق سے مختلف ہے، کیونکہ جنی عشق شہوت کے بھٹے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ عشق یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں وہ فلسفی مباحثے اور فلسفیوں کی ان دلیلوں کو پیش کریں کہ جوانہوں نے اس طرح کے عشق کو کہ جسے افلاطونی عشق سے یاد کیا جاتا ہے، ثابت کرنے کے لئے پیش کی ہیں۔ ہم ان میں سے صرف اس حصے کو پیش کریں گے جو انتہائی آسان ہو۔

یہ بات مسلم ہے کہ انسان عشق کی تعریف کرتا ہے، یعنی اسے ایک قابل ستائش چیز سمجھتا ہے جبکہ شہروں کے باب سے کوئی چیز بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ مثلاً انسان میں کھانے پینے کی خواہش یا غذا کی رغبت کہ جو ایک طبیعی رجحان ہے۔ کیا یہ رجحان طبیعی رجحان ہونے کے اعتبار سے کچھ بھی قابل احترام ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دنیا میں ایک بھی شخص کسی غذا کی طرف اپنی رغبت کی تعریف کرتا ہو؟ عشق بھی جب تک جنی شہوت سے مربوط ہو، کھانے کی خواہش کے مانند ہے، یعنی کہ ایک حیوانی جلت ہے اور قبل احترام نہیں ہے۔ بہر حال یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا احترام کیا جاتا ہے اور دنیا کے ادبی شاہکاروں کا ایک بہت بڑا حصہ عشق کی تقدیم اور تعریف پر مشتمل ہے۔ انفرادی اور اجتماعی نفیات کے حوالے سے یہ امر غیر معمولی طور پر قبل توجہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟

### عاشق کا معشوق میں نما ہو جانا

عجیب تر تو یہ ہے کہ عاشق معشوق کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیے پر فخر کرتا ہے اور اس کی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو غافل اور نایود ظاہر کرتا ہے۔

یعنی اس کے لئے یہ بات باعث سرفرازی و عظمت ہے کہ معشوق کے مقابلے میں کوئی چیز اس کی اپنی نہ ہو اور جو کچھ بھی ہو وہی ہو اسے عاشق کا معشوق میں فنا ہو جانا کہتے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو نفع پسندی کی منطق سے ہم آہنگ نہیں ہے بلکہ ایک فضیلت اور نیکی ہے۔ عشق بھی اسی طرح ہے، ایثار اور خود سے گزر جانے کے جذبے کی طرح ہے۔ ایثار خود غرضی سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، قربانی اور خود پرستی کا آپس میں کوئی جو نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی بھلائی کے حوالے سے انسان خاواست، احسان، ایثار اور قربانی اور خدا کاری کا احترام کرتا ہے، انہیں نیکی سمجھتا ہے، عظمت اور بزرگی جانتا ہے۔ اسی طرح یہاں عشق بھی خواہشات نفسانی سے مختلف ہے کیونکہ خواہشات نفسانی کے معنی تو یہ ہیں کہ انسان ہر چیز اپنے لئے چاہتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور غیر نفسانی خواہشات میں فرق یہی ہے کہ جب مسئلہ نفسانی خواہشات کا ہو تو اس کا ہدف معشوق کو اپنا لینا اور اس کے وصال سے لطف اندوں ہوتا ہے، لیکن عشق میں وصال سرے سے ہی مدنظر نہیں ہے بلکہ عاشق کا معشوق میں فنا ہو جانا مقصود ہے، لیکن بہر حال یہ بات خود پسندی کی منطق سے ہم آہنگ نہیں ہے۔

اسی لئے یہ مسئلہ اس صورت میں غیر قانونی طور پر قبل بحث و تجزیہ ہے کہ انسان میں یہ جذبہ عشق کیا چیز ہے؟ اور یہ کیسی کیفیت ہے؟ اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ اس میں انسان چاہتا ہے کہ معشوق کے سامنے تسلیم محض ہو اور اس کی اپنی ذات اتنا اور میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اس ضمن میں مولوی نے ایسے عمدہ

اشعار کہے ہیں کہ جو عارفانہ ادب میں غیر معمولی ہیں۔ کہتا ہے۔

عشق قہار است و من مقصور عشق

چون قمر روش شدم از نور عشق

”عشق قہار ہے اور میں اس کا مقصور ہوں، نور عشق سے میں

چاند کی طرح جگہا گیا ہوں۔“

مسئلہ پرستش بھی ہے کہ عشق انسان کو ایسے مرحلے تک لے جاتا ہے کہ

وہ اپنے معشوق کو خدا بنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا ایک بندہ سمجھتا ہے، اسے

ہستی مطلق سمجھتا ہے اور اپنے تیس اس کے مقابلے میں نابود شمار کرتا ہے۔ یہ کیا چیز

ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟

ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس بارے میں ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ عشق کا

سرچشمہ اور اس کا ہدف جنسی ہے اور وہ جنسی جلت کی راہ کو ہی طے کرتا ہے اور

اس کا اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جس کی ہمارے فلسفی بھی

تائید کرتے ہیں اور جو دو قسم کے عشق کے قائل ہیں، جسمانی یا جنسی عشق اور روحانی

عشق۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانی عشق کی صلاحیت تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے۔

ایک تیسرا نظریہ یہ بھی موجود ہے کہ جس نے دونظریوں کو یکجا کرنے کی

کوشش کی ہے (یعنی فرائیڈ کے نظریے اور روحانی عشق کے نظریے کو) فرائیڈ جو

ایک معروف ماہر نفسیات تھا، ہر چیز کو جنسی جلت کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ علم دوستی نیک

کام، فضیلت، پرستش غرضیکہ ہر چیز کو اور عشق کو بدرجہ اولیٰ جنسی تصور کرتا تھا، لیکن

آج کل اس نظریے کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک اور نظریہ یہ بھی پیدا ہوا ہے اور وہ یہ

کہ عشق میں بعض ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ جو جنسی جذبے سے مختلف ہیں، یعنی جنسی کیفیات سے وابستہ نہیں ہیں اور ان کا دار و مدار جنسیات پر نہیں ہے۔ جنسی امور تو بھوک کے مانند طبعی ہیں، جب جسم کی غذا کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں ایک طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جسے بھوک کہتے ہیں۔ اگر اس طرح سے نہ ہو تو بھوک بھی نہیں لگتی۔ جنسی احتیاج بھی ایسی ہی ہے، جب یہ مادی احتیاج اور ضرورت ہو، جس حد تک بدن میں ایک خاص کیفیت اور ترشحات ہوں، تو یہ ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو نہیں ہوتی، جبکہ "عشق" کی یہ خصوصیات نہیں ہیں، لہذا اس تیرے نظریے کے حاملین کا کہنا ہے کہ عشق کی ابتداء تو جنسی ہے، لیکن انتہاء غیر جنسی ہے، یعنی جنسی اعتبار سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی ابتداء شہوت ہے، لیکن پھر اس کی کیفیت و حالت بدل جاتی ہے اور آخرا کار یہ ایک روحانی کیفیت بن جاتی ہے۔

فلسفے کے نامور مورخ ویل ڈیورنٹ نے اپنی کتاب "نشاط فلسفہ" میں جہاں عشق پر بحث کی ہے، وہاں اس نے اسی نظریے کا اختبا کیا ہے اور فرائید کے نظریے پر بحث کرنے کے بعد اس کو رد کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ حقیقت عشق بعد میں اپنی راہ و روش اور حتیٰ کہ خصوصیات و کیفیات کو بدل لیتا ہے، یعنی مکمل طور سے جنسی حالت سے نکل جاتا ہے، یوں ویل ڈیورنٹ فرائید کے نظریے کی بنا پر کو درست نہیں سمجھتا۔ مسئلہ عشق میں ہماری نظر زیادہ تر اس رجحان پر ہے کہ عاشق چاہتا ہے کہ معشوق میں فنا ہو جائے، ہم اسے پرستش کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو مادیت سے جدا ہے۔ ولیم جیمز اپنی کتاب "دین و روانہ" (یہ کتاب

کے نام کا فارسی ترجمہ ہے، انگریزی میں اس کا نام Religion & Psyche ہے) میں کہتا ہے:

”ہمارے اندر موجود بعض روحانات ایسے ہیں کہ جو ہمیں عالم طبیعت سے وابستہ کرتے ہیں اور بعض روحانات ہمارے اندر ایسے ہیں کہ جو مادی اور طبیعی ”قدرتی“ حوالے سے نہیں دیکھنے جا سکتے اور یہی وہ روحانات ہیں کہ جو ہمیں ماوراء طبیعت سے مربوط رکھتے ہیں۔“

اس کا استدلال اور اس کی تشریح وہی ہے کہ جو مسلمان حکماء کرتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ عاشق میں جوفا ہونے کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ درحقیقت اس کے کمال کا مرحلہ ہے یہ فنا اور نابودی نہیں ہے، اگر اس کا معشوق حقیقی کوئی مادی اور جسمانی ہوتا تو فنا کی توجیہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ کوئی چیز کس طرح سے فنا کی طرف مائل ہو سکتی ہے، لیکن دراصل اس کا معشوق حقیقی ایک اور حقیقت ہے اور یہ (معشوق ظاہری) اس کا ایک نمونہ ہے اور مظہر ہے اور یہ حقیقت میں اپنے آپ سے کامل تر ہے اور ایک کامل تر مقام سے مل جاتا ہے اور اس طرح سے یہ نفس اپنے کمال کی حد تک جا پہنچتا ہے۔

رس کہتا ہے:

”مغرب والے ایسے عشق کو مشرقی عشق کہتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔“

برٹنڈر سل اپنی کتاب ”ازدواج اور اخلاق“ (یہ کتاب کے نام کا فارسی

ترجمہ ہے) (Morale & Wedding) میں کہتا ہے:

”ہم آج کل کے لوگ ان شعراء کے جذبوں کو نہیں سمجھ سکتے  
جنہوں نے محبوب سے ذرہ بھی التفات کی تمنا کے بغیر اس  
میں اپنے فنا ہو جانے کے بارے میں شعر کہے ہیں۔“

وہ کہنا چاہتا ہے کہ جس عشق کو ہم جانتے ہیں وہ عموماً وصال کا ذریعہ اور  
مقدمہ سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے کہتا ہے کہ  
مشرقی عشق میں عشق ذریعہ نہیں ہے بلکہ بذات خود ہدف ہے۔ وہ اس عشق کا  
بہت احترام و تعریف بھی کرتا ہے کہ یہی عشق انسان کی روح کو ایک  
عظمت و مقام عطا کرتا ہے۔

اب ہم اصل موضوع کی جانب واپس آتے ہیں۔ گزشتہ دو نشتوں میں

جن پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ حقیقت و دانائی

۲۔ فن، ہنر و حسن

۳۔ میکی، خیر و فضیلت

۴۔ ایجاد و تخلیق

۵۔ عشق و پرستش

انہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اور ان کی کس طرح سے توجیہہ ہو سکتی ہے؟

مجموعی طور پر ان کی توجیہہ کو دو بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

ایک توجیہہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا سرچشمہ انسان کی فطرت ہے۔

حقیقت جوئی (حقیقت کی تلاش) ایک ایسا روحانی ہے کہ جو انسان کی سرشنست (طینت) میں رکھ دیا گیا ہے۔ انسان روح و بدن سے مرکب ہے، اس کی روح ایک الٰہی حقیقت ہے:

ونفحت فيه من روحي (جج ۲۹)

”اور اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔“

انسان میں جس طرح سے طبیعی عناصر موجود ہیں، اس طرح ایک غیر طبیعی عنصر بھی موجود ہے۔ طبیعی عناصر انسان کو عالم طبیعت سے وابستہ کرتے ہیں، جبکہ غیر طبیعی عنصر انسان کو غیر طبیعی اور غیر مادی امور سے منسلک کرتا ہے۔ انسان کا حقیقت کا مثالیٰ اور طالب ہونا، اس کی روح اور سرشنست روح سے وابستہ ہے۔ حسن پرستی ایک روحانی روحانی ہے، اسی طرح اخلاقی فضیلت اور خلاقیت وایجاد کی طرف روحانی روحانی ہے۔ معشوق کی پرستش کا جذبہ بھی درحقیقت معشوق حقیقی کی پرستش کا پرتو ہے، یعنی انسان کی معشوق حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے۔ جب بھی انسان کو کسی دوسری چیز سے روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ دراصل اس عشق حقیقی ہی کے پھر سے جی اٹھنے کی علامت ہے کہ جو ذات حق سے وابستہ ہے اور اس انداز سے ظہور پذیر ہوا ہے۔

دوسری استدلال، فطرت احساس کی بنیاد پر ہے۔ اس توجیہنہ اور استدلال کے مطابق یہ سب جذبے اور روحانیات فطری نہیں ہیں اور جب یہ مان لیا جائے کہ یہ فطری نہیں ہیں تو پھر ان کے استدلال کے لئے ہمیں انسان سے باہر دیکھنا ہو گا۔ اب ہم اس کے واضح ترین مصادیق کو دیکھتے ہیں، مثلاً علم کی طرف انسان کا

رجحان اور علم کا احترام کیا چیز ہے؟ یہ استدلال پیش کرنے والے کہتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، انسان اپنی جبلت کی وجہ سے جو کچھ چاہتا ہے وہ معاشی مسائل سے ہی عبارت ہے، یعنی جنمیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کی معيشت، زندگی اور انہی مادی اور طبیعی مسائل سے مر بولتے ہیں۔ لیکن اسی معاشی زندگی اور انہی مادی ضروریات کے زیر اثر انسان کو کچھ اور طرح کی ضروریات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ضرورتیں مختلف روپ دھار کر سامنے آتی ہیں، مثلاً انسان کو قانون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو قانون کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لئے کہ انسان اپنے مسائل معاشی فراہم کر سکے۔ ظاہر ہے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، انسان مجبور ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں، ان کے مفادات اس بات کے مقاضی ہیں کہ مل جل کر رہیں۔ اب وہ جب مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو ان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ حدیں اور دیواریں ہونی چاہیں۔ ناچار وہ اپنے لئے کچھ قوانین بناتے ہیں، ان قوانین کو اس لئے ملحوظ رکھتے ہیں کہ ان سب کے مفادات کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ان قوانین کا احترام کریں، مثلاً وہ عدل و انصاف کا اصول وضع کرتے ہیں، اس لئے کہ ان کے مفادات اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ جب ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے اور یہ تماجی زندگی عدل و انصاف کے بغیر ممکن نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عدالت کے سامنے جھک جائیں۔ میں عدل و انصاف کو پسند کرتا ہوں تاکہ آپ مجھ پر زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ آپ بھی عدالت کو پسند کرتے

ہیں کہ میں آپ پر ظلم و تعدی نہ کروں، مگر یہ کہ میں عدالت کو خود عدالت کی وجہ سے پسند کرتا ہوں، بنیادی طور پر یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ اس مادی زندگی میں جو شخص بھی عالم طبیعت سے زیادہ آگاہ ہے، باخبر ہے اور زیادہ معلومات رکھتا ہے وہی زیادہ کامیاب ہے۔ علم اس کی زندگی میں بہت زیادہ مددگار اور یہی علم و آگاہی مادی زندگی کے لئے بہترین ہتھیار اور ذریعہ ہے، لہذا وہ اسے ایک احترام عطا کرتا ہے اور یوں وہ علم کے لئے ایک طرح کے احترام کو فرض سمجھتا ہے، مگر یہ کہ علم ذاتی طور سے کسی احترام اور تقدس کا حامل ہے اور یہ کہ میں خود علم کو علم کی وجہ سے چاہتا ہوں، یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ علم ایک ہتھیار ہے، لیکن دوسرا ہتھیار انسان کی مادی اور معاشی زندگی کے لئے اس جتنا کارآمد نہیں ہے، لہذا انسان جب دیکھتا ہے کہ علم بہترین ہتھیار ہے تو اس کے احترام کا قائل ہو جاتا ہے، کبھی احترام اور تقدس کی آڑ میں فریب بھی کیا جاتا ہے۔ بعض طبقات کسی بھی طریقے سے معلومات جمع کرتے ہیں، لہذا ان کی معلومات اور اطلاعات لازمی طور پر دوسروں سے زیادہ ہوتی ہیں، چنانچہ وہ زیادہ ماہر، زیریک اور زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، لہذا وہ لوگوں کو فریب دے سکتے ہیں۔ دوسروں کی محنت کا پھل حاصل کرنے کے لئے وہ علم کو ایک احترام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم ایسی عظیم چیز ہے اور عالم کا یہ مقام ہے، لہذا ہم چونکہ عالم ہیں اس لئے تم جاؤ کام کرو اور یعنیں لا کر دو تا کہ ہم کھائیں، فن و ہنر اور جماليات کے بارے میں بھی ایسے ہی دلائل پیش کرتے ہیں اور تخلیق و ایجاد کے لئے بھی اسی قسم کے استدلال دیئے جاتے ہیں، چونکہ علم مادی زندگی اور معاش کے لئے ایک ذریعہ ہے، لہذا

انسان اس کے لئے ایک طرح کا احترام اپنے پر فرض کر لیتا ہے، مگر خود اس کی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ جبکہ عشق اور پرستش تو بنیاد سے ہی بے معنی ہے کیونکہ یہ انسان کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے اور اسے اپنی ذات سے نکال دیتا ہے۔ اگر انسان کسی دوسری چیز کا عاشق ہو جائے اور پھر اس کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا اظہار کرے اور ہر چیز اس پر قربان کر دینا چاہے تو یہ کسی لحاظ سے بھی منطقی نہیں ہے۔ مذکورہ تین اموز کی یہ دلیل ان سب پر پانی پھیر دینے کے مترادف ہے، جس سے اخلاقی قدریں بے بنیاد ہو کر رہ جاتی ہیں اور وہ ناچار ہیں کہ ان اخلاقی قدروں کو بناؤٹی، فرضی اور استھانی طبقوں کی گھڑی ہوئی چیزیں تصور کریں۔ سخاوت و کریمی کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ ایثار و قربانی کیا ہے؟ یعنی وہ ان کے بارے میں دلائل پیش نہیں کر پاتے۔ بہر حال یہاں بعض ایسے مکاتب فکر بھی ہیں کہ جن میں اتنی شجاعت دلیری اور بے باکی تھی کہ وہ اپنے ہی اصول سے وہی نتائج حاصل کریں کہ جو نتائج یہ اصول فراہم کرتے ہیں، لیکن بعض دیگر مکاتب فکر میں اتنی بے باکی نہ تھی۔

## جرات مند اور غیر جرات مند حسی

علمی فطریات کی بحث میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یورپ میں حسی فلسفے کی لہریں اٹھیں تو ایک گروہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔ اس گروہ کے بعض افراد حقیقت میں حسی تھے، اپنے آپ کے حسی ہونے پر ثابت قدم اور اس پر باقی رہنے کے بارے میں جرات مندو بے باک تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم اپنے حواس سے

محسوس و ادراک کرتے ہیں، اسی پر یقین و اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے، البتہ ان کی نفی بھی نہیں کرتے اور وہ انہی دو اصولوں پر ثابت قدم رہے۔ ان کا کہنا ہے:

۱۔ جس چیز کو ہم اپنے حواسِ خشن سے محسوس نہیں کرتے، نہ اس کی نفی کرتے ہیں اور نہ ہی قبول کرتے ہیں۔ ایک اچھی بات جو وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حس مجھے کہتی ہے کہ میں اس کو محسوس کر رہی ہوں اور چونکہ محسوس کر رہی ہوں اس لئے یہ چیز موجود ہے۔ البتہ حس مجھے نہیں کہتی کہ جو کچھ بھی میں محسوس نہیں کرتی وہ سرے سے ہی موجود نہیں ہے، بلکہ اتنا کہتی ہے کہ میں اسے محسوس نہیں کرتی۔

۲۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو تمام ذہن قبول کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کے بارے میں جتنوں کی تدویکا کہ یہ قابل حس نہیں ہیں، پس ہم انہیں قبول نہیں کرتے مثلاً علیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ علیت محسوسات میں سے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ قابل احساس ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں واقعات و حوادث کیے بعد دیگرے وجود میں آتے ہیں اور ایک طرح سے ایک دوسرے کے تعاقب میں ہیں، لیکن جس چیز کو ہم علٹ کے نام سے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”الف“، ”ب“ کے لئے علٹ ہے اور علٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر ”الف“ نہ ہو تو ”ب“ کا وجود محال ہے اور کہتے ہیں کہ ”ب“ کا وجود ”الف“ سے وابستہ ہے۔ اس چیز کو انسان محسوس نہیں کرتا، بلکہ عقل نے اسے وجود بخشا ہے اور چونکہ حس اسے

ثابت نہیں کرتی، لہذا ہم اسے قبول نہیں کرتے۔

حس کے معتقدین کا یہ گروہ جرأت مند اور بے باک ہے یعنی یہ لوگ اپنے مكتب فکر کے حسی ہونے پر کاربند اور ثابت قدم ہیں اور اسی وجہ سے قابل تعلیم ہیں۔

بعض دوسرے لوگ بنیادی چیزوں میں تو حسی ہیں، لیکن حصول متائج میں عقلی ہیں، تمام مادی مكتب فکر کے لوگ Materialists اسی طرح ہیں۔ یہ لوگ ایک طرف تو شاخٹ کے باب میں حس کے معتقدین کی طرح اظہار نظر کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف فلسفیانہ مسائل میں عقل کے قائلین کے ماندانا ظہار خیال کرتے ہیں، یعنی ایسے مسائل پر اعتماد کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں حس خاموش ہے۔

## نئے کے اقوال

رجحانات کے باب میں بھی یہی صورت حال ہے۔ انسان اور مادی مكتب فکر، یعنی ایسا مكتب فکر کہ جو انسان کو مادی محض سمجھتا ہے، کے پیروکار دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ گروہ کہ جسے ہم مادی گروہ میں جرأت مند مانتے ہیں اور دوسرا گروہ وہ غیر جرأت مند مادی لوگ یا فریب کاروں کا ہے۔ نئے ایک مادی فلسفی ہے، انسان کے بارے میں وہ روح اور اس طرح کی چیزوں کا معتقد نہیں ہے۔ انسان کے سلسلے میں حصول متائج میں بھی وہ بعینہ اسی فلسفے کے تحت متائج اخذ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اخلاق کے نام سے مشہور ہے، وہ سب لغویات

ہے۔ اگر آج تک دنیا کے تمام اخلاق کے علمبرداروں نے کہا ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی مدد کریں تو میں کہتا ہوں کہ ان کی پیروی کریں، کس لئے نہ کریں؟ اگر دنیا کے اخلاق کے تمام علمبردار کہتے ہیں کہ ضعیف کی مدد کریں اور اس قوی کے خلاف جنگ کریں کہ جس نے ضعیف یا کمزور پر حملہ کیا ہے تو میں اس کے بالکل برعکس کہتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

چون می بینی کہ نابینا و چاہ است

اگر خاموش بنیتنی گناہ است

”اگر دیکھ رہے ہو کہ ایک نابینا شخص ہے اور اس کے سامنے کنوں ہے تو یہاں خاموش بیٹھے رہنا گناہ ہے۔“

ٹشے کے نزدیک اگر تم نے اسے بچانا چاہا تو یہ گناہ ہے۔ اگر تم نے دیکھا کہ کوئی کنوں میں گر گیا ہے تو اپر سے ایک پھر تم بھی پھینک دو۔ عالم نے جس طرح ابھی تک سفر کیا ہے اور روایاں دواں ہے، وہی درست ہے کہ کچھ لوگ کمزور ہیں اور باقی طاقتور جو بھی کمزور ہے حکم طبیعت کے تحت اسے فنا ہونا ہے اسی طرح اخلاق کو بھی چاہئے کہ اس پر فنا کا حکم جاری کرے۔ ہیرو ہے تو چنگیز، ترس اور رحم کیا ہے؟ رحم اور ترس کھانا تو کمزور کی علامت ہے۔ اشار کیا ہے؟ بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں۔

یہ بات تمام انسانی اقدار کی نفی کرتی ہے اور حقیقت بھی بھی ہے کہ اگر ہم انسان کو سراپا مادی تصور کر لیں تو ان تمام اقدار کی نفی کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم ”انسانیت“، ”انسانی رحمانات“ اور ”انسانی اقدار“

کے نام سے یاد کرتے ہیں، سب کا سب خیالی اور بے بنیاد ہے۔ ایک طرف انسانی میٹریلیزم "Materialism" انسانی ماڈی پرستی کا قائل ہونا اور دوسری طرف انسانیت اور انسانی قدرتوں کا دم بھرنا، ایسا تضاد ہے کہ جو قابل توجیہ نہیں۔ انسانی اقدار انسانی فطرت سے مطابقت رکھتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی خود اپنی سرشنست میں ایک انسانی ماڈہ موجود ہے اور یہ وہی مقدس "پاکیزہ" رہ جاتا ہے، یعنی انسان کی سرشنست میں ایک تقدس "پاکیزہ" اور قابل احترام" حقیقت موجود ہے کہ جس کی ذات میں بلندی اور کمال کی طرف رہ جان پہنچا ہے۔ انسان کے اندر ورنی تضاد اور فرد کے اندر موجود حقیقی تضاد کو کہ جس کا حدیث میں ذکر ہے اور اس کی پیروی میں ہماری ادبیات میں بھی ہے، اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔

### کافی سے ایک حدیث

ایک حدیث ہے کہ جسے شیعہ و بنی دونوں نے ذکر کیا ہے اور شیعوں کی کتاب کافی میں ہے کہ

ان الله تعالى خلق الملائكة ور كب فيهم العقل و

خلق البهائم ور كب فيهم الشهوة و خلق الانسان

ور كب فيه العقل و الشهوة

(علل الشرائع، جلد ایا ب، ص ۲۰، "تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ")

"خدا نے ایک فرشتے کو خلق فرمایا اور اسے خالص عقل سے

— بنایا، پھر حیوان کو خلق فرمایا اور اسے خالص شہوت سے تیار کیا اور بعد میں ان دونوں فرشتے اور حیوان کی سر شتوں کو مغلوب کر کے اس سے انسان کو خلق فرمایا۔“  
مولوی بھی کہتا ہے۔

در حدیث آمد کہ خلاق مجید  
خلق عالم را سہ گونہ آفرید  
”حدیث میں آیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو تین طرح  
سے خلق فرمایا۔“

اس کے بعد تین طرح کی خلقت کی اس حدیث کی بناء پر کہ جسے سنی و  
شیعہ دونوں نے نقل کیا ہے، تشریح کرتا ہے۔

حدیث کی تعبیر کے مطابق انسان کے اس طرح سے مرکب ہونے  
(فرشتے کی صفات کے لحاظ سے اور حیوانی پہلو کے اعتبار سے) کی وجہ سے انسان  
میں دو متقابل اور متفاہر رحمان وجود میں آتے ہیں، ایک اوپر کی طرف رحمان اور  
دوسرائی کی طرف رحمان، ایک آسمانی رحمان اور دوسرہ زمینی۔ پھر خداوند عالم  
نے لسان کو عقل اور ارادہ عطا فرمایا ہے اور اسے ان دو راہوں کے درمیان  
انتخاب میں اختیار عطا فرمایا ہے:

انہ دیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا (انسان ۳)

”ہم نے تو اسے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، اب چاہے  
شکرگزار ہو یا ناشکرگزار،“

انسان کو ان دوراہوں کے درمیان قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایک مطلق اور آزاد ارادہ عطا کیا گیا ہے تاکہ خود ان دوراہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ تاریخ کے تضاد کا سرچشمہ بھی انسان کی سرشت میں موجود یہ تضادات ہی ہیں، یعنی وہ انسان کہ جنہوں نے آسمانی اور عقلانی را ہ انتخاب کیا ہے، اہل حق اور خدائی لشکر ہیں اور وہ انسان جو حیوانیت کی پستی میں گر گئے ہیں، وہ پست فطرت، اہل باطل اور شیطانی لشکر ہیں۔ انسان کے تاریخی معز کے محروم طبقے کے لوگوں کی خوشحال طبقے سے جگ صرف منافع کی خاطر نہ تھی، بلکہ یہ جگ حق جو طبقے کی مفاد پرست طبقے کے خلاف تھی۔

البته محروم لوگوں کے لئے ہم خرماب ہم ثواب کے مصدق ہے، لہذا وہ لازمی طور پر حق کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حق میں ان کے لئے دو خصلتیں موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس حق پسند روح کو توسیع ملتی ہے جسے قرآن میں روح حنیف سے تعبیر کیا گیا ہے (حنیف یعنی حق دوست اور حنیفیت یعنی حق دوستی) اور دوسرا یہ کہ اسی ضمن میں وہ اپنے حقوق بھی حاصل کر لیتے ہیں۔

## مولانا روم کی ایک مثال

پس اس مکتب فکر کے مطابق انسان کے مادی رجحانات کے بر عکس انسانیت انسان کے روحانی اور ملکوتی پہلو سے پھوٹی ہے اور پھر انسان کو ان متصاد اشیاء کے درمیان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں مولوی

ایک غیر معمولی عمدہ مثال منتوی میں بیان کرتے ہیں اور واقعاً مولوی اس طرح کے روحاںی اور معنوی مسائل کی نشاندہی میں انتہائی عجیب اور منفرد ہے۔ اسی ضمن میں وہ کہتا ہے کہ انسان کی خلقت یوں ہوئی کہ وہ نصف آسمانی ہے اور نصف زمینی، نصف ملکوتی اور نصف خاکی اور ہمیشہ یہ تضاد اس میں پایا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی ستمکش میں رہتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے تو کبھی اس طرف، کبھی نیچے جاتا ہے اور کبھی اوپر کی طرف رواں دواں ہے، انسان کے اندر یہ تنازعہ ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اس کے بعد مولوی اس کے لئے ایک مثال پیش کرتا ہے اور مجنون اور اس کی اونٹی کہ جس نے ابھی تازہ تازہ بچہ جانا تھا، کی مشہور داستان ہے۔ کہتا ہے:

”مجنون کی اونٹی نے تازہ تازہ بچہ جانا تھا، حیوان جب تازہ تازہ بچہ جنے تو بچے سے اس کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔  
 مجنون اس اونٹی پر سوار ہو کر اپنی معشوقہ لیلی کے گھر جانا چاہتا تھا، چنانچہ وہ سوار ہوا اور اسے ہانکتے ہوئے چل پڑا۔ جب شہر سے باہر کچھ فاصلے پر پہنچا تو وہ اپنی محبوبہ کے خیالوں میں ڈوب گیا اور اونٹی سے غافل ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سست پڑ گئے اور اونٹی کی مہار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اب وہ اونٹی پر صرف ایک بار کے مانند پڑا تھا۔ اونٹی نے آہستہ آہستہ جب یہ احساس کیا کہ اس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہیں تو اس نے اپنا رخ گھر کی طرف پلتا دیا، چونکہ

اس کا بچہ گھر میں ہی تھا۔ چلتے چلتے اچانک مجنوں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ معشوق کے گھر پہنچنے کی بجائے واپس اصل میں پہنچ گیا ہے۔ اس نے دوبارہ اونٹی کا رخ معشوق کے گھر کی طرف کیا اور کچھ فاصلہ طے کیا اور معشوق کے خیالوں نے اسے پھر سے گھیر لیا اور اونٹی سے بے خبر ہو گیا، تو وہ بھی اپنے محبوب کہ جو اصل میں تھا، کی طرف لوٹ گئی اور کئی مرتبہ یوں ہی ہوا۔

صحبہ مجنوں در تازع با شتر  
گر شتر چردید و گہ مجنوں حر  
یکدم از مجنوں ز خود غالل شدی  
ناقتہ گردیدی و واپس آمدی  
”جب مجنوں کی اونٹی سے کشمکش ہوئی تو کبھی اونٹی جیت گئی  
اور کبھی مجنوں۔“

”جب مجنوں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا تو اونٹی واپس لوٹ آئی۔“

بعد میں کہتا ہے کہ آخر کار مجنوں نے اپنے آپ کو اونٹی سے بینچے گرا دیا  
اور کہا ہے

گفت ای ناقہ چوہڑ دو عاشقیم  
ما دو خند بس همرا نالا یقیم

”کہنے لگا کہ اے اونٹی! چونکہ ہم دونوں عاشق ہیں، لہذا ہم ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لئے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے اہل نہیں ہیں۔“

”میں بھی عاشق ہوں اور تو بھی عاشق، میں لیلی کا عاشق ہوں لہذا اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو اپنے بچے کی عاشق ہے لہذا اصل بل کی طرف جاتی ہے اور یوں ہم ایک دوسرے کے ہمسفر نہیں بن سکتے۔“

اس کے بعد تجیہ اخذ کرتے ہوئے کہتا ہے  
عشق مولا کی کم از لیلی سی

بندہ بودن بہر او اولا سی

”مولہ کا عشق کیا لیلی کے عشق سے بھی گیا گزار ہے؟ جبکہ اس کا بندہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے۔“

مطلوب یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو مطلق طور پر مادی تصور نہ کریں تو تمام انسانی خصوصیات، امتیازات، اقدار اور وہ تمام امور کہ جو انسان کو غیر انسان سے ممیز کرتے ہیں، قابل توجیہ ہیں اور اگر سو فیصد مادی تصور کریں تو یہ امور قابل توجیہ نہیں ہیں۔ وہ توجیہات کہ جو مادی ہیں، خصوصاً ”مارکسی“، درحقیقت وہ قابل توجیہ نہیں ہیں، دراصل وہ توجیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک توجیہ موجود ہے جو کہ ”Existentialist“ وجودی حضرات کی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی ایک اور صورت میں توجیہ کریں۔ وہ لوگ انسان کے مادی ہونے کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ چاہتے تھے کہ انسانی اقدار کو بھی قبول کر لیں۔ اس کے بارعے میں انشاء اللہ الگی نشست میں گفتگو ہو گی۔

## باب پنجم

### روحانی عشق

مارکسزم اور انسانی اقدار کا ثبات

پہلا سوال فطريات کے معنی کے متعلق کی گئی بحث کے بارے میں ہے۔  
ان آيات کے بارے میں کہ جن میں فرمایا گیا ہے کہ  
”جنہیں اس حالت میں پیدا کیا گیا کہ تم کچھ نہ جانتے  
تھے۔“

اور وہ کہ جنہیں ہم آیات بیثاق و فطرت کے نام سے جانتے ہیں وہاں  
ہم نے بات کچھ اس انداز سے کی تھی کہ اسلامی فلاسفہ کا نظریہ کچھ یوں ہے کہ  
انسان فطري طور پر کچھ معلومات رکھتا ہے۔ ان معنی میں کہ یہ معلومات اكتسابی نہیں  
ہیں نا کہ ان معنی میں کہ با فعل اور عمل یہ معلومات اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ  
انہیں ساتھ لے کر آیا ہوتا ہے کیونکہ اپنے ساتھ لانے اور پہلے سے کسی چیز کے  
حاصل ہونے کا مطلب مختلف ہے جبکہ اس بات کا مطلب کہ جب اسے حاصل ہو  
تو اكتسابی طریقے سے ہے ہو۔ یہ ہے تھکہ جو نہیں وہ مطلب اس کے سامنے آئے اس  
کا ذہن بغیر کسی دلیل کی مدد کر کر اسے پالے اور سمجھ لے۔ اس بات کو سوال  
میں مسئلہ عالم ذر سے مسلک کر کے بیان کیا گیا ہے۔  
پوچھا یہ گیا ہے کہ

کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا خدائی بیثاق اور عالم ذر میں ”مبلی“  
(اقرار) کہنا کیا ہے؟ جبکہ علم، تصورات و تصدیقات کا مجموعہ ہے اور اگر یہ طے ہو  
کہ اس تصدیق اور ”مبلی“ کے بارے میں ہمیں کچھ یاد نہیں تو پھر خدا تعالیٰ اس  
بات کو کس طرح شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے اور ہمیں یاد دہانی کرتا ہے؟  
نہیں یہ دلوں با تیں ایک دوسرے کے محتاجی نہیں ہیں، ہم پہنچ نہیں

پائیں گے، اگر پہنچ پاتے تو ”آیہ ذر“ کا صحیح مفہوم بیان کرتے، البتہ ہم آپ کو تفسیرالمیز ان کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ میں نے تفسیرالمیز ان کا فارسی ترجمہ تو نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن المیز ان، جلد ۸ کے متن کو میں نے دیکھا ہے، اس میں آیت کے بارے میں بہت عمدہ گفتگو کی گئی ہے۔ آج کی گفتگو میں ایسے موضوعات آئیں گے کہ جن کے ضمن میں ہم اس آیت کے متعلق زیادہ وضاحت کریں گے۔

## عشق روحانی کی حقیقت کے بارے میں پچھا اور.....

دوسرा سوال یہ کیا گیا ہے کہ

ہر طرح کے روحانی عشق کو ہم عشق حقیقی اور ذات باری تعالیٰ سے عشق اور اس سے پھوٹنے والا کیسے قرار دے سکتے ہیں، جبکہ یہ معشوق ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے؟ قبل ازیں ہم نے ایک نظریہ بیان کیا ہے کہ جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے مانے والے معتقد ہیں کہ عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسمانی عشق اور دوسرا روحانی عشق۔ یعنی بعض عشق روحانی ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں، یہاں اشتباہ (غلط فہمی) نہ ہو کہ ان کے نظریے کے مطابق انسانوں کے بعض عشق روحانی ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ انہیں کس طرح سے ذات باری تعالیٰ سے حقیقی عشق قرار دیا جاسکتا ہے؟ سوال کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق روحانی میں معشوق حقیقی یہ شخص نہیں ہوتا، بلکہ یہ شخص تو ایک محرك کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک مظہر کے مانند ہے، اگرچہ عاشق سمجھے کہ اس کا

معشوقِ حقیقی یہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر عرفاءِ عشقِ مجازی کے قائل ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر طرح کے عشق کو حقیقی ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمالِ حق کے علاوہ کوئی جمال ہی نہیں ہے اور ہر دوسرا سوال جمال اس کے جمال کا پرتو یا آئینہ ہے۔ ہر جمال جس حد تک بھی جمال ہے اتنا ہی ہے جتنا کہ اس کے پرتو کا حامل ہے اور انسان کی فطرت کہ جو کمال و جمال کی جستجو میں ہے، کمال محدود اور جمال محدود کی طلبگار نہیں ہے، کمال مطلق اور جمال مطلق کی ممتنی ہے، یعنی انسانی فطرت کی طلب تو وہ ہے لیکن مصدق میں اشتباه کی وجہ سے وہ اس محدود جمال کے پیچھے چل پڑا ہے۔ یہ محدود جمالات جس قدر ”اس“ کا مظہر ہیں، اسی قدر معشوق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب اس تک پہنچتا ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے محبوب کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، وہ اپنے لاشور میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جس کی میں تلاش میں ہوں۔ انسان کے لئے ایک سوال ہے اور وہ یہ کہ انسان ان چیزوں کا اس قدر طالب کیوں ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہیں؟ پھر جب وہ انہیں پالیتا ہے تو وہ گرمی (ولوہ جذبہ) اور طلب ختم (کیوں) ہو جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں اس میں ایک بے دلی (ناامیدی) اکتائہست کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر حال یہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان ان چیزوں کا اس قدر خواہش مند کیوں ہے اور ان کی آرزو کیوں کرتا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہیں؟ اور جب انہیں پالیتا ہے تو تدریجیاً ان کی طرف میلان (رجان) گھٹتے (کیوں) لگتا ہے۔ بالفاظ دیگر کہتے ہیں کہ انسان تنوع پسند ہے، ایسا کیوں ہے؟ قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ جو چیز تقاضائے طبیعت ہے اور انسان اسے

چاہتا ہے، کیونکہ اسے چاہتا ہے، لہذا اسے پا کر اسے اطمینان حاصل کرنا چاہئے تو پھر بعد میں اسے کیوں چھوڑ دینا چاہتا ہے؟ اور تنوع پسند ہے، پھر چاہتا ہے کہ کسی دوسری چیز تک جا پہنچے۔ اس معشوق کو چھوڑے اور دوسرے معشوق کی راہ لے، پھر اسے بھی چھوڑے اور کسی طرف چل پڑئے یہاں تک کہ یہ بات ضرب المثل بن گئی کہ انسان ہمیشہ اس چیز کی طلب میں رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور یہ بات درست بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس چیز کا طالب ہے کہ جو اس کے پاس نہیں اور اس سے پیزار ہے جو اس کے پاس ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بعض کا خیال ہے کہ یہ انسان کی ذات اور فطرت کا لازمہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں انسان کی ذات اور فطرت کا لازمہ ہے؟ سرگردان رہنا تو انسان کی ذات کا لازمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ سرگردان رہنا ہمیشہ انسان کی ذات کا لازمہ ہے اور یہ کہ وہ دائمًا اپنا مطلوب تبدیل کرتا رہے۔ اس کا صحیح تجزیہ وہی بات ہے کہ جو عرفاء نے کہی ہے کہ انسان اگر اس تک پہنچ جائے کہ جو اس کا مطلوب حقیقی ہے تو پھر آرام پا لیتا ہے۔ انسان درحقیقت اپنی ذات کے اندر سرگردان نہیں ہے، یہ سب سرگردانی اس امر سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس حقیقت کو بھیم (لاشموری) طور پر چاہتا ہے اور اس تک پہنچ کے لئے کوشش کرتا ہے۔ کبھی ایک چیز کو پا لیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ یہ وہی ہے، لیکن جب ایک عرصہ قریب ہو کر اسے دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت اور فطرت اسے مسترد کر دیتی ہے اور پھر کسی دوسری چیز کی جستجو میں لگ جاتا ہے، یونہی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگر اپنے مطلوب حقیقی تک جا پہنچ تو وہ حقیقی سعادت اور حقیقی آرام تک جا پہنچ گا

اور حقیقی سعادت لازمی طور پر ہر چیز سے بالاتر آرام اور اطمینان کے معنی میں ہے۔ میکی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے:

الذین امنوا و تطمئن قلوبہم بذکر اللہ

”جو لوگ ایمان لائے اور وہ کہ جن کے دل ذکر الہی سے  
قرار پاتے ہیں۔“

پھر فرماتا ہے:

الا بذکر اللہ تطمئن القلوب

”تجبر ہے کہ ذکر الہی ہی سے دل قرار پاتے ہیں۔“

”الا“ حرف تنبیہ ہے، تاکید اور تنبیہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی توجہ کریں، خبردار ”بذرک اللہ“ جار و مجرور ہے اور ”تطمئن القلوب“ سے متعلق ہے اور اس پر مقدم کیا گیا ہے اور جب جار و مجرور فعل سے مقدم ہو جائے تو یہ حصر کی علامت ہے، یعنی جب بھی مطلب یہ ہے کہ صرف کامفہوم دیتا ہے۔ ”الا بذرک اللہ تطمئن القلوب“ یعنی صرف یادِ خدا سے دلوں کو آرام ملتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی بھی اور مطلوب کو پالینے سے انسان کو حقیقی اطمینان نصیب نہیں ہوتا، ایک وقت سا اطمینان ہوتا ہے۔ یہ بھی اس وقت تک کہ جب تک وہ سمجھتا ہے کہ اسے مطلوب حقیقی مل گیا ہے، لیکن جب کچھ عرضہ اس کی فطرت اسے قریب سے دیکھتی ہے اور اسے پہچان لیتی ہے اور صحیح طور پر اس امر کا ادراک کر لیتی ہے کہ اس کے درمیان ایک طرح کی عدم ہم آہنگی موجود ہے تو پھر اس کے اندر اس کے لئے ایک طرح کی بیزاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ہی

حقیقت ہے کہ انسان اگر اسے پالے تو پھر حال ہے کہ اس سے بیزاری پیدا ہوا اور وہ خداوند تعالیٰ ہے اور یہ اطمینان تبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا دل ”حقیقت“ تک ”اس“ تک اور ”توحید“ تک پہنچ جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہشت کو عالم ہستی کی بدترین جگہ قرار دینا چاہئے، کیونکہ بہشت میں ایک طرح کی یکسانیت ہے اور پھر ہر چیز تو بہشت میں انسان کو میسر ہے اور جب ہر چیز میسر ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کچھ بھی میسر نہ ہو۔ جب انسان کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو وہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے اور جب پالیتا ہے تو اسے اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر پہلے سے ہی اسے میسر ہو تو یہ امیروں کے بچے کی طرح ہے کہ دنیا میں آنکھ کھولتے ہی جس کے لئے خوشی کے سارے سامان فراہم ہوتے ہیں، کوئی چیز اس کے لئے نہیں ہوتی، لہذا اس کے لئے لغت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کسی غریب کا بیٹا کہ جو ننگے پاؤں گلی میں چلتا ہو اسے اگر ایک جوڑا جو توں کا میسر آجائے تو اس کے لئے اس میں بڑی لذت ہے، لیکن جس کے لئے پا برہنہ ہونے کا کوئی مفہوم ہی نہ ہو اور جس نے اس درد کو محسوس ہی نہ کیا ہو وہ جو تے ہونے کی لذت کو ہرگز محسوس نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رو سو اپنی کتاب ”امیل“ میں کہتا ہے کہ جن کے بچے عیش و عشرت میں پل کر بڑے ہوتے ہیں، ان کے لئے لذت کا احساس کوئی معنی نہیں رکھتا (یعنی لذت آور چیزوں سے وہ کوئی لذت حاصل نہیں کرتے)، جبکہ تکلیف وہ چیزوں کے بارے میں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور چھوٹی سی تکلیف پر بھی تملنا اٹھتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس وہ بچے جو مصیبتوں اور رختیوں میں پل کر بڑے ہوتے ہیں، انہیں درد اور تکلیف کا احساس

نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی سختیوں کو برداشت کرنا ان کے لئے آسان ہے، بلکہ سختی کا بالکل احساس نہیں کرتے اور کوئی چھوٹی سی خوشی مل جائے تو اس سے بہت زیادہ لذت اٹھاتے ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں، لہذا بہشت کو قاعدتاً عالم ہستی کی ہر جگہ سے بڑھ کر تھکا دینے والی اور بے لذت ہونا چاہئے، کیونکہ وہاں پر ہر طرح کی لذت و آسائش فراہم ہے، اس جگہ کو تو ایک جیل بلکہ سب جیلوں سے بدتر ہونا چاہئے۔ قرآن ایک جگہ پر گویا اسی نکتے کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے:

لا يبغون عنها حولا (کہف، ۲۰۸)

”اہل بہشت وہاں پر تحول اور تبدیلی کی خواہش نہیں کریں  
گے“

یعنی بہشت میں ان کے لئے تھکاوت اور اکتاہٹ نہیں ہے (اس سلسلے میں اور بھی آیات ہیں)، ہاں! ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ بہشت اگر ایک باغ کے مانند ہوتی، زیادہ سے زیادہ ایک باغ جاؤ داں ہوتی، یعنی اس کی تمام چیزیں دنیا کی مانند ہوتیں اور انسان بھی اپنی بشریت کے اعتبار سے دنیا والی کیفیت ہی کا حامل ہوتا تو معاملہ بالکل اسی طرح کا ہوتا، یعنی اگر دنیا میں بہشت کو اسی دنیا کے افراد کے لئے بنایا جائے اور فرض کریں کہ وہ جاؤ داں (امر ہونا) بھی ہو جائے تو پہی اشکال (اعتراض، غلط فہمی وجود میں آتی ہے) اس پر بھی وارد ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اہل جنت کے لئے بہشت نعمات الہی میں سے ایک انعام ہے، یہاں تک کہ بہشت جسمانی اور لذات جسمانی بھی ان کے لئے خدا کی طرف سے

ایک لطف و عنایت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان عرفان و معرفت کی ایک خاص حد تک نہ پہنچ جائے، بہشت اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اہل جنت کے لئے لذتوں کی اساس یہی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کا مہمان ہے اور اسی کے خوان نعمت پر بیٹھا ہے، یعنی وہ ایک ایسی حقیقت سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ اس سے وابستہ و پیوستہ ہونے کے بعد پھر اکتا ہے، تبدیلی، تغیر، تنوع اور اس کے کوچے سے کسی اور جگہ کی طرف رخ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوسرے الفاظ میں خدا کے علاوہ کوئی چیز بھی اللہ کے کرم اس کے لطف، اس کی عنایت اور اس کے خوان نعمت کو چھوڑ کر کچھ بھی انسان کے لئے مطلوب جاؤ داں (ہمیشہ باقی رہنے والا امر ہونا) نہیں ہو سکتا، فقط اللہ ہی ہے جو انسان کا مطلوب جاؤ دیں ہے۔ بہشت میں انسان کے لئے اکتا ہے اور دل بھر جانے، تنوع طبلی یا وہاں سے کسی اور جگہ جانے کی خواہش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں سے کہیں اور کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ”دوسری جگہ“ کا تصور تو ان محروم امور میں پیدا ہوتا ہے جبکہ بہشت میں ”دوسری جگہ“ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بات کہاں سے کہاں آنکھی بات روحاںی عشق کے بارے میں ہو رہی تھی کہ ہم اس طرف کھنپتے چلے آئے۔

### عشق عرقاء کی نظر میں

مجھے اسی بہت سے بات کرنا ہے کہ عرقاء کا ادعا ہے کہ ہر عشق عشق حقیقی

ہے۔

عشقِ حقیقی است مجازی مگر  
 این دم شیر است بہ بازی مگر  
 عرفاء فلسفہ کے اس نظریے کو نہیں مانتے کہ عشق و دشمن کا ہے۔ ان کا  
 دعویٰ ہے کہ مجازی معشوق بھی اسی کا پرتو ہوتا ہے، عاشق اسی لئے اس پر فریفہتہ ہوتا  
 ہے، چاہے اسے اس راز کی خبر نہ ہو۔ ان کے نظریے کے مطابق اصلاً محال ہے کہ  
 انسان غیر خدا سے محبت کرے۔ مجی الدین کہتے ہیں:

ما احباب احمد غیر خالقه

”کبھی کسی نے اپنے خالق کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں  
 کی۔“

(مجی الدین ابن عربی کی ایسی ہی باتوں کی بناء پر بعض فقہاء نے انہیں  
 برا بھلا کہا ہے) وہ ہر یہ کہتے ہیں:

لکن احتجب عنہ تعالیٰ تحت زینب و سعاد و

ہندو۔ (شرح صحیفہ سجادیہ از سید علی خان)

و لیکن اس کا خالق ان مجازی معشوقوں کے ناموں کے  
 پردوے میں ہوتا ہے (جبکہ معشوقِ حقیقی خود وہی ہے)۔“

اس سلسلے میں مولانا روم کے بہت سے اشعار ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

جرعہ ای بر ریختی زان خنیہ جام

بر زمین خاک من کاس الکرام

اس میں بطور تمثیل کہا گیا ہے کہ جامِ عشقِ الہی کا صرف ایک گھونٹ

زمیں پر گرا ہے اور انسان اگر کسی موجود خاکی سے محبت کرتا ہے تو یہ اسی گھونٹ کے لحاظ سے ہی ہے کہ جو خاک میں آلا ہے۔

گشت بر زلف و رخ جرم نشان

خاک راشاہان ہمی لیشد از آن

خاک: کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس انسان کا بدن خاک کے سوا کچھ نہیں۔

شاہان: شاہان سے شاعر کی مراد ”فی حد اعلیٰ“ اور وہ لوگ ہیں کہ جن کا ناز زیادہ ہوتا ہے۔

یہ عارف کہتا ہے کہ اگر سب خاک کو اس طرح آغوش میں لیتے ہیں اور اسے اس طرح سے پیار کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اس گھونٹ میں سے کچھ اس میں موجود ہے۔

پھر کہتا ہے۔

جرمه خاک آمیر چون مجنوں کند

مر شمارا صاف او تا چون کند

کہتا ہے کہ اس معشوق مجازی میں اس گھونٹ میں سے ایک قطرہ مل گیا ہے، اس نے تمہارا یہ حال کر دیا ہے، لیکن اگر تمہیں وہ خالص شراب میر آجائے، یعنی تم اگر اس حقیقت تک جا پہنچو تو پھر کیا ہو گا؟

لہذا اس میں کوئی تضاد نہیں کہ انسان کا بظاہر اس کے اپنے اپنے خیال میں معشوق ایک انسان ہو، لیکن درحقیقت معشوق حقیقی وہ انسان نہ ہو بلکہ وہ ظاہر ہو کہ جس نے اس مظہر کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہو۔

## کیا انسانی اقدار متغیر ہیں؟ (Human Values)

تیرساوال کہ شاید جس کے بارے میں زیادہ بحث کی ضرورت ہے، یہ ہے:

ایک مارکسٹ جب انسانی اقدار کا دفاع کرتا ہے اور مادیت (Materialism) پر بھی یقین رکھتا ہے، وہ ان دونوں کے درمیان عدم تناقض کی توجیہ کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ ہم انسان کو ایک موجود ثابت اقدار بھی ثابت اور مستقل نہیں ہیں) اور ہم اجتماعی نظام کے ساتھ ساتھ اسے کمال پڑیر سمجھتے ہیں، لہذا ہر زمانے میں اخلاقی اقدار اس زمانے یا اس دور سے منحصر ہوتی ہیں۔ اخلاقی جاگیرداری (Feudral Values)، اخلاق اشتراکی سے مختلف ہے، لیکن پرولیتاری طبقہ (مزردor طبقہ "Proletariat") کسی شخص ( واضح) و معین تاریخی مرحلے پر چند اشتراکی اخلاقی اقدار کی حماستکر سکتا ہے، لہذا کوئی تناقض موجود نہیں ہے اور متغیر اخلاقی اقدار کو قبول کرنے سے ضروری نہیں ہو جاتا ہے کہ فطریات اور غیر مادہ کے وجود کو قبول کیا جائے۔

یاد رہے کہ ہم قبل از اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں کہ فلسفہ مادیت (Materialistic Philosophy) اور انسانی اقدار کے درمیان ایک طرح کا تناقض و تضاد موجود ہے۔ یہ ایک اچھا سوال ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ انسان ایک متغیر موجود ہے، لہذا انسانی اقدار بھی متغیر

ہیں۔ دوسرے لفظوں میں چونکہ انسان ثابت نہیں ہے، لہذا لازمی طور پر انسانی اقدار بھی ثابت نہیں ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ نکتی ہے کہ جب انسان اور انسانی اقدار ثابت نہیں ہیں اور متغیر ہیں تو پھر کمال پذیر ہیں۔ اس پر ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کمال کا معیار کیا ہے؟ اس بارے میں الگ بحث کی جانی چاہئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں:

”لہذا ہر زمانے میں اخلاقی اقدار اس زمانے یا اس دور سے مختلف ہوتی ہیں، اخلاق جا گیرداری، اخلاق اشتراکی سے مختلف ہے۔“

یہاں دو حوالے سے بات کی گئی ہے اور شاید خلط ملط ہو گئی ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ انسانی اقدار ثابت نہیں ہیں اور متغیر ہیں۔ یہ بات نسبیت اخلاق سے متعلق ہے، یعنی انسانی اقدار میں سے جو اخلاق سے مربوط ہیں، وہ متغیر ہیں، یہ مسئلہ اخلاق کے متغیر اور نسبی ہونے سے متعلق ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ انسانی اقدار بیشمول اخلاقی اقدار واقعاً متغیر ہیں؟ یہ چند اقدار کہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کیا واقعاً متغیر و متحول ہیں؟ مثلاً ہم نے بیان کیا ہے کہ حقیقت جوئی (حقیقت کی تلاش) انسان کے لئے ایک قدر (Value) ہے، کیا یہ قدر متغیر ہے؟ مثلاً پہلے اشتراکی (سوشلسٹ) دور میں، پھر کھجتی باڑی کے زمانے میں، پھر غلامی کے زمانے میں، پھر جا گیرداری کے دور میں، پھر سرمایہ داری کے زمانے میں اور پھر کیونٹ زمانے میں انسان کے لئے کیا یہ قدر تبدیل ہوتی رہی ہے یا یہ انسان کے لئے ایک ثابت اور غیر متغیر قدر رہی ہے؟ ٹائیاً اگر یہ اقدار متغیر ہوں تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدر (Value) اپنے زمانے میں ہی صحیح ہے اور دوسرے زمانے میں ناپسندیدہ ہے مثلاً جاگیردارانہ اخلاق کو ہی لے لیں کیا ہم شخص اسے جاگیردارانہ دور میں ہونے کی وجہ سے جاگیردارانہ اخلاق کہہ سکتے ہیں اور اس کی تائید کر سکتے ہیں اور اسے صحیح سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ اس دور میں کسی چیز کو اخلاق صحیحتے تھے؟ اسی کی تائید کرنی چاہئے۔ اگرچہ وہ اس طرح کے افسانے کو ہی اخلاق صحیحتے تھے کہ مثلاً ضحاک، ہر روز ایک جوان کو قتل کیا کرتے تاکہ اپنے کندھوں پر بیٹھے سانپوں کو ان کا مغز کھلا سکے یا یہ بات نہیں بلکہ ایک طرح کے مستقل اصول کا فرمایا ہے؟ فرعون کا کام اس کے زمانے میں بھی ناپسندیدہ ہے نہ یہ کہ فرعون کا کام چونکہ فرعون کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اس لئے اس کے اپنے زمانے میں صحیح ہے اور ہم چونکہ دوسرے زمانے میں ہیں، لہذا ہمیں اپنی اقدار کو فرعون و موسیٰ کے زمانے پر لاگو نہیں کرنا چاہئے۔ فرعون کا تعلق چونکہ ایک دوسرے زمانے سے تھا اور اس زمانے میں جسے اخلاق صحیحتے تھے وہ ایک صحیح اخلاق تھا، کیا ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ ٹالا اس بیان میں طبقاتی اخلاق کا سہارا لیا گیا ہے، قاعدتا ہونا بھی یوں ہی چاہئے، یعنی مارکسزم ایسے انسانی اخلاق کا قائل نہیں ہو سکتا جو سب انسانوں کے لئے اخلاق قرار پائے۔ اس بیان کے مطابق ہمارے زمانے میں جبکہ ان سارے نظاموں کا نمونہ موجود ہے، جاگیرداری، سرمایہ داری اور کمیونٹم ہر ایک کا نمونہ موجود ہے تو ہمیں کہنا چاہئے کہ ایک کمیونٹ کے لئے اخلاق واقعًا ایک اور چیز ہے اور سرمایہ دار کے لئے اخلاق کوئی دوسری چیز ہے۔ ایک سرمایہ دار ایک کمیونٹ سے کہہ سکتا ہے اور اسی

طرح سے ایک کیونٹ ایک سرمایہ دار سے کہہ سکتا ہے کہ تم اپنا اخلاق مجھ پر نہیں  
 ٹھوں سکتے، کیونکہ تمہارے حالات اور تقاضے جدا ہیں اور ہمارے حالات اور  
 تقاضے جدا۔ اگر میں تمہارے حالات میں ہوتا تو تمہارا اخلاق قبول کر لیتا اور اگر تم  
 میرے حالات میں ہوتے تو میرا اخلاق قبول کر لیتے، لہذا نہ میں تمہیں کچھ کہہ سکتا  
 ہوں نہ تم مجھے کچھ کہہ سکتے ہوئے ایک کیونٹ ایک سرمایہ دار کو اخلاقی حوالے سے  
 برا کہہ سکتا ہے اور نہ کوئی سرمایہ دار کسی کیونٹ کو اخلاقی حوالے سے غلط کہہ سکتا  
 ہے، کیونکہ اس نظریے کے اعتبار سے کوئی ایسا مشترک انسانی اور فطری اخلاق نہیں  
 ہے کہ جس کی بناء پر ایک کیونٹ کسی سرمایہ دار کو برا کہہ سکے اور نہ کوئی سرمایہ دار  
 کسی کیونٹ کو مورد الزام ٹھہر اسکتا ہے، ایسی کوئی مشترک چیز موجود نہیں، لہذا ہر کوئی  
 دوسرے کو جواب میں کہہ سکتا ہے کہ میرا اخلاق مجھے متعلق ہے اور تمہارا اخلاق  
 تم سے نہ تم میرا اخلاق اپنا سکتے ہو اور نہ میں تمہارا۔ اس بناء پر کہا جا سکتا ہے کہ  
 اخلاق صرف زمانوں سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ طبقاتی خصوصیات سے بھی وابستہ  
 ہے، مثلاً دنیا کے ان سارے علاقوں میں کہ جہاں آج بھی جا گیر داری نظام کا فرما  
 ہے، ان کے لئے صحیح اخلاق وہی جا گیر دارانہ اخلاق ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ  
 انسان انسان کے اعتبار سے ایسے اخلاقیات کا حامل ہے کہ جو ابتدائی زمانے کے  
 انسان کے لئے بھی اسی طرح سے صادق ہیں کہ جس طرح سے صنعتی تمدن کے  
 اس دور کیلئے۔

## ڈاکٹر ہشتر ودی کا نظریہ اور اس کا تجزیہ

اتفاق کی بات ہے کہ دو تین روز پہلے میں نے اخبار میں ایک دلچسپ بات پڑھی اور سوچ رہا تھا کہ کسی وقت آپ کو بھی سناؤں، آج چونکہ ہماری بحث بھی انہی امور سے متعلق ہے لہذا اب آپ کو سنانا ہوں۔ ۸ جون (۱۹۷۶ء) کے روز نامہ ”کیہان“ نے پروفیسر ہشتر ودی کا ایک انٹرو یوشائی کیا تھا، جس کی سرفی یہ تھی ”زمینی انسان ایک کائناتی مخلوق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے“ وہ بھی کبھی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ اسی ضمن میں اپنے بعض نظریات کی وہ ہمیشہ تکرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہم مصر کو زمین پر بننے والے انسانوں نے تغیر نہیں کیا بلکہ انہیں دوسرے سیاروں کے ترقی یافتہ انسانوں نے ہماری زمین پر آ کر بنایا ہے اور اس وقت زمین پر بننے والے لوگوں کے لئے ممکن ہی نہیں تھا کہ انہیں تغیر کر پاتے، وہ اسی طرح کی دوسری باتیں بھی کرتا ہے۔ حال ہی میں اس نے اپنا ایک ”فلسفہ اخلاق“ بھی بنایا ہے، یعنی اس نے بھی اپنی طرف سے ایک طرح کا ہیومن ازم (Humanism) گھرا ہے۔ ڈاکٹر ہشتر ودی نے اپنے اس انٹرو یوشائی میں ایک مقدمہ ذکر کیا ہے کہ جس میں وہ آج کے علم و تمدن کو ناپسند قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ علم و تمدن چونکہ انسان کے لئے ضرر کا موجب بنتے ہیں، اس لئے ناپسندیدہ ہیں۔ اس کے بیان کے بعض حصے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے:

”کوئی امر بھی مطلق (مکمل، ہتمی، یقینی) نہیں ہے، بلکہ تمام

امور نسبی ہیں، شاید آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ ریاضی کے احکام مطلق ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ بھی مطلق نہیں ہیں۔“

”کیہاں“ کا نامہ نگار کہتا ہے:

”ایران کا سینٹر ریاضی دان پروفیسر، مشترک و دی اپنی اس منطق کی بناء پر کہ کوئی امر مطلق نہیں ہے، رنجشوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اور مختلف قوموں اور قبیلوں کو محبتوں کے پرچم تلنے جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھیں۔“

اس جگہ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ ”کوئی بھی امر مطلق نہیں ہے“، کیا خود یہ امر مطلق ہے یا غیر مطلق؟ ایک بار ہم کہتے ہیں کہ اس امر کے علاوہ کہ ”کوئی امر مطلق (مکمل، حتیٰ، یقینی) نہیں ہے“، باقی تمام امور مطلق نہیں ہیں (یعنی صرف اس امر کو مستثنی کرتے ہیں، لیکن جب یہ امر مطلق ہے تو اس صورت میں استثناء کیوں ہے؟ اگر قرار یہ ہے کہ کوئی امر اور کوئی مسئلہ بھی مطلق نہ ہو تو کوئی دلیل نہیں کہ ہم اس کا استثناء کریں۔ منطقی حضرات کہتے ہیں کہ منطق کے بعض مسئلے ایسے ہیں کہ بطور عموم ان کا صادق ہونا محال ہے۔ لازمی طور پر ان میں استثناء ہوتا ہے، مثلاً کوئی کہتا ہے ”میری تمام باتیں جھوٹ ہیں“۔ یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس مسئلے کے سارے مصادیق سچے ہوں، کیونکہ اگر میری تمام باتیں جھوٹ ہوں تو خود میرا یہ کہنا بھی جھوٹ ہو گا اور اگر میرا یہ جملہ بھی جھوٹ ہو تو میری ساری باتوں کو جھوٹ نہیں ہونا چاہئے، ورنہ یہ جھوٹ نہیں ہو گا۔ بہر حال

من جملہ ان باتوں کے کہ جن کا صادق ہونا محال ہے، آیک یہی ہے کہ کوئی امر بھی مطلق نہیں ہے، اگر یہ صادق ہو تو یہ جملہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور اگر ایسا ہو تو خود یہ مطلق نہیں رہتا، پس جب یہ مطلق نہ رہا تو ہمارے پاس ایسے امور ہونے چاہیں جو مطلق ہوں۔ یہ ہوئی آیک بات، دوسری بات یہ کہ نامہ نگار کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو محبتوں کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں۔ ان صاحب سے یہ پوچھنا چاہئے کہ کیا یہ اخلاقی دستور اعمل کہ ”لوگ ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں“، امر مطلق ہے یا حکم نہیں؟ اور کیا کسی خاص زمانے سے مر بوٹ ہے یا تمام زمانوں کے لئے ہے؟ یعنی کیا یہ دستور اعمل ماضی حال اور مستقبل تمام زمانوں کے لئے بہتر ہے؟ اسی طرح یہ ہر جگہ اور ہر قسم کے حالات میں تمام لوگوں کے لئے صدق کرتا ہے یا فقط بعض لوگوں کیلئے؟ نامہ نگار کہتا ہے، تہران یونیورسٹی کے یہ پروفیسر کہ جو شیکنا لو جی اور علم کی ترقی کے ظلم و انسانیت کشی میں استعمال سے بہت رنجیدہ خاطر ہیں، کہتے ہیں:

”قروان و سلطی کے غیر متبدل امور و احکام ہماری صدی میں ختم ہو چکے ہیں اور نہ فقط یہ کہ مستقر نہیں رہے بلکہ ان کی جگہ ایسے امور نے لے لی ہے کہ جو ہرگز مطلق نہیں ہیں۔ سقراط کی حکمت عالیہ اور کانت کے بلند فلسفہ اخلاق کو اس کے ان قدر رعب و دبدبے کے باوجود آج ریا، جھوٹ، حسن، ثبات، نفس، خود غرضی اور حب ذات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آئن شاگن نے سماںی نظریات کے زمان و مکان کے اعتبار سے

مطلق ہونے کو غلط ثابت کر دیا ہے، تو دوسری طرف فرائد  
کے نظر یہ جنس نے اس فلسفہ اخلاق کی بنیادوں کو اکھاڑ کر رکھ  
دیا ہے کہ جسے ایک مطلق نعمت الہی قرار دیا جاتا ہے، لہذا جب  
سارے احکام و امور نسبی ہیں تو پھر اس بنیاد پر کہ فلاں  
میرے نظر یہ کوئی نہیں مانتا، ہمیں برادر کشی شروع کر دینی  
چاہئے۔ جو بات ہم قبول کرتے ہیں، وہ ہمارے لئے مطلق  
(مکمل، حقیقی) ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے لئے مطلق نہ  
ہو۔ جب ریاضی کے احکام مطلق نہیں ہیں اور ہر چیز نسبی ہے  
تو پھر بعض لوگ کس طرح سے کسی امر کو مطلق قرار دے کر  
ٹیکنالوجی کو برادر کشی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں؟“

وہ کہتا ہے کہ یہ جنگیں قرون وسطیٰ کے مطلق احکام کی باقیات میں سے  
ہیں، یعنی قرون وسطیٰ کے لوگ اپنے امور کو مطلق سمجھتے تھے۔ اس سے اس کی مراد  
یہ ہے کہ مثلاً فلاں دین کے پیروکار اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے اور وہ بھی حق مطلق  
اور اپنے مخالفین کو باطل مطلق جانتے تھے۔ اسی طرح مخالفین بھی مدقائق کو پوچھی  
سمجھتے تھے اور یہی امر انسانیت کی کاموجب بنتا تھا۔ ہمیں بس اتنا سمجھ لیتا چاہئے  
کہ کوئی چیز بھی مطلق نہیں ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، اگر یہ درست  
بھی ہو تو بھی بطور مطلق درست نہیں اور اگر دوسرے کو باطل کہتا ہوں اور واقعاً وہ  
باطل پر ہو تو بھی بطور مطلق باطل پر نہیں۔ میں حق نبھی پر ہوں اور باطل نبھی پر اسی  
طرح وہ بھی حق نبھی پر ہے اور باطل نبھی پر پس آئیں اور آپس میں بھائی بن کر

رہیں۔ یہ ہے اس کے نظریے کی بنیاد اس کے بعد وہ اخلاقی امور کو ریاضی کے مسائل سے خلط ملٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سقراط کا فلسفہ اخلاق جسے آج کل ایک طرح کی خود پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، درحقیقت جھوٹ اور ریاضی پر مبنی ہے۔ ان صاحب سے یہ کہنا چاہئے کہ آپ نے اپنے بیان میں ریاضی، جھوٹ، اثبات نفس اور خود پسندی کو ناپسند قرار دیا ہے، البتہ یہ کہنا کہ سقراط کا فلسفہ ان چیزوں پر مشتمل ہے، ایک بے بنیادی بات ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک طرح کی خود پسندی ہی ہے جو اخلاق کی صورت میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے فرضًا ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ سقراط کا فلسفہ ایک طرح کی خود پسندی، خود پرستی، اثبات نفس کی حس، ظاہر اور ریاضی وغیرہ پر مشتمل ہے اور اس کے اس فلسفہ اخلاق کو ناپسند قرار دیتے ہیں، لیکن نتیجتاً ہم نے یہ قبول کیا ہے کہ بطور مطلق ہم نے ان کی نفی کی ہے اور بطور مطلق مخالف اخلاق قرار دیا ہے۔ کیا ریا بطور مطلق مخالف اخلاق ہے یا بطور نسبی اسی طرح جھوٹ؟ نسبی اگر یہ بطور نسبی مخالف اخلاق ہیں تو سقراط کا فلسفہ اخلاق بھی حق نسبی ہے اور مطلقاً نفی نہ ہوا۔ آپ تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ سقراط کا فلسفہ اخلاق مجموعی طور پر منسوخ اور ختم ہو چکا ہے، پس آپ نے بطور مطلق ان کا مخالف اخلاق ہونا قبول کر لیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان فلسفہ اخلاق کا قائل ہو، لیکن اس کے ساتھ اخلاق کو متغیر اور نسبی سمجھتا ہو (ہمارا نظریہ یہی ہے اور بعد میں مزید اس کے بارے میں بحث کریں گے)، یعنی کم از کم ایک اصول کے لحاظ سے اخلاق ثابت اور اطلاق کے مساوی ہے۔ ہمارے ہاں ایک اصول اخلاق پایا جاتا ہے اور ایک فروع اخلاق، فروع اخلاق اصول اخلاق سے مختلف ہے۔ اخلاقی

اصول ثابت و استوار اور مطلق ہیں اور اگر ان سے یہ ثبوت و اطلاق جدا کر دیا جائے تو اخلاق اپنے اخلاقی حلیے (پہلو) سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک طرح کے آداب و رسوم اور منشور کی طرح ایک قسم کے مدون قواعد و ضوابط کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور یہ مقدس امر نہیں ہے کہ جو واقعاً خیر و فضیلت ہو۔ ہمیں افسوس ہے کہ استاد شہید کی اس تقریر کا باقی حصہ ٹیپ نہیں ہو سکا۔

باب ششم

انسانی ”اصالتوں“ کا ارتقاء  
 ”انسانی اقدار کا ارتقاء“

ہم جن چیزوں کو انسانی اصالتوں اور انسانی شرف و کرامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، انسانی اصالتوں کے منکر حضرات کی نظر میں یہ بھض موهومی چیزیں ہیں، البتہ ان حضرات میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض موهومات ایسی بھی ہیں کہ انسانی معاشرے کی مصلحتیں اور منافع تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو قبول کر لیا جائے ورنہ ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، مثلاً صداقت کی دھوکے اور فریب کاری کے مقابلے میں کوئی اصلاح نہیں ہے۔ وہ انسان جو سوچتا ہے کہ سچا ہو یا دھوکے بازاً اس کے لئے ان دونوں میں کچھ فرق نہیں، اگر تمام لوگ دھوکے باز ہو جائیں تو یہ سب کے ضرر میں ہو گا۔ اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہتر اور زیادہ منفعت حاصل کریں اور نقصان مکث ہو تو ضروری ہے کہ ان موهومات کو قبول کریں، لہذا فلاسفہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ شرف انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سچا ہونہ کہ دھوکے بازاً تاکہ لوگوں کے شعور ان موهومات کو قبول کریں۔ منکر گروہ کے نزدیک یہ ایسے موهومات ہیں کہ جو لوگوں کے لئے مفید ہیں، لیکن وہ ان کی ترغیب نہیں دیتے، بلکہ بر عکس ترغیب دیتے ہیں۔ مثلاً غشی کا فلسفہ کہ جو کہتا ہے کہ ان موهومات کو ایک خاص گروہ نے اپنے منافع کے لئے گھرا ہے اور ان کے بر عکس عمل کر سکتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ ان کے خلاف ہی عمل کرے۔

## ٹٹشے اور سٹاکسٹوں کے نظریات کا تقابل

پس دوسرا نظر یہ ان تمام چیزوں کو موهوم قرار دیتا ہے چاہے یہ انسانیت

کے لئے مفید ثابت ہوں یا اصلاً مفید ہی نہ ہوں۔ اس ضمن میں نئے کا ایک قول ہے کہ جو عیناً مارکسٹوں کے نظریات کے برعکس ہے۔ مارکسٹ کہتے ہیں کہ ثروت مند طبقے نے اخلاقی قوانین اور خصوصاً اخلاق کے دینی اور مذہبی اصولوں کو محروم اور غریب طبقے کی تسلیکیں کے لئے تخلیق کیا ہے تاکہ ان کی شورش (فتنہ و فساد "بلوائی") اور انقلاب کی روک تھام کر سکیں، پس دین کو اسی طبقے نے گھرا ہے۔ نئے باکل اس کے برعکس کہتا ہے، اس کے فلسفے کی بنیاد چونکہ انسانی نسل کے ارتقاء اور ایک طاقتوں برے انسان (فقہ البشر) کے ظہور پر ہے (جبکہ اس کمال و ارتقاء کو وہ صرف طاقت و قدرت میں ہی مضر بھاتا ہے)، لہذا کہتا ہے کہ کمزور طبقہ بیجی طور پر فنا کے قابل ہے، چنانچہ اس نے دین، اخلاق اور ایسے دیگر مسائل کو گھرا ہے تاکہ طاقتوں طبقے کا راستہ روک سکے۔ "Nature" ("طبیعت") کے قانون ارتقاء کی رو سے کمزور بنیادی طور پر ختم ہو جانے کے قابل ہے اور اسے ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ ضعف و کمزوری سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، توی کو باقی رہنا چاہئے تاکہ اس سے ایک توی ترنسیل وجود میں آئے اور توی انسانوں کو طبیعت اور بیجیر میں کمال حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ کمزور انسانوں کو۔ کمزور لوگوں کا وجود ناابود ہو جانے کے قابل ہیں اور انہیں ناابود ہی ہو جانا چاہیے، کمزور کی تقویت کرنا نہایت غلط کام ہے۔ دین، مذہب، انصاف، عدالت، فدا کاری، ایثار اور قربانی وغیرہ جیسے مفہوم کمزور لوگوں کی اختیاع (ایجاد) ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ زور کے ذریعے طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے اسکی باتیں گھٹھلی ہیں اور اس طرح سے وہ طاقتوں کی ترقی میں حائل ہو گئے ہیں۔ اس کی منطق میں دین

کمزوروں کا ساختہ و پرداختہ ہے تاکہ وہ طاقتوروں کا راستہ روک سکیں، جبکہ حق ہمیشہ طاقتوں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی "الحکم لمن غالب" حق اس کے ساتھ ہے کہ جو اس طبیعی تنازع میں کامیاب ہے، لہذا اُن شے تمام دینی، مذہبی اور اخلاقی معانی اور مقاہیم کی بالکل بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں کمال کے راستے میں حاصل ہیں، بہرحال یہ دوسرا نظریہ ہے۔ البتہ اور نظریات بھی ہیں کہ جو انسانیت کی اصلاح کو قبول کرتے ہیں، یعنی اسے موہوم نہیں سمجھتے، انسانیت کے ایک حقیقت ہونے کے قائل ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ اسے فطری بھی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک گروہ انہی لوگوں کا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو قبول کر لیں اور ان کے فطری ہونے کا بھی انکار کر دیں۔ پھر وہی پہلے والا سوال دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی ثابت اور مستقل حقیقت موجود نہیں ہے کوئی چیز بھی ثابت اور مستقل نہیں ہے، پس جب کوئی چیز بھی ثابت اور مستقل نہیں ہے تو انسانیت کیسے ثابت و مستقل ہے؟ انسانیت (یعنی انسانی اصلاحیں)، بھی ایک متغیر حقیقت ہے کہ جو زمانے کے حالات اور تقاضوں کے تابع ہے، ہر زمانے میں انسانی اور اخلاقی اصلاحیں اس زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ ایک زمانے میں "اخلاقی القدر واقعاً" رہتی ہوتی ہیں کہ جو مقدس بھی ہیں اور جو انسانیت سے تعبیر کی جاتی ہیں، لیکن جب زمانے کے حالات بدلتے ہیں تو یہ اقدار اور اصلاحیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ نئی چیزیں لے لیتی ہیں کہ اس زمانے میں انسانیت یہی نئی چیزیں ہوتی ہیں، پس یہ اصلاحیں ثابت اور مستقل نہیں ہیں بلکہ متغیر ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم پہلے عرض کر چکے

ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصلیں مطلق نہیں ہیں بلکہ نسبی (Relative) ہیں۔ یہ فقط زمانے کے اعتبار سے متغیر ہیں، بلکہ زمان و احمد میں بھی مختلف ماحول اور مختلف حالات میں مختلف ہیں، مثلاً طبقاتی اختلاف اور فرق کو بھی مختلف اور متعدد بنا دیتا ہے۔ ہر انسان کے لئے اس کے اجتماعی اور سماجی حالات کے مطابق اخلاق ایک چیز ہے اور یہ چیز اس سے مختلف ہے کہ جو مختلف حالات میں دوسرے لوگوں کے لئے اخلاق ہے۔ اس بارے میں ہم پہلے بحث کر چکے ہیں، لہذا انکرار لازم نہیں ہے، صرف ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے:

### انسانی اصلتوں کے ارتقاء کا مفہوم

اس مفروضہ کی بنیاد، جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں، یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ثابت و مستقل نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں متغیر ہیں، لیکن اس کی بنیاد تغیر پر ہی نہیں بلکہ تغیر اور تکامل پر ہے۔ اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسانی اصلیں ارتقاء پذیر ہیں تو اس سے ہم کون سے معنی مراد لیں کہ جو مطلق تغیر سے مختلف ہوں؟ ہر تغیر کو تو ہم ارتقاء و تکامل نہیں کہہ سکتے، اس لئے کہ قبول بھی تو تغیر ہی ہے۔ ممکن ہے ایک انسان اپنی انسانیت کے اعتبار سے کامل تر ہو جائے اور اسی طرح ممکن ہے کہ اس کے بر عکس ہو جائے کہ جسے ہم اخلاقی خرابی اور پسند کہتے ہیں۔ آیا اخلاقی پسند کا اصلًا کوئی مفہوم ہے بھی یا پھر اس کا کوئی معنی نہیں؟ یقیناً معنی و مفہوم تو ہے، ممکن نہیں کہ اس کا کوئی معنی و مفہوم نہ ہو۔ اگر کہیں کہ ایک حالت کی جگہ دوسری حالت نے لے لی ہے، یہ

تکامل۔ ارتقاء ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ارتقاء یعنی کمال ترقی کی طرف قدم بڑھانا یعنی ارتقاء کی طرف بڑھنے والی چیز جب مختلف سر احصار کو طے کر رہی ہوتی ہے تو اس میں نہ صرف عدم ثبات ہوتا ہے اور وہ ایک جگہ متوقف (جامد) نہیں ہوتی، بلکہ ایک چیز اور بھی اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کا یہ تغیر کمال کی طرف ہوتا ہے، یعنی ہم اس کے لئے ایک نقطہ ابتداء قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے یہ چیز کمال اور آگے کی طرف بڑھ چلی ہے، یعنی بعد والے مرحلے میں کہ جو نقطہ آغاز سے عالی تر مرحلہ ہے، یہی زیادہ جنم و مقدار کے ساتھ چلے چین اگر یہ تغیر کمال کی راہ میں انجام پذیر نہ ہو تو یہ حرکت ارتقائی حرکت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ راہ کمال و ارتقاء کی ہو تو ہمیں چاہئے کہ ایک امر کو سامنے رکھیں اور بعد میں کہیں کہ وہ امر ابتداء سے اس چیز میں پایا جاتا ہے، جبکہ ہم اس امر کو کمال قرار دیں اور بعد کے مرحلے میں یہی امر اس چیز میں زیادہ مقدار میں موجود ہو۔ مثلاً سائنس اور صنعت میں تکامل کو ہی لے لیں، ایک معاشرہ ایک مرحلے پر سائنس اور شیکنا لو جی اور اسرار طبیعت (Nature) کے کشف اور اس سے متعلق معلومات کے اعتبار سے ایک خاص مقام پر ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں تغیر کر جاتا ہے۔ یہاں کیا ہم ہر تغیر کو تکامل کہ سکتے ہیں؟ اگر بعد کے مرحلے میں یہ لوگ پہلے سے زیادہ جاہل اور نادان ہو جائیں، فنی اور صنعتی طاقت کے لحاظ سے کمزور پڑ جائیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ارتقائی مرحلہ طے کیا ہے، اس لئے کہ پہلے کی نسبت فرق پیدا ہو چکا ہے؟ مثلاً پڑھنے لکھنے لوگوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کمتر ہے، اسی طرح عمومی معلومات کی سطح بھی پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے، تو کیا ہم کہہ

سکتے ہیں کہ چونکہ پہلے مرحلے سے تغیر کر چکے ہیں، لہذا ارتقاء حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مطلق تغیر کو ارتقاء نہیں کہا جاتا، بلکہ ارتقاء اس وقت حاصل ہوگا، جب یہی معاشرہ بعد کے مرحلے میں کمیت (مقدار) یا کیفیت یا ہر دو اعتبار سے پہلے کی نسبت بالاتر سطح پر پہنچ جائے، مثلاً اگر پہلے ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی شرح پہچاس فیصد تھی اور اب مقدار کے اعتبار سے یہ ۶۰ فیصد ہو گئی ہے اور اگر پہلے علم و دانش اور معلومات کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ ایم اے کی سطح پر تھے تو اب یہ ڈاکٹریٹ (پی ایچ ڈی) کر سکتے ہیں۔ صنعت بھی اسی طرح ہے، یعنی جو کچھ ان کے پاس پہلے تھا وہ اب بھی ہے، البتہ کچھ اضافے کے ساتھ دوسرے الفاظ میں وہی چیز ان کے پاس بالاتر سطح پر موجود ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ارتقاء میں ایک نقطہ آغاز کمال کو پیش نظر رکھیں اور پھر اسی مبداء نقطہ آغاز کمال سے ایک راستے کو مدنظر قرار دیں کہ کوئی چیز اس راہ پر دوسرے مرحلے میں بالاتر سطح پر موجود ہو تو اسی کو ارتقاء کہتے ہیں۔

### انسانی معاشرے کے ارتقاء کی اقسام

#### ۱۔ طبیعت (Nature) کے ساتھ انسانی رابطے میں ارتقاء

انسانی معاشرے کی ترقی اور تکامل کئی طرح سے ہے (فلسفہ تاریخ میں ”ارتقاء“ کے باب میں اس چیز پر بحث کی جاتی ہے)، جب ہم کہتے ہیں کہ انسانی معاشرہ راہ ارتقاء طے کر رہا ہے تو ایک وقت ہماری مراد فی مسائل ہوتے ہیں، یعنی

انسان طبیعت کے حوالے سے ترقی کے مارچ طے کر رہا ہے۔ انسان طبیعت سے مزبوط ہے اور ہمیشہ اس سے معرکہ آرائی کی حالت میں ہے وہ چاہتا ہے کہ طبیعت پر غالب آجائے اور اس پر مسلط ہو کہ اس سے اپنی خدمت لے اور اس میں شک نہیں کہ انسانی معاشرہ طبیعت کے حوالے سے نکمال (ارقائی) کے مراحل طے کر چکا ہے اور کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم گزشتہ ادوار کو منظر رکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جس چیز کو آج ہم ملکنا لوگی، صنعت "کائنات میں تصرف" یا "طبیعت پر تسلط" کے نام سے یاد کرتے ہیں، روز بروز ترقی کر رہی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔

## ۲۔ معاشرتی ڈھانچے کے باہمی روابط میں ارتقاء

دوسرامسئلہ انسانوں کے باہمی روابط کا ارتقاء ہے، لیکن مراد مجموعی طور پر معاشرتی ڈھانچے کے باہمی روابط ہیں، یعنی معاشرہ انتظامی اخبار سے ایک زندہ موجود کے مانند ہے کہ جتنا سادہ اور بسیط ہو اس میں شعبوں کی تعداد جس قدر کم ہو وحدت و بساطت کی حالت زیادہ ہوگی۔ جس قدر نکمال کے مراحل طے کرتا ہے، اتنا ہی اعضا، اجزا اور شعبوں کے اخبار سے پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس قدر کام مختلف شعبوں میں زیادہ تقسیم ہوتا ہے، اسی قدر اس پیچیدگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بے شک اس لحاظ سے بھی انسانی معاشرہ ترقی کر چکا ہے، مثال کے طور پر آج کے اور پچاس سال پہلے کے ایرانی معاشرے کے مختلف پیشوں، علمی شعبوں اور مختلف دفاتری عہدوں کو منظر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ معاشرہ ایک

نوزائیدہ حیوان کی مانند کم اعضاء پر مشتمل تھا، روز بروز اس کے اعضاء میں اضافہ ہوتا گیا۔ مثلاً کسب معاش کہ جو مبادلات کا ذریعہ ہے اور وسائل زندگی فراہم کرتا ہے کے اعتبار سے کوئی اگر مختلف پیشوں کا شمار کرتا تو پورے تہران میں شاید دس سے زیادہ پیشے نہ تھے، یعنی اس وقت معاشرہ اس سے زیادہ پیشوں کا تقاضا نہیں کرتا تھا۔ دیہاتوں میں جاتے تو دیکھتے کہ ایک ہی دکان بیک وقت سبزی، عطر، سیپیشی اور گوشت کی دکان ہے، جو کچھ بھی چاہئے وہاں سے ملے گا۔ لیکن جیسے جیسے معاشرہ ترقی کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صنعتی ترقی کے باعث ایسے نئے پیشے وجود میں آ رہے ہیں اور ایجاد ہوئے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھے، مثلاً میوزک سنٹر کہ جن کا پیشہ یہی ہے کہ کیسٹیں ٹیپ کر کے بیجتے ہیں، ان کیسٹوں میں بعض نہ ہی کیسٹیں بھی ہیں، بعض دکانیں تو صرف نہ ہی کیسٹ ہی فروخت کرتی ہیں، دفتری کام بھی اسی طرح ہیں۔ مختلف وزارتوں کو دیکھیں کہ (ابھی ممکن ہے کسی حد تک بعض امور مصنوعی اور بناولی ہوں، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ وہ واقعاً اجتماعی طور پر ضروری ہیں)، ناصر الدین شاہ کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ ایک دو وزیر تھے جو تمام امور نمٹاتے تھے۔ آج اگر مختلف وزارتوں کے امور کو واقعاً انجام دینا چاہیں تو صرف ایک کام مثلاً پانی اور بجلی کے محکمے کا کام ناصر الدین شاہ کے زمانے کے تمام امور کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے بھی انسانی معاشرہ تکامل (ارقاء) حاصل کر چکا ہے اور یہ صرف ایران سے شخص نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اسی طرح ہے، پیشوں کے زیادہ ہونے اور کاموں کی مختلف شعبوں میں تقسیم ہونے، چہارت (صنعت و حرفت) کے مختلف شعبوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے

معاشرے میں یک رنگی (لوگوں کی آپس میں مشابہت) ختم ہو رہی ہے اور یہ چیز عمرانیات (Sociology) کے لحاظ سے بھی کافی اثر رکھتی ہے، کیونکہ انسان اپنے کام سے مشابہت رکھتا ہے اور اسی طرح کام انسان سے مشابہت رکھتا ہے، نیز کام انسان کی تغیری میں بھی موثر ہے۔ اس زمانے میں جبکہ کام اور پیشے زیادہ نہ تھے مختلف انسان ایک دوسرے سے آج کی نسبت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ آج کل کام اتنے پھیل گئے ہیں کہ کاموں کی مختلف انواع میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مثلاً ایک آدمی کہ جس کی زندگی کوئی کام کرتے ہوئے گزری، دوسرے آدمی سے لازمی طور پر انہٹائی مختلف ہو گا کہ جس کا سروکار کسی اور کام سے ہے اور حقیقت میں یہ دو مختلف روحلیں ہیں اور یہ ایک ایسی مشکل ہے کہ جو خواہ مخواہ وجود میں آئی ہے۔ اس لحاظ سے صحیحی تکامل (ارقاء) مفہوم رکھتا ہے، یعنی اس ابتدائی دور میں، جب ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک زندہ موجود کی صورت میں سامنے آیا یہ ایک ایسے تقسیم شدہ اجتماع کی مانند تھا کہ جو تمام کا تمام ایک ہدف اور مقصد کے حصول کے لئے کوشش کرتا۔ اسی جہت سے انسانی معاشرہ زمانے کے ساتھ ساتھ زیادہ ترقی یافتہ ہوتا گیا، یعنی جو کچھ پہلے دور میں اس کے پاس تھا وہ بعد والے زمانے میں بھی اس کے پاس ہے البتہ اضافے کے ساتھ، یعنی ہر دور میں اس اصل میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا گیا اور بعد والے زمانوں میں یہی چیز ایک بالآخر اور برتر سطح پر پہنچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تکامل (ارقاء) مطلق تغیر کا نام نہیں ہے، تکامل کے لئے معیار کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو کچھ پہلے مرحلے میں اس کے پاس تھا، بعد کے مرحلے میں وہی چیز پیشہ کامل تر اور زیادہ ہو، دوسرے الفاظ میں

”تکامل“ کے لئے ایک خاص مقدار اور ایک خاص راستہ ان شرائط کے ساتھ ضروری ہے۔

### ۳۔ انسانیت میں تکامل (ارتقاء)

یہاں اگر ہم انسانی اقدار کے اصول کو نظری اور مستقل مان لیں، تبھی تکامل (ارتقاء) کوئی معنی پیدا کرے گا، مثلاً جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، انسانی اقدار (جبتوئے حقیقت) میں سے ایک قدر ہے۔ اگر حقیقت کی تلاش و جبتو اور طلب میں پہلا انسان ہی حقیقت جو (متلاشی حقیقت) اور حقیقت خواہ (طالب حقیقت) تھا، بعد کے دور میں اس نے طلب حقیقت میں ترقی کی اور پہلے سے زیادہ حقیقت سے وابستہ اور حقیقت طلب ہو گیا ہے تو اس نے تکامل (ارتقاء) حاصل کیا ہے۔ زیبائی سے محبت بھی اسی طرح ہے، اگر جمال اور زیبائی خود معیار ہو اور ایک معین مفہوم رکھتی ہو تو اس ضمن میں بھی تکامل (ارتقاء) بامعنی ہو گا۔ پہلا انسان زیبائی کو پسند کرتا تھا اور آج کا انسان بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پہلا انسان اگر کسی چیز سے محبت کرتا تھا، تو آج کا انسان اس سے بڑھ کر اس چیز سے محبت کرتا ہے اور یہی حال ہنر (Art) کا ہے کہ جو تخلیق زیبائی (جمال) ہے، یعنی پہلا انسان تخلیق زیبائی (جمال) کرتا تھا، جبکہ آج کے انسان نے اسی میں ترقی کی ہے۔ خیر اور اخلاقی فضائل نیز عشق و پرستش بھی اسی طرح ہی ہیں، لیکن اگر تکامل (ارتقاء) کو ابتداء سے ہی تغیر مختص سمجھ لیں، یہاں تک کہ اس کے لئے وحدت راہ ہی کے قائل نہ ہوں، یعنی اس کے لئے کسی معیار کے معتقد نہ ہوں، مثلاً یہ کہ پہلے زمانے کا

انسان اپنے زمانے میں جستجو ہے حقیقت کو اپنے لئے ایک قدر سمجھتا ہوا اور انسانیت کا معیار حقیقت جوئی تھا، لیکن آج یہ معیار تبدیل ہو گیا ہے اور جستجو ہے حقیقت کی جگہ کسی اور چیز نے لے لی ہے اس صورت میں کس طرح آپ اس کا نام ”تکامل“ (ارتقاء) رکھیں گے؟ معیار کا ثابت و مستقل ہونا انسان کے ثابت اور مستقل ہونے سے مختلف ہے۔ ان دو کو آپس میں خلط ملط کر دیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اگر انسانیت کے معیار کو کہ جو مدار اور راہ انسانیت ہی ہے ثابت و مستقل سمجھیں تو یہ یوں ہے کہ جیسے انسان کو ثابت سمجھا جائے اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ سورج کے اروگرد زمین کا مدار ایک معین اور ثابت مدار ہے یعنی زمین جب سورج کے گرد گھومتی ہے تو ایک بیضوی شکل کے مدار میں حرکت کرتی ہے اور سورج سے اس کا فاصلہ فلاں مقدار سے کم اور فلاں مقدار سے زیادہ نہیں ہوتا، موسم بہار میں اس قدر فاصلہ ہوتا ہے اور خزان میں اتنا گرمیوں میں اس قدر اور سردیوں میں اتنا۔ کوئی یہ کہے کہ پس آپ تو زمین کو ثابت سمجھتے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، زمین متحرک ہے، لیکن اس کی حرکت ایک ثابت اور مستقل مدار میں ہے۔ زمین کے ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین اس مدار میں کسی ایک جگہ پر ہی قائم ہے۔ البتہ زمین دو طرح سے متحرک ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ ایک معین مدار میں حرکت کرے چاہے یہ مدار خط مستقیم ہو یا خط منحنی، مدار بیضوی شکل کا ہو یا دائرہ کی شکل کا۔ دوسرا یہ کہ ایک انتظراہی حرکت ہو کبھی اس طرف سے پٹا کھائے، کبھی اس طرف اور کبھی اپنی پہلی جگہ پر لوٹ جائے، البتہ ایسی مکانی حرکتوں میں ایک خاص علت کی وجہ سے تکامل (ارتقاء)

فرض نہیں کیا جاسکتا، پس حرکت کے مدار کا ثابت ہونا اور اس کے راستے کا معین و مشخص ہونا، اس بات سے جدا اور مختلف ہے کہ کوئی وجود اصلاً متحرک نہ ہو اور ثابت ہو۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے اگر ”اپالوون“ (اپالو اول) کا راستہ بیہاں سے چاند تک معین کر دیا گیا ہے اور یہ معین شدہ راستے پہلے کاغذ کے صفحے پر ترمیم (نقش) کیا گیا ہے، بیہاں تک کہ یہ بھی مشخص ہے کہ مثلاً اڑتا یہیں گھنٹے اور اتنے منٹ اور اتنے سینٹ میں اس خط پر وہ کس جگہ ہو گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ چاند پر کہاں اترے گا یا لینڈ (Land) کرے گا؟ تو یہ کہیں کہ پس اپالو تو ثابت ہے۔ نہیں! ایسی بات نہیں ہے، اس کا راستہ مشخص ہے اور راستے کا مشخص ہونا خود شے کے ساکن ہونے سے مختلف ہے۔ ساکن ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک معین فاصلے پر رک جائے نہ زمین کی طرف آئے اور نہ چاند کی طرف جائے۔

فطرت اور انسانیت کے لحاظ سے انسانی معاشرے کا تکامل (ارقاء) وہ لوگ کہ جو انسان کے متحرک ہونے اور معیار انسانیت کے مترزال ہونے کو اپک سمجھتے ہیں، وہ سخت اشتباہ (فاحش غلطی) کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم انسانی فطرت کے قائل ہوں، یعنی انسانیت کے معیار کو ثابت و مستقل سمجھیں کہ جس کی بنیاد فطرت انسانی ہی ہے، تبھی انسانیت کوئی معنی و مفہوم پیدا کرتی ہے نا صرف انسانیت بلکہ تکامل (ارقاء) انسانیت بھی اسی وقت معنی و مفہوم پیدا کرے لہذا آج کل علماء اس بارے میں پس و پیش ہیں اور ”فلسفہ تاریخ“ میں یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے کہ کیا انسان اس چیز میں کہ جسے ”انسانیت“ اور ”معنویت“ (روحانیت) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تکامل

(ارقاء) حاصل کر چکا ہے یا نہیں؟ ”ویل ڈیورنٹ“ نے اپنی کتاب ”در سہای تاریخ“ (کتاب کے فارسی ترجمے کا نام) میں اس بحث کا عنوان یہ قرار دیا ہے ”کیا ترقی حقیقت واقعیت رکھتی ہے؟“ البتہ اس میں اسے شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان نے صنعت میں ترقی کی ہے، لیکن کیا انسان نے انسانیت میں بھی ترقی کی ہے؟ یہ مسئلہ بھی زیر بحث ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان نے فن تکنیکا لو جی (صنعت) اور طبیعت سے مربوط امور میں تکامل (ارقاء) حاصل کیا ہے، یعنی معاشرے کے انتظامی ڈھانچے کے اعتبار سے بھی تکامل حاصل کر چکا ہے لیکن جس چیز میں تردید ہے وہ انسانیت میں تکامل (ارقاء) ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اصلاً اس ضمن میں لفظ ”Progress“ (ترقی) کو ہی ختم کر دینا چاہئے، کیونکہ اس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کتاب ”تاریخ چیست“ (تاریخ کیا ہے؟) کا مصنف خود اس نظریے کا مخالف ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ انسانی پہلو کے اعتبار سے بھی ترقی ہوئی ہے، لیکن اس ترقی کی رفتار درسری چیزوں میں تکامل (ارقاء) کی رفتار سے ہم آہنگ نہ تھی اور یہ ترقی انتہائی سست رفتار تھی، لیکن اس ضمن میں مختلف نظریات نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں؛ انسان نے اس جہت سے کچھ ترقی نہیں کی۔

### مارکسزم اور انسانی معاشرے کا انسانیت میں تکامل (ارقاء)

مارکسزم کے ماننے والے مجبور ہیں کہ انسانیت کے لئے کسی معیار کے قائل نہ ہوں اور تکامل (ارقاء) کو فقط ایک لفظی یا ایک امر احتیاطی اور آلات

پیداوار کے تکال (ارقاء) کا طفیل مسئلہ قرار دیں، اس میں شک نہیں کہ آلات پیداوار ترقی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی آلات پیداوار ایک نیا تکال (ارقاء حاصل) پیدا کرتے ہیں، ہر مرحلہ پر ایک نئے اخلاق کا تقاضا کرتے ہیں، چونکہ یہ نیا اخلاق آلات پیداوار کے تکال (ارقاء) یافتہ مرحلے کا تقاضا ہوتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ اخلاق نے تکال (ارقاء) پیدا کیا ہے، جبکہ ہماری نظر میں دونوں باہم لازم و ملزم نہیں ہیں۔ اولاً ہم اسے اس طرح سے مطلق طور پر تسلیم نہیں کرتے کہ آلات پیداوار اپنے تکال (ارقاء) کے ہر مرحلے میں ایک خاص اخلاق کا تقاضا کرتے ہیں، اصول اخلاق میں ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے۔ آلات پیداوار کسی بھی مرحلے میں ہوں، اخلاق کے اصول ایک سے رہتے ہیں۔ ان کی بات تو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ کسی کے مال میں خیانت کرنا، اس زمانے میں خیانت کرنا برا کام تھا جب چوری کرنے کے لئے موم حق لے کر جایا کرتے تھے یا کسی کی عزت پر حملہ کرنا اس دور میں برا تھا، لیکن آج جبکہ بھلی کا زمانہ ہے، اب بھی تم کہتے ہو کہ انسان کا چوری کرنا یا کسی کی عزت پر حملہ کرنا برا ہے، حالات بدل گئے ہیں، جبکہ ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں۔ اس پہلو سے قطع نظر ان کی یہ بات بنیادی طور پر انسانی اصالتوں (بنیادوں) کی نفی ہے، اس طرح سے تو انسانی اصالتوں بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر ہم آلات پیداوار کے تکال (ارقاء) کو انسانی تکال (ارقاء) قرار دیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خود انسانیت کا انسانیت ہونے کے اعتبار سے کوئی تکال (ارقاء) نہیں ہے۔ ان کے بقول آلات پیداوار جب تکال (ارقاء) حاصل

کرتے ہیں تو تکامل (ارقاء) کے ہر مرحلے میں خاص انسانی روابط کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ تمام روابط قانون، حکومت، ہنر، زیبائی اور اخلاق کی طرح سے عمارت ہیں نہ کہ بنیاد اور یہ سب آلات پیداوار کے ساختہ پرداختہ اور انہی کے تابع اور طفیلی ہیں اور کیونکہ آلات پیداوار ان کے مقاضی ہیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ ان میں تکامل (ارقاء) پیدا ہوا ہے لہذا یہ فقط نام رکھنے کے برابر ہے، ورنہ ایک حقیقی چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ کسی چیز میں تکامل پیدا ہوا ہے بلکہ ایک چیز ختم ہوئی ہے اور اس کی جگہ ایک اور چیز آگئی ہے۔ ایک چیز کے ختم ہونے کے بعد کوئی نئی چیز اس کی جگہ لے لے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ تکامل (ارقاء) پیدا ہوا ہے؟ ممکن ہے کہ اصلاً نہ تکامل (ارقاء) ہوا ہوئے سقوط اور یہ بھی ممکن ہے کہ سقط ہوا ہو، ہم کس معیار کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ تکامل (ارقاء) حاصل ہوا ہے؟ کوئی بھی معیار نہیں ہے، صرف اس لئے کہ آلات پیداوار میں تکامل (ارقاء) پیدا ہوا ہے۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ ان میں بھی تکامل (ارقاء) پیدا ہوا ہے؟ لہذا اخلاق متغیر کا یہ مسئلہ اس معنی میں کہ اخلاقی اصول بھی متغیر ہیں، کسی اعتبار سے بھی انسانی اصالتوں کی توجیہ نہیں کرتا۔

## ایگریز ٹینشلزوم (نظریہ وجودیت) (Existentialism) اور انسانیت اصالتوں

اس سلسلے میں ایک اور نظریہ "ایگریز ٹینشلزوم" ہے۔ اس کے حامیوں

نے بھی کوشش کی ہے کہ انسانی اصالتوں کے لئے کوئی بنیاد فراہم کریں، مگر یوں کہ کائنات اور انسان کے مادی ہونے کے نظریے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے بھی ایک ایسی بات کی ہے کہ جوان سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے (ان فلسفوں کی زیادہ تر بنیاد فلسفہ ہیگل ہے مارکسزم بھی اور ایگزسٹینشنلوم بھی دونوں کا ریشه (سلسلہ) فلسفہ ہیگل سے جاتا ہے اور یہ بات صحیح طور پر کہی گئی ہے کہ ہیگل نے یورپ کے فلسفے کی صورت بدل کر رکھ دی ہے)۔ سب سے پہلے مسئلہ کہ جس میں ان کی راہ فلسفہ مشرق سے مختلف ہو جاتی ہے، یہ ہے کہ فلسفہ مشرق، مثلاً بوعلی سینا وغیرہ کہتے ہیں کہ خیر دو طرح کی ہے (خیر یعنی ایسی خواہش جو انسان کے اندر سے پھوٹے)، ایک خیر محسوس اور دوسری خیر معقول۔ وہ چیزیں کہ جنہیں انسان حسی اور مادی لحاظ سے چاہتا ہے وہ خیر محسوس ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی وہ خواہشات ہیں جو انسان کی زندگی اور وجود سے والستہ ہیں اور دوسری قسم کی خواہشات وہ ہیں کہ جنہیں روحانی پہلو سے انسان چاہتا ہے وہ منفعت یا سود کے الفاظ اگر استعمال کریں تو خیر محسوس استعمال کریں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ علم خیر ہے، لیکن خیر معقول، البتہ روئی، پانی خیر ہے، لیکن خیر محسوس اور انسان مجبور ہے کہ وہ اس چیز کی جستجو کرے جسے اس کا وجدان اپنی گھرائی کے ساتھ خیر قرار دیتا ہے، فطرتاً انسان اپنی قرار دی ہوئی خیر کی جستجو میں رہتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ خیر ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو کہتے ہیں خیر کا معیار کمال ہے، یعنی اس خیر تک پہنچ کر انسانی وجود کو تقویت ملتی ہے اور وہ تکامل (ارتقاء) حاصل کرتا ہے۔ فلسفہ مرنگ کے ماننے والے چونکہ ہرگز نہیں چاہتے کہ غیر محسوس کی حقیقت و

واقعیت کو قبول کریں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ حقیقت وہی ہے کہ جو مادی اور محسوس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لہذا وہ مجبور ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان دو طرح کی خیر کا حامل ہے۔ جو لوگ دو طرح کی خیر کے قائل ہیں وہ دو طرح کی حقیقت کے قائل ہیں، وہ انسان کے لئے دو طرح کی حقیقت کا نظریہ رکھتے ہیں اور عالم ہستی میں بھی دو طرح کی حقیقت کے قائل ہیں۔ انسان حقیقت محسوس کے ذریعے سے خیر محسوس کی جستجو کرتا ہے اور حقیقت معقول کے ذریعے سے خیر معقول کی جستجو کرتا ہے اور اس لحاظ سے کہ وہ بہر حال خیر ہی کی جستجو کرتا ہے، ہر دو پہلوؤں سے ایک ہی ہے۔ اگر وہ علم کی جستجو کرتا ہے تو جستجو کرتا ہے کہ جو خیر معقول ہے اور اگر دولت کی جستجو میں ہے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقت کی جستجو میں ہے، البتہ یہ خیر محسوس ہے۔ ان کے کام کی بنیاد چونکہ اس پر ہے کہ حقیقت صرف محسوس اور مادی ہے، لہذا ان کا کہنا ہے کہ انسان یا خیر کی جستجو میں ہے، یعنی مادی منفعت کی تلاش میں ہے یا ایسی چیز کی تلاش میں ہے کہ جو کوئی چیز نہیں فقط قدر (Value) ہے۔ بھی سود اور قدر کے الفاظ فلسفہ یورپ میں آئے ہیں اور یہ انسانی فلسفے سے کتنا بڑا اختلاف ہے۔ اسی مقام پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان سود اور منافع کی تلاش میں ہے اور سود یعنی ایسی چیز بس میں خیر ہے، عقل بھی مجبور ہے کہ کہنے کہ اس کی جستجو کر کہ یہ امر منطقی بھی ہے یا پھر انسان ایسی چیزوں کی جستجو کرتا ہے کہ جن میں خیر نہیں ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ ان کے پیچھے نہ جا، لیکن انسان جاتا ہے اور اس طرح سے ایک غیر عقلی اور غیر منطقی کام انجام دیتا ہے، ایسے غیر عقلی اور غیر منطقی امور کے پیچھے جاتا ہے کہ منطق اور عقل جس کا ہرگز حکم نہیں دیتی۔ یوں ان

لوگوں کے نزدیک وجود انسانی میں ایک طرح کا تقاضا اور ایک طرح کا امر نامعقول ہے، چونکہ انسان ایسی چیزوں کی جستجو کرتا ہے کہ جن میں اس کے لئے کوئی خیر نہیں ہے، لہذا اس کا یہ طرز عمل عقل سے ہم آہنگ نہیں۔ کیا انسان کے سارے کام عقل سے ہم آہنگ ہیں؟ انسان غیر عاقلانہ، نامعقول اور غیر منطقی کام کرتا ہے۔ وہ ایسے کاموں کو انسان کے غیر منطقی کام قرار دیتے ہیں، لہذا توجیہ کرتے ہوئے وہ مجبور ہیں کہ انہیں فقط قدر (Value) کا نام دیں، نہ کہ خیر کا۔ گویا ان چیزوں کی جستجو خیر کی جستجو نہیں ہے اور یہ امر اختیار کرنے کے قبل نہیں ہے، یہ لوگ اس مسئلے میں الجھ گئے ہیں کہ ان اقدار (Values) کی کس طرح سے توجیہ کریں، کیونکہ ان کے نزدیک تو خیر فقط محسوس اور مادی ہے، جبکہ یہ اقدار صرف محسوس اور مادی نہیں ہیں۔ کیا نسیماً انسان کے لئے ایک محسوس اور مادی چیز ہے؟ کیا یہ کوئی جنم رکھتی ہے؟ کیا فضیلت کوئی حقیقت رکھتی ہے؟ کیا حقیقت کوئی حقیقت رکھتی ہے؟ ایک طرف تو یہ لوگ ان امور کو غیر منطقی اور غیر عاقلانہ قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تمام امور موهوم ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس فلسفے عشقے اور دیگر فلسفیوں کے نظریات کے لازمی نتیجے کے طور پر کہیں کہ یہ سب امور موهوم ہیں، حقیقت وہی ہے جو منفعت ہے، جو کچھ منفعت کے علاوہ ہے حقیقت نہیں ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ، جو لوگ جرات رکھتے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا اور جن میں اتنی جرات نہ تھی، درپرده اسی بات کو ایک اور شکل میں کہہ گئے۔ کسی نے کہا کہ اقدار تکامل حاصل کر چکی ہیں، تو دوسرے نے کسی اور طرح سے یہ بات

کہہ دی۔ ایگز ٹینٹسلوں (وجودی فلسفیوں) نے ایک راہ حل نکالی اور وہ یہ کہنے لگے کہ اقدار اور خالق میں یہ فرق ہے کہ اقدار ایک طرح کے تخلیقی امور ہیں، نہ کہ کشف کے جانے والے امور (ایک کتاب ہے کہ جس کا نام ”جدال با منی“ ہے)۔ کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ بات یوں ہے کہ کسی مارکسٹ نے ایک صاحب کا انٹرویو لیا۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے انٹرویو میں تبدیلیاں کر کے شائع کیا گیا ہے، لہذا وہ مذکورہ کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھتے ہیں اور انٹرویو کرنے والے کو دنیا جہان کی گالیاں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب میں اس انٹرویو کو من و عن شائع کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں زندگی، تکامل (ارتقاء) اور ایسے ہی امور کی اقدار کو زیر بحث لایا گیا ہے، کتاب کا دوسرا حصہ جدید شاعری اور آزاد نظم کے بارے میں ہے۔ اعتراض کرنے والا عجیب طرح کے سوال کرتا ہے، وہ شروع میں اس فلسفے کا حامی بن جاتا ہے کہ جس کے مطابق کسی بھی چیز کی کوئی حقیقت نہیں یا کم از کم اس فلسفے کا دفاع کرتا ہے کہ ہر چیز بے معنی اور بے حقیقت ہے اور زندگی کے لئے ایک راہ حل کے علاوہ دوسری را نہیں اور وہ ہے خود کشی۔ وہ فلسفہ خود کشی کا پیرو ہے، اب وہ خود خود کشی کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوال اسی سے پوچھا جانا چاہئے۔ دوسرے صاحب چاہتے ہیں کہ اس نظریے کو رد کریں اور آہستہ آہستہ اسی مسئلہ اقدار تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں پہنچ کر وہ ایگز ٹینٹسلوم کی منطق کی پیروی کرتے ہیں (کیونکہ مارکسزم ان مسائل میں نا محسوس ہے، بلکہ بہت ہی نا محسوس ہے)، وہ صاحب کہتے ہیں کہ اقدار تخلیقی امور ہیں، نہ کہ کشف ہونے والے۔

کشف کئے جانے والے امور سے مراد وہ امور ہیں جو حقیقت رکھتے ہیں۔ انسان علم و استدلال اور عاقلانہ (انشمندانہ) طریقے سے، جو چیز بھی حقیقت رکھتی ہے، اس کو کشف کرتا ہے، لیکن اقدار ان امور میں سے ہیں کہ جنہیں انسان تخلیق کرتا ہے۔ یہ پہلے سے موجود نہیں کہ انسان انہیں کشف کر لے بلکہ انسان خود انہیں وجود میں لاتا ہے اور تخلیق کرتا ہے۔ اقدار کے بارے میں ایگزیٹیوں (وجود یوں) کا نظریہ بس یہی کچھ ہے، لہذا آج کل ادب میں یہ اس نظریہ کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے کہ ”انسان اقدار کی تخلیق کرتا ہے“ حالانکہ یہ بات غلط اور بے معنی ہے۔ انسان اقدار کی تخلیق کرتا ہے، یعنی چہ؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی طبیعت میں مثلاً ایثار اور ”آثرہ“ (عربوں کے بقول) دونوں برابر ہیں، عدل و ظلم مساوی ہیں۔ اپنی ذات میں تو عدل و ظلم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انسان عدل کی قدر و اہمیت کا قائل ہے کہ جس سے عدل ظلم سے مختلف ہو جاتا ہے اور اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ یہ قدر و اہمیت انسان سے عطا کرتا ہے جس طرح کہ انسان ہی نے ایثار کو اہمیت دی اور اسے ”آثرہ“ سے جدا کر کے قدر و اہمیت کا حامل بنادیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عدل ظلم سے بہتر ہے، صدق جھوٹ سے بہتر ہے اور امانت خیانت سے بہتر ہے، یہ سب اپنی ذات میں مساوی ہیں۔ یہ انسان ہی ہے کہ جو انہیں قدر و قیمت عطا کرتا ہے۔ ان حضرات سے یہ پوچھنا چاہئے کہ ”انسان قدر (Value) کی تخلیق کرتا ہے“ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ اس کا معنی یوں بتتا ہے کہ انسان ایسی چیز کو کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، حقیقت عطا کرتا ہے، یعنی اس سے پہلے اس کی کوئی حقیقت نہ تھی، انسان نے

اسے حقیقت کا جامہ پہنایا اور اب اس چیز کا شمار حقیقی امور میں ہونے لگا ہے۔ واضح ہے کہ یہ کوئی ایسی اشیاء نہیں ہیں کہ انسان انہیں بنائے اور تخلیق کرے۔ انسان کی قدر تخلیق فن و صنعت میں ہے وہ کسی مادہ پر کام انجام دیتا ہے اور اس کو ایک خاص شکل و صورت عطا کرتا ہے اور آپ قبول کرتے ہیں کہ یہاں شکل و صورت یا مادہ موجود ہی نہیں ہے۔ پس انسان ان کی تخلیق کرتا ہے یعنی حقیقت واقعی نہیں عطا کرتا ہے، اس کا اصلاً کوئی معنی نہیں ہے اور اگر فرض کریں کہ حقیقت عطا کرتا ہے تو کیا معنویت (روحانیت) اصلًا کوئی حقیقت رکھتی بھی ہے یا نہیں؟ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ معنویت (روحانیت) کی اصلًا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تو اس صورت میں کس طرح انسان ایک ایسی چیز کو حقیقت دے سکتا ہے جو اصلًا حقیقت پذیر نہ ہو۔ ان امور میں انسان کے تخلیق کرنے سے مراد ہی کچھ ہے کہ جسے ہم اعتباری کہتے ہیں، یعنی یہ حقیقی امور میں سے نہیں ہے بلکہ اعتباری امر ہے اعتباری یعنی وضعي اور قراردادی۔ مثلاً آپ حضرات اس مدرسے میں باہم تعاون کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ اس تعاون کے متأجح اس وقت بہتر ظاہر ہوں تو اس کے لئے چاہئے کہ کوئی تنظیمی ڈھانچہ تشكیل دیں اور اگر آپ تنظیم بنانا چاہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنے میں سے مثلاً ایک مجلس منتخبہ کا انتخاب کریں، کوئی اجرائی کمیٹی بنائیں اور اپنے میں سے کسی کو اس مدرسے کے سربراہ کے طور پر منتخب کریں، ایک شخص کو اپنا سربراہ بنائیں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں، جناب الف ہمارے سربراہ ہیں، یہاں آپ نے جناب الف کو ایک عہدہ دیا۔ اس مقام پر آپ نے خلق کیا اور کسی چیز کو وجود بخشنا، لیکن یہ ایک قراردادی اور

اعتباری چیز ہے، یعنی یہ حقیقت نہیں رکھتی، یعنی اب جناب الف وہم و ذہن میں اور اعتباری اور قراردادی طور پر اس سے مختلف ہیں کہ جو ایک گھنٹہ پہلے تھے، جبکہ سربراہ منتخب نہیں ہوئے تھے، لیکن عالم حقیقت اور نفس الامر میں وہی آدمی ہیں جو پہلے تھے۔ سربراہی عطا کرنا ایک قرارداد ہے، ایک اعتبار کرنا ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ذہنوں نے مصلحت کے طور پر قبول کر لیا ہے اور فرض کر لیا ہے، یعنی ایک مجازی چیز کا اعتبار کر لیا ہے۔ مختصر یہ کہ انسانی قدرت خلیق ایسے ہی امور میں ہے ”الہذا انسان قدر کو وجود بخشتا ہے“ زیادہ سے زیادہ اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم اقدار کہتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں رکھتیں، انسان ان کی قیمت فرض کرتا ہے (قدر سے قیمت ہی مراد ہے)، درحقیقت انسان کے لئے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن انسان اس کے لئے قیمت قرار دیتا ہے۔ یہ بھی انسانی اصالتوں کی نظری ہے اور یہ ایک قراردادی اور موہوم چیز سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ قراردادی امور میں انسان ”وسائل“ میں تو کچھ فرض کر سکتا ہے ”اہداف و مقاصد“ میں نہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ کاغذ کے نوٹ کی قیمت اعتباری اور قراردادی ہے، جبکہ اس کے عکس سونا کہ جو انسان کے کام آتا ہے اور بہت سے امور میں مفید ہے، کمیاب بھی ہے اور کارآمد بھی، چاہے زیب و زینت کے لحاظ سے ہو یا کسی اور اعتبار سے وہ نہ وہ ذاتی اعتبار سے انسان کے لئے قدر و قیمت رکھتا ہے (جبکہ نوٹ ذاتی طور پر کوئی قیمت نہیں رکھتا)۔ نوٹ کو بعض مقاصد کے حصول کے لئے ہم سونے کی جگہ فرض کرتے ہیں تاکہ مبادلہ آسان ہو اس لئے ہم اس کی قیمت قرار دیتے ہیں، الہذا نوٹ کی ذاتی قیمت کچھ بھی نہیں، یعنی یہ

ایک کاغذ مثلاً ہزار کا نوٹ اگر ہمارے ہاتھ میں ہو تو اس کی حقیقت اور ذاتی قیمت اس جیسے کسی دوسرے کاغذ سے مختلف نہیں، لیکن اعتباری اور قراردادی لحاظ سے یہ اس سے مختلف ہے۔ یہ بھی اس لحاظ سے کہ ہم نے بعض مقاصد کے حصول کے لئے وسیلہ قرار دیا ہے، لہذا اگر ہم انسانی اصلاحوں کو تحقیقی امور جانیں، کیونکہ تحقیق بمعنی حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی اور یہاں تحقیق کا معنی سوائے اعتبار کے کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب چیزیں دیگر ابداف کے وسائل کے طور پر ہیں، کیونکہ یہ خود یہک وقت اعتباری ہیں اور ہدف ہر دونہیں ہو سکتے، اعتباری بھی ہو اور ہدف بھی ہو۔ تو یہ اس کے مانند ہے کہ انسان ہدف نہیں رکھتا، کسی چیز کو ہدف فرض کرتا ہے اور بعد میں یہی چیز ہدف بن جاتی ہے اور یہ بالکل عربوں کے بت پرستوں جیسا کام ہے کہ بت بناتے تھے بعد میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اسی بت کی پوجا کرتے تھے۔

### اتعبدون ماتنحتون

”کیا جس چیز کو خود بناتے ہو اسی کی طرح کرتے ہو؟“

(صافات<sup>۹</sup>)

ہدف وہ چیز ہے کہ جو آپ سے بالآخر مرحلے پر ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس تک پہنچ جائیں اور جس چیز کو آپ خود بناتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور آپ سے یچھے ہے۔

## باب ہفتم

### مذہب کی اساس (نقطہ آغاز)

### اور سرچشمہ

مذہب کی اساس اور سرچشمہ کے بارے میں مخالفین کے نظریات جانے کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہو گا کہ ہم لامذہب افراد کے تعصب کو جان سکیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیں مذہبی تعصب کا طعنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ اپنے نظریات کو انتہائی تعصب کے ساتھ ہی پیش کرتے ہیں۔ دراصل لامذہب لوگ مت指控 ہیں، کیونکہ ان کا مفروضہ ہی نقی مذہب پر قائم ہے اور پھر انہوں نے اس نقی کی توجیہ میں لغوگوئی سے کام لیا ہے۔ ایک غیر جانبدار انسان کا ایسی باتیں سکرنا ممکن نہیں اور پھر ان کے نظریات کی بقیٰ کا اندازہ آپ اس سے لگا سکیں گے کہ یہ لوگ مذہب کی توجیہ کرتے ہوئے اس طرح اس میں پہنچنے ہیں کہ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔

یورپ میں ایک علم مذہبی عمرانیات (Sociology of Religion) کے نام سے وجود میں آیا ہے۔ جیسے ہر علم کا کوئی بنیادی موضوع ہوتا ہے، اسی طرح اس علم کا بھی ایک موضوع مقرر کیا گیا ہے (ایسے موضوع کو ابتداء میں ثابت نہیں کیا جاتا، بلکہ مفروضے کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے اور بعد ازاں اس موضوع (مفروضہ) کی اساس پر اپنے نظریات کو پیش کیا جاتا ہے)۔ مذہبی عمرانیات (Sociology of Religion) میں شروع ہی سے یہ بات فرض کر لی گئی ہے کہ مذہب معاشرتی عمل اور عمل کا ایک مظہر (Phenomena) اور نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اس کا خدا یا اور ائی دنیا سے کوئی اصولی تعلق نہیں ہوتا۔ اصلاح مذہب کی الہی اساس کے امکان کو مفروضے کے طور پر موضوع میں شامل ہی نہیں کیا گیا، مثلاً اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ اس بات کی تحقیق کریں کہ لوگوں میں یہ فکر کیسے پیدا ہو

گی کہ تیرہ کا عد و نسخ ہوتا ہے؟ چونکہ انسان دیکھتا ہے کہ منطقی طور پر تیرہ چودہ یا بارہ کے عدد میں کوئی ایسا فرق نہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کو یہ اختال (امکان) پیدا ہو کر اس فکر کے پیچھے کوئی عقلی یا تجرباتی دلیل موجود ہے، لہذا کہا جاتا ہے کہ ضرور اس کی کوئی غیر منطقی بنیاد ہو گی اور غیر منطقی بنیاد کیا ہے؟

ان لوگوں نے دین اور نہ ہب کے بارے میں پہلی بنیاد ہی اس بات پر رکھی ہے کہ دین کی کوئی منطقی بنیاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جبکہ اس کی بنیاد غیر منطقی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیر منطقی بنیاد کیا ہے؟ لہذا ان کا اصل موضوع ہی یہ ہے کہ دین کی کوئی منطقی اور الہی بنیاد ہی نہ بتائی جائے۔ (مقالات کے لکھنے والے نویسنده نے شروع میں ایک محضرسی تاریخ کا ذکر کیا ہے اور بعد میں کہا ہے) کہ جس کسی نے پہلی مرتبہ اس مسئلے کو منظم و تحلیل کے ساتھ پیش کیا وہ ایک مشہور مادی فلسفی ہے۔ کارل مارکس کے دو فکری منبعوں میں سے ایک وہ جزوں ہے کہ جس کا نام خوبی باخ ہے، اسے کارل مارکس کے استاد کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ کارل مارکس نے اس کے پاس جا کر اس سے درس لیا، بلکہ اس اعتبار سے کہ کارل مارکس نے اس کے افکار سے بہت استفادہ کیا اور اس کے افکار کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ کارل مارکس کی فکر کے دور کن ہیں، منطق اور طرز تفکر۔ فکر بکے لحاظ ہے وہ ہیگل کے تابع ہے، یعنی منطق جدلیات، لیکن ہیگل میٹریلیست (Materialist) نہیں تھا، اس کی ایک خاص قسم کی فکر تھی کہ جس کی وجہ سے بعض افراد کا کہنا ہے کہ وہ آئیڈیلیست (Idealist) ہے، جبکہ خدا کا بھی قابل نہیں۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ وہ خدا کو مانتا تو ہے، مگر اس کا تصور خدا۔

دوسروں کے تصور خدا سے کچھ مختلف ہے۔ فویرباخ کی شہرت انہی مادی افکار کی وجہ سے ہے کہ جن میں مذہب کے بارے میں ایک تحلیل پیش کی گئی ہے۔ اس کے بقول مذہب انسان کی اپنے آپ سے بیگانگی (Self Alienation) کی حالت سے جنم لیتا ہے، یعنی انسان کو ایسے عوامل پیش آ جاتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔

اب یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے کیونکر بیگانہ ہو جاتا ہے؟ کیا اصولی طور پر ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیونکہ بیگانگی کے دورخ ہیں اور اس کے مقابلہ پر اپناست ہے۔ اس صورت میں کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے اور اپنے سے غیر میں فرق نہ کر سکے، یعنی انسان ایک حقیقت رکھتا ہے، ایک اس کی حقیقی "میں" اور "خود"، یعنی ذات ہے اور دوسرا "ناخود"، یعنی "خود" کو جو کہ وہ "خود" نہیں ہے، اشتباہاً "خود" سمجھنے لگتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے لئے اور "خود" کے لئے کام کرنے، اس "ناخود" کے لئے کرنے لگتا۔ اس مسئلے پر ہم نے اجمالی طور پر کتاب "سیری در نجح البلاغہ" میں گفتگو کی ہے۔

## خود بیگانگی اور خود فراموشی

مجھے یاد ہے کہ تین سال پہلے تہران آنے کے دو سال بعد، میں ۱۳۳۴ھ شمسی ۱۹۵۱ء میں تہران میں منتقل ہوا تھا، تو ایک تاجر دوست کے گھر میں قرآن کریم کی کچھ منتخب آیات کی روشنی میں واعظ و نصیحت کی محفل ہوا کرتی تھی،

اس موقع پر پہلی بار مجھ پر یہ مسئلہ روشن ہوا۔ قرآن کریم سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ انسان پر کبھی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے، وہاں پر میں اسے ”فاصلہ“ کے لفظ سے تعبیر کرتا تھا، اپنے آپ سے دور ہو جانے کی یہ تعبیر قرآن میں متعدد مقامات پر آئی ہے۔ اپنے آپ کو ”ہار جانا“ ہار جانا اسی معنی میں کہ جو جوئے میں استعمال ہوتا ہے یا کسی معاملے میں کہا جائے کہ فلاں شخص ”ہار گیا“ ہے، جبکہ انسان کے لئے اس بات کا یقین کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو ہوا کہ انسان کوئی چیز ہار گیا جو اس کی ملکیت میں تھی، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ہار بیٹھے یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

قل ان الْخَارِسِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

”کہہ دستجھے! ہار جانے والے تو بس وہ ہیں، یعنی حقیقی ہار جانے والے وہ لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو گنو بیٹھے ہیں۔“

یعنی جو شخص مال ہار جائے وہ حقیقی ہار جانے والا نہیں ہے، یہ تو کوئی اہم چیز نہیں ہے، حقیقی زیاد کارت وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو گھوڑے۔ ”خود کو بھول جانا“، یعنی خود فراموشی فلسفیانہ نکتہ نظر سے اس بات کا تصور بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اپنے بارے میں انسان کا علم، علم حضوری ہے اور علم حضوری قابل فراموش نہیں ہے۔ علم حضوری قابل فراموش ہے، یعنی اصلاً انسان جو ہر ذات علم ہے اور وہ خود دراصل وہی کچھ ہے جو اس کا اپنے بارے میں علم ہے۔

## مولانا روم کا قول

اپنے آپ کو گناہ دینا اپنے تیس فراموش کر دینا، یہ بات اسی زمانہ میں  
میرے لئے ایک فکر کی بنیاد بن گئی۔ البتہ بعد میں، میں نے دیکھا کہ حکماء اور خاص  
طور پر عرفاء اسلام اس مطلب کا ہم سے سالہا سال پہلے اور اک کرچکے ہیں اور  
انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس حوالہ سے کہ انسان کا حقیقی "میں" کیا ہے؟  
اور کون ہے؟ بلکہ عرفان کی اس میں حقیقی "میں" اور حقیقی "خود" کی علاش پر استوار  
ہے، یعنی خیالی "خود" اور خیالی "میں" کے پروں کو ہٹا کر حقیقی "میں" تک پہنچنے پر  
"اپنے آپ کو کھو دینا"، "اپنے آپ کو ہار بیٹھنا"، "اپنے آپ کو گناہ بیٹھنا"، اس  
بات کا ایک خاص مفہوم ہے کہ جس کو ان لوگوں نے قرآن سے بہت اچھی طرح  
اخذ کیا ہے اور پھر اس کی شرح اور تفسیر خوب کی ہے وہ مولانا روم نے بیان کیا  
ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی بات تمثیل کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اس  
سلسلے میں اپنی (اپنے) "دانی خود" (ادنا پن) کو اپنی (اپنا) "عالی خود" (اعلی  
پن) سمجھ بیٹھتا ہے یا یوں کہتے کہ اپنے نفسانی اور جسمانی پہلو کو روحاںی اور معنوی  
پہلو کی بجائے حقیقی "خود" سمجھنے لگتا ہے، جبکہ اس کی حقیقی "خود" اس کا روحاںی پہلو  
ہی ہے۔ مولوی مثال اس طرح سے بیان کرتے ہیں، فرض کریں کہ ایک شخص کے  
پاس کچھ زمین ہے اور وہ اس زمین پر عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ریت،  
یہ سہت، مٹی، لکڑی، لوہا اور تعمیر کا سارا سامان لے کر آتا ہے اور پھر ایک انہائی  
خوبصورت گھر بناتا ہے، پھر اگلے دن اس گھر میں منتقل ہونا چاہتا ہے اور جب اس

گھر میں ساز و سامان رکھنے لگتا ہے تو ایک دم متوجہ ہوتا ہے کہ گھر تو اس نے ہمسایہ کی زمین پر بنا دیا ہے، بڑی غلطی ہوئی۔ وہ دیکھتا ہے کہ جو زمین اس کی ملکیت ہے، وہ خالی پڑی ہے اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے وہ دوسرے کی زمین پر بنا دیا ہے۔

قانون کے مطابق اسے حق نہیں پہنچتا کہ ہمسایہ سے کچھ لے کیونکہ ہمسایہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اسے بناؤ بلکہ تم نے خود ہی میری اجازت کے بغیر ایسے بنایا ہے، تم اپنی عمارت اٹھا کے لے جاؤ۔ اب اگر وہ اس گھر کو گرانا چاہے تو پھر مزید رقم خرچ کرنا پڑے گی، لیکن اب وہ مجبور ہے کہ اسے یونہی رہنے دے اور چلا جائے۔ مولوی ایسی لطیف چیزوں کو ایک عجیب روحانی کیفیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

در زمین دیگران خانہ مکن  
کار خود کن کار بیگانہ مکن  
  
کیست بیگانہ تن خاکی تو  
کز برائی اوست غناگی تو  
  
”دوسروں کی زمین پر گھر مست بنا، اپنا کام انجام دے، غیر کا  
کام نہ کرتا پھر، غیر کون ہے؟ تیرا جسم خاکی کہ جس کے لئے تو  
پریشان ہے۔“

کہتے ہیں، ایک عمر تک تو اپنے جسم اور نفس کے لئے کام کرتا ہے اور سمجھتا

ہے کہ تو ”خود“ کے لئے کام کر رہا ہے  
تا تو تن را چرب و شیرین می دھی  
گوہر جان را نیابی فر ہی

گرمیان مشک تن را جا شود  
وقت مردن گند آن پیدا شود  
”جب تک تو اپنے جسم کو مرغن اور میٹھی چیزیں کھلاتا رہے گا،  
اپنے گوہر جاں اور روح کو صحت مند نہیں بنا سکتا۔ اگر جسم کو  
خوبصوردار کھا جائے تب بھی مرنے کے بعد اس میں بدبو  
پیدا ہو جائے گی۔“

مشک را برتن مزن بر جان بمال  
مشک چہ بود؟ نام پاک ذوالجلال  
”اپنے جسم پر خوبیو نہ لگا، بلکہ اپنی روح کو خوبصوردار کر اور  
(روح کیلئے) خوبی کیا ہے؟ (اللہ) ذوالجلال کا پاک نام۔“  
جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد (باری تعالیٰ) ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسَوُ اللَّهَ فَإِنْسِيَهُمْ أَنفُسُهُمْ  
(حشر ۱۶)

”ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے اور نتھیجاً  
اللہ نے انہیں خود ان کا اپنا آپ فراموش کروادیا۔“  
قرآن ”خود کو پانے“ اور ”خدا کے پانے“ کو لازم و ملزم صحبتا ہے۔

قرآن کے بقول صرف انہی نے اپنے آپ کو پایا ہے کہ جنہوں نے خدا کو پایا  
ہے اور جنہوں نے خدا کو پایا ہے انہی نے اپنے آپ کو پایا ہے:

من عرف نفسه عرف ربہ

اور اسی کے مقابل:

من عرف ربہ عرف نفسه

قرآنی مطلع کے مطابق ان دوں میں جدائی ممکن نہیں، کیونکہ انسان  
اگر یہ خیال کرے کہ اس نے اپنے آپ کو پایا ہے، جبکہ اس نے خدا کو نہ پایا ہو تو  
اس کا خیال غلط ہے یہ بات معارف قرآن کی بنیادوں میں سے ہے۔

جسے آج گل اپنے سے بیگانی یا صحیح تر الفاظ میں اپنے ساتھ بیگانی کہا  
جاتا ہے معارف اسلامی میں اس مسئلہ پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے اور بہت کچھ کہا  
بھی جا چکا ہے۔

یہ کس سلسلہ قرآن سے شروع ہوتا ہے، لہذا یہ ہزار سال سے زیادہ کا  
سابقہ رکھتا ہے اور اس کا ایک اپنا مخصوص سفر ہے۔ یورپ میں یہ بات ہیگل سے  
شروع ہوتی ہے، ہیگل کے بعد دیگر مکاتب نے بھی اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے، بغیر اس  
کے کہ انہوں نے خود کو پیچانا، کیونکہ خود بیگانی کے مسئلہ میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا  
ہے کہ خود کیا ہے، جس سے بیگانی کی بات کی جاتی ہے؟ آخر آپ کہتے ہیں کہ  
انسان خود سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ پہلے ہمیں اس ”خود“ کی تو پیچان کروائیں کہ وہ  
خود کیا ہے؟ تاکہ خود بیگانی ہمارے لئے مشخص ہو سکے جبکہ صورت حال تو یہ ہے  
کہ بغیر ”خود“ پر گفتوں کے ہوئے اور بغیر اس ”خود“ کو پیچانے ہوئے، بلکہ اس

”خود“ کی نفی کرتے ہوئے خود بیگانگی کا غصہ لے بیٹھتے ہیں۔

ان مادی فلسفوں کی اساس یہ ہے کہ اصلًا ”خود“ ایک امر اعتباری اور فرضی ہے۔ تمام مادی فلسفوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی کوئی ”خود“ نہیں ہے کہ جسے آپ ”خود“ خیال کر سکتے ہیں بلکہ یہ ایک اشتراکی اور ماخوذ مفہوم ہے، یہ دوسری تصورات کا ایک سلسلہ ہے، یہ تصورات آتے ہیں اور گزرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک ”خود“ بھی موجود ہے، یعنی کوئی ”خود“ موجود نہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا نظریہ ایک طرف تو ان کے فلاسفہ کی بنیاد یہ ہے کہ اصلًا کوئی خود موجود ہی نہیں ہے اور دوسری طرف لوگوں کے لئے خود بیگانگی کا فلفہ گھرنے لگے ہیں اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔

### فوری بارخ کی نظر میں دین کا نقطہ آغاز

فوری بارخ ایک مادی فلسفی ہے۔ اس نے ایک عجیب بات کی ہے کہ دین اور مذہب کی اسی مذکورہ بنیاد پر ایک نفیاتی اور عمرانی (Psychological & Sociological) استدلال پیش کرتے ہوئے شروع ہی سے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ مذہب کی کوئی منطقی بنیاد نہیں۔ کہتا ہے کہ انسان کے دو قسم کے وجود ہیں، یہ بات بھی خود اس نے مذہب ہی سے لی ہے، انسان کا ایک وجود عالی ہے اور دوسرا پیش، ہم اسے علوی پہلو اور سفلی پہلو کہتے ہیں۔ سفلی پہلو سے مراد انسان کا حیوانی پہلو ہے، اس پہلو سے اسے کھانے، سونے غصہ کرنے اور خواہشات کی تکمیل کے علاوہ کچھ نہیں سو جھتا، علوی پہلو سے مراد اس کی انسانیت ہے۔ فوری بارخ بھی انسانی

وجود کا حصہ سمجھتا ہے اور مجبوراً وہ اس پہلو ”اصالت“ کا قائل ہو گیا ہے، یہ وہی پہلو ہے کہ جو فضیلتوں کے ایک طویل سلسلے پر منی ہے۔ شرافت، کرامت، بزرگواری، رحمت، بھلائی، اچھائی، ان سب کا ذکر اسی پہلو کے ذیل میں آتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اور اسے ضرور کہنا ہی چاہئے تھا کہ سب انسان ایسے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پستیوں کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اپنے سفلی پہلو کے تابع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ علوی وجود سے ہم آہنگ نہیں ہے، اب چونکہ وہ خود ایک پست اور انحطاط یافتہ حیوان بن چکا ہے، جبکہ خود اس کے اندر وہ خوبیاں اور کمالات بھی موجود ہیں تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ماوراء ہیں، پس وہ خود کو اپنے ہی وجود کی بنیاد پر گھر لیتا ہے۔ ایک انگریز فلسفی کا کہنا ہے کہ تورات میں آیا ہے:

ان الله خلق آدم على صورته

”یعنی خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔“

مراد یہ ہے کہ آدم کو اس نے اپنے صفات کمالیہ کا نمونہ قرار دیا ہے۔ اس انگریز فلسفی نے تو یہ کہہ دیا ہے، لیکن مسئلہ اس کے برکس ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو اپنی سیرت کے مطابق بنایا ہے، یعنی انسان اپنی ذات میں کمال کے ایک پہلو کا حامل ہے، وہ پہلو کہ جس میں تمام تر شرافت، کمال اور رحمت موجود ہے۔ اس پہلو کو اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا ہے، اس طرح سے انسان اپنے آپ سے بیکار ہو گیا اور پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ ساری خوبیاں اس وجود کی ہیں، جو مجھ سے ماوراء ہے اور اس نے یہ نہ سوچا کہ نہیں سب تو اس کے اندر

موجود ہے۔

فوبیباخ کے بقول یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان خود اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا، یعنی اس کے اندر جو امور موجود تھے، ان میں سے کچھ کو اپنے وجود سے جدا کر لیا اور فرض کر لیا کہ یہ سب کچھ اس کے ماوراء وجود میں ہے، لیکن کہتا ہے کہ تدریجیاً یہی ماوراء نزدیک ہو گیا ہے کہ جو پہلے انسان سے دور ہوا تھا۔ بدوسی اور قبائلی دور کے مذاہب میں دیوتاؤں (خداؤں) میں دور تھا، بعد میں یہودیوں کا خدا نزدیک ہو گیا، یہودیوں کا خدا انسان جیسا ہو گیا۔ اس خدا میں انسانوں جیسے احساسات، جذبات، غصہ اور رضا مندی موجود ہیں۔ میسیحت میں اس سے بھی نزدیک تر ہو گیا، یعنی انسانی شکل میں آ گیا جو صحیح ہے اور صحیح خدا ہو گیا، درحقیقت اس نے ایک دارہ کا سفر طے کیا ہے۔ پہلے انسان نے اپنے آپ سے ان صفات کو جدا کیا اور پھر انہیں دور اور بہت دور فرض کر لیا۔ اس طرح سے دور کے اس موجود میں اور انسان میں کوئی رابطہ ہی نہ تھا اور آہستہ آہستہ وہ موجود انسان کی طرف لوٹ آیا، صحیح تک آپنہنچا، یعنی بہت نزدیک ہو گیا اور ایک انسان ہی خدا ہو گیا۔

چونکہ میسیحت میں صحیح ہی خدا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے اور خدا بھی۔ لہ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے انسان جس قدر اپنے آپ کو پیچاتا جاتا ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو اس خود بیگانگی سے دور کرتا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کہتا ہے کہ دراصل میں خود ہی ہوں اور یہ سب صفات میری ہی ہیں، پھر ایک قدم بھی باقی نہیں رہتا۔ جبکہ اسلام

میسیحیت کے بعد آیا ہے اور میسیحیت سے زیادہ تکامل یافتہ (تمام ارتقائی مرحلے کئے ہونا) اس کے باوجود اس نے خدا کے اس انسانی پہلو کی یا ایک انسان کے خدا ہونے کی کہ جیسے مسیح کو قرار دیا جا رہا تھا، یعنی مسیح کی الوہیت اور ابن الہیت (خدا کا بیٹا سمجھنا) کی شدت سے نفعی کی ہے۔ مسٹر فویری باخ کے اس نظریہ کے مطابق مذہب جلد ہی نابود اور ختم ہو جائے گا، یعنی انسان جس قدر اپنے آپ کو پیچا جاتا ہے، خدا کی ضرورت اس کے لئے کم ہوتی جاتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو صحیح طور پر پیچاں لے تو مذہب کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، پھر بجائے اس کے کہ انسان خدا کی پرستش (عبادت) کرے اپنے آپ کو پوچھنے لگتا ہے۔ خدا کی حمد و ثناء کرنے کی بجائے اپنی تعریف و مدح کرنے لگتا ہے۔

### نظریہ فویری باخ پر تنقید

یہ نظریہ ایک تو اس حوالے سے رو ہو جاتا ہے کہ فویری باخ سے کہا جائے کہ آپ تو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں، لہذا بطريق اولی (بنیادی طور پر) آپ کے نزدیک انسان سو فیصد ایک مادی وجود ہے، لہذا آپ نے جو وجود انسانی کے دو پہلووں کے ہیں، آپ اس دو گانگی کا کیسے استدلال پیش کریں گے؟ ان دو پہلووں کو مذاہب ہی بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی انسان کو ایک حقیقت خاکی اور ایک حقیقت ملکوتی کا مرکب جانتے ہیں۔

فَإِذَا سُوِّيَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (ص ۲۷)

ایک طرف سے تو ”سویتہ“ یعنی اسے میں نے کامل کر دیا، تمام

ضروریات کے حوالے سے اس کی تکمیل کی۔ اس کے بعد کچھ اور بھی ہے اور وہ ہے ”ونفخت فیہ من روحی“ اور میں نے اس میں اپنی روح پھوٹکی۔ اسی طرح ایک تعبیر سورہ ”قد افلح المومتون“ ہے:

و لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین (مومنون: ۱۲، ۱۳)

یہاں تک کہ ارشاد ہوتا ہے:

ثم انشاءه خلقا اخر

”پھر اسے ہم نے ایک اور خلقت عطا کی۔“

یہ ”ایک اور خلقت“ اہل مذاہب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن تم اسے کیونکر بیان کر سکتے ہو؟ دوسرے یہ کہ اس نظریے کے مطابق ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اپنی حقیقی منزلت و خیثیت پر باقی نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان اپنی ذات میں دو گانگی کا حامل ہے، بعد میں جب انسان سماجی زندگی میں انحطاط پذیر ہوتا ہے تو اس پست اور حیوانی پہلو کی طرف گر جاتا ہے اپنے بلند و برتر پہلو کو اپنے وجود سے جدا کر دیتا ہے، یہیں سے مذہب پر اعتقاد جنم لیتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم سب انسانوں کو حیوانیت میں گرا ہوا فرض کریں اور پھر ان سب تنزل یا فتحان کو نہیں فرض کریں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے دو طرح کے رہے ہیں اور اسی طرح سے جو انسان حیوانیت میں جا گرے ہیں وہ بھی۔ دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ جن لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ دنیا میں مذہب کے خواہشمند ہمیشہ کس طرح کے لوگ رہے ہیں؟ جبکہ یہ بات خود ہمارے

دلائل میں سے ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ شریف ہوتے ہیں جن میں انسانی اقدار باقی ہوتی ہیں، کیا ان کا مذہب کی طرف رجحان ہوتا ہے یا ان لوگوں کا جو حیوانیت میں جاگرے ہوتے ہیں؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کا غیر مذہبی لوگ تک انکار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں، اگر دیکھیں کہ لوگ مذہبی ہیں تو یہ مذہبی ہونا ان کی ذاتی شرافت کا نتیجہ ہے، جس مذہب کی طرف ان کا رجحان ہے، یہ اس سے مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی شرافت سے مربوط ہے بلکہ مذہب کے خواہشمند ہمیشہ شریف نفس انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔

آپ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان اپنی شرافت سے تھی واسن ہو جاتا ہے اور حیوانیت میں جاگرتا ہے، یہ امر اللہ پر اعتقاد اور ایمان کی بنیاد بن جاتا ہے۔ جبکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے، جن لوگوں کے اندر احساس شرافت زندہ ہو اور وہ انسانی اصولوں پر باقی ہوں، وہی اللہ پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں اور وہی مذہب کے اصولوں کو مانتے ہیں، بہر حال ان صاحب کا نظریہ ایک منسون نظریہ ہے۔

### اگسٹ کائنٹ اور اپسنسر کا نظریہ

مذہب جہالت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب جہالت کا نتیجہ ہے، مجموعی طور پر یہ بات دو طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔

اگسٹ کائنٹ کا نظریہ اپسنسر اور دوسرے لوگوں کے نظریے سے مختلف ہے۔ اگسٹ کائنٹ کا نظریہ تقلیل حوادث پر مبنی ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ طبیعی طور پر انسان اصول عدالت و معلول کو تسلیم کرتا ہے، البتہ پہلے پہل کے انسان حوادث و

واقعات کی اصل علت کو نہیں جانتے تھے، لہذا ان واقعات کو موجودات غیری خداوں اور ایسی دوسری چیزوں سے منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بارش ہوتی تھی تو اس کی اصلی علت کونہ جاننے کی وجہ سے کہتے تھے کہ بارش کے خدا ”دیوتا“ نے بھیجا ہے۔ طوفان آ جاتا تو کیونکہ اس کی بھی علت نہ جانتے تھے، کہتے تھے طوفان کے خدا نے اسے بھیجا ہے۔ اسی طرح سے وہ دیگر حادث و واقعات کی جیسے ہم توحید کے باب میں لگتے ہیں کہ یہ بات فقط شناخت کے مرحلے سے مر بوط ہے۔

اپنسر اور دوسرے لوگ اس بات کو ایک اور طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ انسان روح اور بینن کی دو گانگی کے حوالے سے اپنے وجود کے دو پہلوں کا معتقد ہے، اس لئے کہ اس نے خواب میں لوگوں خصوصاً مردہ لوگوں کو جب دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ خواب میں آنے والا ایک موجود ہے، جو خارج میں ایک حقیقت رکھتا ہے، کیونکہ مردے کا جسم تو مٹی میں مل چکا ہے، لہذا وہ اس بات کا معتقد ہو گیا کہ اس کی ایک روح ہے۔ چنانچہ وہ اس بات کا معتقد ہو گیا کہ ہم تمام انسانوں کی روح بھی ہے اور بدن بھی اور پھر اس نے سوچا کہ دریا کی بھی روح ہے، طوفان کی بھی روح ہے اور سورج میں بھی روح اور جان ہے۔

پھر جب انسان کو کوئی مشکل پیش آتی، قدرتی تو انہیوں سے سامنا ہوتا تو وہ بالکل ویسا ہی کرتا جیسا وہ کسی با انتہار انسان کے سامنے کرتا تھا کہ اسے ہدیہ و نذر پیش کرتا تھا اور کوئی چالپوی سے کام لیتا تھا وغیرہ، یعنی پرستش اور عبادت کو اس نے قدرتی تو انہیوں کے لئے بھی انجام دینا شروع کر دیا۔ دراصل اپنسر اس

امر کی توجیہ کرنا چاہتا ہے کہ پہلی بار عبادت کہاں سے پیدا ہوئی، یعنی عبادت کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ اس کے نزدیک یوں قدرتی تو انہیوں کی پرستش کا سلسلہ وجود میں آیا۔

لہذا اگست کا نٹ فقط نظری اور فکری حوالے سے استدلال پیش کرتا ہے، جبکہ اپنے پرستش کی بنیاد کو بیان کرتا ہے کہ پہلی بار پرستش کہاں سے شروع ہوئی۔ اس کے نزدیک عالم طبیعت (کائنات) کی توانائیوں کی وجہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جیسے انسان اپنے سے زیادہ طاقت و رسانوں کی چاپلوئی خوشنام اور جی حضوری کرے اور ان کے لئے ہدیے اور تھائف لے جائے، اسی طرح ان کے لئے بھی تھنے تھائف لے جانے اور قربانی کرنے لگے اور جیسے انسانوں کی خوشنام اور جی حضوری کرتے تھے ان کی بھی عبادت کرنے لگے اور ان کا بھی ذکر و شاء کرنے لگے۔

اس نظریے کے مطابق جب جہالت ختم ہو جائے گی کہ اگست کا نٹ کہنا ہے، انسان جب ان چیزوں کے اسباب کو جان لے گا اور سمجھ لے گا کہ ایسا نہیں ہے اور یہ کوئی جاندار چیزیں نہیں ہیں، سمندر بے جان ہے، زمین بے جان ہے، بارش بے جان ہے، یہاں تک کہ خود انسان ایک روح نہیں رکھتا، اس نظریے کے بارے میں بھی لازمی طور پر شک و شبہ میں پڑ جائے گا یا اسی کے درست ہونے کا انکار کر دے گا۔ اس صورت میں پرستش اور عبادت کی کوئی بحث ہی باقی نہیں رہے گی، یعنی علم کی وسعت کے ساتھ ساتھ مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔

مذکورہ مقالہ کا مصنف جواب دیتا ہے کہ یہ بات ولائل کی بنیاد پر ہے۔

درست نہیں ہے، ایک یہ کہ تجربہ نے اس کے خلاف ثابت کر دیا ہے کہ جاہلوں میں مذہب بھی موجود ہے اور لامذہ بیت بھی، اسی طرح عالموں میں بھی مذہب موجود ہے اور لامذہ بیت بھی۔ یعنی مسئلہ مذہب ولازم بیت، علم و جہل سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا، اگر مذہب جہالت کا نتیجہ ہوتا تو پھر لوگ جتنے زیادہ جاہل ہوتے اتنے ہی زیادہ مذہبی ہوتے اور جتنے زیادہ علم والے ہوتے اتنے ہی لامذہ ب ہوتے۔ لہذا پہلے درجے کے علماء کو لازمی طور پر لامذہ ب ہونا چاہئے، جبکہ عملاً ایسا نہیں ہے اور پھر وہ کئی نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاروں بھی لامذہ ب نہ تھا (انور خامنہ ای کے مقالے میں ایک نکتہ ہے کہ جس کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اس نے دو اشعار کو بطور سند ذکر کیا ہے اور ان سے جو مفہوم اس نے اخذ کیا ہے میری نظر میں وہ درست نہیں۔ ایک مولانا روم کا یہ شعر ہے۔

ابھی شو تا بمانی دین درست

”بے وقوف بن جا، اگر دین کو صحیح رکھنا ہے۔“

باوجود اس کے کہ ابوالعلاء معزی کے بارے میں کچھ نظریات ہیں، البتہ کم از کم بعید ہے کہ اس نے یہ شعر اس مقصد کے لئے کہا ہے:

اثنان اهل الارض ذو عقل بلا دین

وآخر دین لا عقل له

”اہل زمین کے دو گروہ ہیں یا تو دین دار ہیں کہ جو عقل نہیں

رکھتے اور یا پھر عقائد ہیں کہ جو دین دار ہیں رکھتے۔“

میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں اشعار میں ایسے دینداروں پر ایک طنز ہے

کوئی جو مثلاً کفر کا فتویٰ دیتے پھرتے تھے۔ یہ ان کا جواب تھا، ایسا نہیں کہ جیسا یہ  
ماہرین عمرانیات سمجھتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ دین جہالت کی پیداوار ہے)۔  
ابوالعلاء معمری اگرچہ حکیم اور فلسفی تھا، لیکن شاعر مزاج بھی تھا، وہ ایسا  
شخص تھا کہ جو مختلف حالات میں مختلف باقیں کیا کرتا تھا۔ میں نے ابوالعلاء کے  
بارے میں زیادہ مطالعہ نہیں کیا، البتہ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے، اس کے مطابق  
بہت قوی ہے اور ایسی باقیں بھی مل جاتی ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہیں۔  
رہی بات ”مولوی“ کے شعر کی تو مجھے مذکورہ شعر کہیں نہیں ملا، البتہ  
”مولوی“ کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا بہت قوی اندازہ  
یہ ہے کہ ”مولوی“ چونکہ عارف ہے اور اس لحاظ سے فلسفیوں سے اس کی ٹھنی رہتی  
ہے، وہ نظریہ تسلیم کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تک انسان کا  
حقیقت کے سامنے سر تسلیم ختم نہ ہو اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اپنا سب کچھ چھوڑ کر  
حقیقت کے پاس آجائے اور ایک عارف کی فکر ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے:  
”اپنی خود“ میں ”کو ایک طرف رکھ دو آگے بڑھو۔“

ایک حدیث کہ جس کا حدیث ہونا مسلم نہیں ہے:

عليکم بدین العجائز

”وَمَنْهُمْ عَاجِزُوْنَ كَادِيْنَ اپْنَا چَابَيْنَ۔“

مولوی نے اس حدیث تک کو نقل کیا ہے اور اس کے اس معنی میں دلائل  
دیتے ہیں، یعنی اس کی نگاہ میں ”عجاز“، ”عجز“ سے ہے، جس سے مراد ”اعساری کی  
حالت“ ہے۔ مولانا روم کے بہت سے اشعار میں عقل کی ندرت کی گئی ہے، جس

عقل کی ندامت کی گئی ہے وہ فلسفیانہ عقل ہے کہ جو عشق عارفانہ کے مقابلے میں ہے، یعنی عقل و عشق کا تضاد بیان کرتے ہوئے اس نے عقل کی ندامت کی ہے، عشق سے وابستگی اختیار کی ہے۔ البتہ عرفان یہی کچھ کہتا ہے:

آزمودم عقل دور اندرش را

بعد از این دیوانہ سازم خویش را

وہ کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے نہ کہ ان کی بات مشکل گھڑی میں عقل  
دور اندرشی کام نہ آئی، میں نے مجبور ہو کر دیوانگی کا راستہ اپنالیا۔

### رسل کا نظریہ: دین کمزوری اور خوف کا نتیجہ ہے

انور خامنہ ای کے بقول مذہب کی پیدائش کے بارے میں ایک اور نظریہ یہ ہے کہ مذہب انسان کی کمزوری اور ناقلوائی کی پیداوار ہے اور یہ دراصل مسئلہ خوف ہے۔

اس مسئلے پر جس نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، شاید وہ ”رسل“ ہے۔ اس سے نقل کی گئی عبارات میں سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں:

رسل کی کتاب ”تعلیم و تربیت“، اور سماجی نظم سے ”برگزیدہ افکار رسول“ میں نقل کیا گیا ہے:

”اللہ اور حیات بعد از ممات پر اعتقاد ہمارے لئے

وہ متشکلین،“ (شکل کی بناء پر سوچنے والے لوگ) کی نسبت کم

تر جرات کے ساتھ زندگی بسرا کرنے کا امکان مہیا کرتا ہے،  
 یعنی دین پر اعتقاد زیادہ کم ہمت اور بزدل بنادیتا ہے۔ زیادہ  
 تر لوگ ان مذہبی احکام پر ایمان، اسی عمر میں کھو بیٹھتے ہیں،  
 جس میں یاس و ناامیدی "قوطیت" انسان پر جلد غالب آ  
 جاتی ہے، لہذا جن لوگوں نے مذہبی تربیت بالکل حاصل نہ کی  
 ہواں کی نسبت انہیں زیادہ سخت ناکامیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا  
 ہے۔ مسیحیت ایسے دلائل پیش کرتی ہے کہ جس کی بناء پر وہ  
 دعوت دیتی ہے کہ ہم موت یا کائنات سے نہ ڈریں، لیکن اس  
 مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جرات و بے باکی کی صفت  
 پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، جبکہ مذہب کی طرف  
 رجحان کا بہت سا حصہ انسان کے خوف ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔  
 مذہب کے حامی اس فکر و خیال کی بناء پر کہ خوف کی بعض  
 اقسام کو خیال میں نہیں لانا چاہئے، رجحان کا اظہار کرتے  
 ہیں۔ میری نظر میں یہ لوگ اس حوالے سے سخت غلطی پر  
 ہیں۔ اس سے قطع نظر جو شخص مختلف قسم کے خوف سے نجتنے  
 کے لئے پرسرت اعتقدات کا سہارا لیتا ہے، اسے نہیں کہا جا  
 سکتا کہ اس نے زندگی گزارنے کی ممکن طور پر بہترین راہ  
 اپنائی ہے۔ جب تک مذہب خوف کا سہارا لیتا رہے گا، انسانی  
 مقام و مرتبہ کم ہوتا رہے گا۔"

نیز ”رسل“ کی کتاب ”انسانی سماج“ (اجتماع انسانی) سے نقل کیا گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو انسان زندگی کے ہولناک امور کو افسانوی رنگ دے کر برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک کمزور اور خوفزدہ موجود ہے۔ ایسا انسان اپنے وجود کے ایک حصہ میں خود اس حقیقت کا معرفت ہے کہ جو کچھ وہ قبول کر رہا ہے وہ افسانہ ہے اور داستان کے علاوہ کچھ نہیں اور اس نے اسے صرف اطمینان قلب کی خاطر قبول کر رکھا ہے لیکن ایسے افکار کا سامنا کرنے کی وہ ہرگز جرأت و بہادری نہیں رکھتا، یہاں تک کہ یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے افکار کے غیر منطقی ہونے کو جانتا ہے، لہذا وہ ان کے بارے میں تعصب سے کام لیتا ہے اور ان کے بارے میں بحث و مباحثہ سے گریزاں رہتا ہے۔

بے بالغاظ دیگر انسان نے کچھ ایسے مظاہر ہوا اور اس خوف کی وجہ سے اسے اس بات کی ضرورت پڑی کہ اپنے اس داخلی اضطراب اور پریشانی کو کسی طرح سکون اور اطمینان میں تبدیل کرنے۔ وہ علم اور ان مظاہر کی حقیقی شاخت حاصل نہ کر سکا کہ جو اس کی پریشانی کے خاتمے کے لئے مناسب را حل ہوتی۔ وہ مجبور ہوا کہ حقیقی علاج کی

بجائے کسی خواب آور دل خوش کن چیز کا سہارا لے مثلاً قضاۓ  
وقدر پر اعتقاد کے ذریعے اس نے اپنی زندگی کی نامہواریوں  
کا حل تلاش کیا۔ بہشت پر اعتقاد کے ذریعے اس نے سوچا  
کہ اگر یہاں ہمیں خوشیاں حاصل نہیں تو اس کے عوض میں  
بہشت ہے، یوں نامہواریوں کو اس نے اپنے لئے آسان بنا  
لیا اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں۔“

### تحقیق و تنقید

ہم اپنی اسی گز شستہ گفتگو کی طرف لوٹتے ہیں، شاید اس کی صحیح وضاحت  
نہیں ہو سکی۔ ہمارے علماء اصول کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ فلاں دلیل، فلاں  
دلیل پر حاکم ہے یا کہتے ہیں کہ اس دلیل پر وارد ہے۔ ان کی مراد یہ ہے کہ دو  
دلیلیں کبھی ایک دوسرے سے متعارض و مخالف نہیں ہو سکتیں، کیونکہ ایک دلیل کسی  
ایک شرط پر مبنی ہے، جب دوسری دلیل آتی ہے تو وہ پہلی دلیل کی شرط کو ختم کر دیتی  
ہے، جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو اس کے سہارے پر قائل دلیل خود بخود ختم ہو جاتی  
ہے۔ نہ یہ کہ دو دلیلیں آپس میں نکرا جاتی ہیں، ان کے لئے نکراوہ کی کوئی صورت  
باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر اس مسئلہ کی تفصیل میں چلا جاؤں تو اپنی اصلی بحث سے دور  
ہو جاؤں گا، جو افراد اس میں کچھ دخل رکھتے ہیں وہ اس مسئلہ کو جانتے ہیں۔  
جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان لوگوں کے مفروضے کی بنیاد ہی  
یہ ہے کہ دین کی پیدائش مختلط کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ اب اس صورت حال میں

ہم غیر منطقی امور یعنی خوف جہالت وغیرہ کا جائزہ لیتے ہیں۔

ان لوگوں سے یہ کہا جانا چاہئے کہ کسی انسان کی کوئی فکر ہر چند کہ باطل ہی کیوں نہ ہو لیکن اس فکر کی طرف بھی انسانی رحمان کی بنیاد انسانی منطق ہی ہے۔ مثال کے طور پر چند ہزار سال قبل انسان یہ سوچتا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین ساکن ہے۔ کیا ہمیں کبھی اس سوال کا جائزہ لینا چاہئے کہ کیا وجہ ہوئی کہ انسان اس بات کا معتقد ہوا کہ زمین مرکز ہے اور سورج اور ستارے زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں؟ کیا یہ موت کا ڈر تھا اور یا ایسی ہی کوئی اور وجہ تھی؟ ہرگز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان کی فکر اور منطق نے اسے یہ نظریہ اپنانے پر مائل کیا تھا، فکر اور منطق کے علاوہ کوئی اور عامل اس نظریے کے اختیار کرنے میں دخل انداز نہ تھا۔ اگرچہ یہ نظریہ درست نہ تھا مگر انسان دیکھتا تھا اور ظاہری طور پر اسے یہی دکھائی دیتا تھا کہ سورج اور ستارے زمین کے گرد گردش کرتے ہیں۔ جیسا وہ دیکھتا تھا وہی کچھ کہتا تھا، اس مسئلہ میں انسان کے دیکھنے اور اس کی فکر کے علاوہ کوئی اور وجہ نہ تھی، خارج سے یا اوراء سے اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ یہ بات تیرہ (۱۳) کے عدد کی خوست پر اعتقاد کے مانند نہ تھی کہ کہا جا سکے کہ اس مقام پر عقل انسانی کے علاوہ کوئی اور عامل کا رفرما تھا۔

ان سے پوچھا جانا چاہئے کہ کیا انسان وہی چند ہزار سال پہلے کا انسان ہے؟ اگر انبیاء کے مسئلے کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو بھی خوش قسمتی سے آج علم فن و صنعت یہاں تک کہ فکر و نظر میں انسان کے چند ہزار سال پہلے کے جو آثار ملے ہیں، ان میں سے بعض تو بہت ہی اعلیٰ سطح کے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ

جن تک آج رسائی نہیں ہے۔ قدیم ترین کتابیں کہ جو چین وغیرہ سے ملی ہیں ایسے فلسفیات افکار پر مبنی ہیں کہ جو اس قدر دقيق اور بلند ہیں کہ آج کے انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اہرام مصر کے بارے میں پروفیسر ہشترودی چیسے آج کے لوگ باور نہیں کر سکتے کہ یہ اس زمانے کے انسانوں کے ہاتھوں بنے ہیں، یعنی یہ فن اور صنعت کی ترقی کا ایسا نمونہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انہیں دیگر سیاروں سے آ کر انسانوں نے بنا�ا ہے۔ ہاں! کیا انسان وہی گزشتہ زمانے کا انسان اتنی بھی فکر نہ رکھتا تھا کہ اس کی عقل اسے مذہب اور خدا کی طرف لے جاتی؟

یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حوادث اور واقعات کے بارے میں سوچتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کی کوئی علت یا سبب ہے۔ تو بہت خوب! وہ ایک قدم اور اٹھا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ خود وہ علت کیا ہے؟ یہ ایک آسان سا قدم ہے کہ جسے انسان فکر اٹھا سکتی ہے، اسی پہلے قدم پر نہیں ٹھہری اور یوں کہہ کے نہیں رک سکتی کہ اس کا نام ”الہ“ اور خدا ہے، بلکہ فکر کرتی ہے یہ جو بارش ہے، کوئی چیز ہے کہ جو اسے بر ساتی ہے۔ پھر فکر اس چیز کی کھوج میں نکل پڑتی ہے کہ خود وہ چیز کیسی ہے؟ یہ بات انسان کے ابتدائی افکار کا حصہ ہے، اس کے لئے کوئی ایسا انسان نہیں چاہئے کہ جو مدرسہ گیا ہو اور تعلیم حاصل کی ہو، بلکہ ہر انسان جلد ہی اس بات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، یہ مقہور و مربوب کی صورت میں ہے۔

## قرآن اور معرفت خدا

دیکھئے کہ قرآن ابراہیمؐ کی داستان کو کس اعجاز آمیز پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ وہ ابراہیمؐ کو جو قدیم ترین انبیاءؐ میں سے ہیں، نیہاں تک کہ وہ مسیحیت اور یہودیت سے بھی پہلے ہیں۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب ابراہیمؐ علیہ السلام ابھی بالکل نوجوان تھے وہ بعض خاص وجوہ کی بناء پر معاشرے سے الگ تھلگ رہے تھے۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی لکھتہ ہے کہ قرآن پیان کرتا ہے کہ ابراہیمؐ کچھ خاص وجوہات کی بناء پر معاشرے سے دور رہے تھے اور اپنا بچپن انہوں نے غار میں بر کیا تھا (میں نے یہ بات کئی مرتبہ دہراتی ہے کہ قرآن کی حی اہن یقظان ابراہیمؐ ہے۔ حی اہن یقظان یعنی ایک ایسا انسان کہ جسے فلسفی حضرات فرض کرتے ہیں کہ وہ غار میں ہو اور ایک ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں وہ کسی انسان کو نہ دیکھ پائے اور کسی سے کوئی فکر حاصل نہ کرئے اسی حالت میں بڑا ہوئ پھر اسی حالت میں وہ دنیا کے سامنے آجائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس طرح سے سوچتا ہے؟ لیکن قرآن کا اپنا ایک حی اہن یقظان ہے کہ جو ایک حقیقی انسان بھی ہے)۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ اس دنیا کو دیکھا، چکتے ستارہ پر نظر پڑی تو اس نے ہر چیز سے زیادہ انہیں اپنی طرف جذب کر لیا، کہنے لگے:

هذا ربی

اب چاہے یہ سوالیہ انداز ہو یا قبول کرنے کی صورت میں ”میرا رب

مجھے چلائے والا ہے مجھے پالئے والا، میری تدبیر کرنے والا۔“

پھر انہوں نے دیکھا کہ پچھلے دیر بعد اس کی جگہ پچھلے تبدیل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر کی طبیعت ان سے کہتی ہے کہ اپنے رب کی جستجو کر۔ وہ طبیعت اور حالت مقصودہ مربوب اور مسخر ہونے کی ہے جسے انہوں نے "هذا ربی" کہا تھا، اسے بھی اسی حالت سے دوچار پایا تو کہنے لگا:

### لا احباب الافقین

"مجھے ان ڈوب جانے والوں کی تو خواہش نہیں ہے۔"

چنان پر نظر پڑی تو وہ بڑا نظر آیا، کہنے لگا:

### هذا ربی

اور جب دیکھا کہ وہ خود مربوب ہے تو انہیں تعجب ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میرا رب کوئی ہے تو سہی لیکن یہ نہیں، حیرت ہے کہ اب کے بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا:

### لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي

"اگر حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں سخت گمراہ ہو گیا تھا۔"

سورج کو دیکھا تو بول اٹھے:

### هذا ربی هذا اکبر فلما افلت

پھر وہ ان سب سے دست کش ہو گئے۔ انہوں نے سب کا حساب لگایا اور یہ ہے بھی بہت آسان سامسئلہ یہ سب کہ جنہیں دیکھ رہا ہوں، ایک سے ہیں۔ کہنے لگے:

سودا ہمین کند خوش است کہ شیخا کند کسی  
”یہ سب چیزیں متحرک اور متحرر ہیں، انہیں گردش دی جا رہی  
ہے۔“

انہیں سارا عالم ایک واحد مریوب کی صورت میں نظر آیا۔ قرآن بھی کہتا  
ہے کہ پہلے انسان کی فکر بھی یہی کہتی تھی کہ پوری کائنات ایک مریوب کی طرح  
ہے، خدا بس وہی ہے کہ جس میں ان سب کی خصوصیات نہ ہوں۔  
ابراہیم کہنے لگے:

وجہت وجهی للذی فطر السموات والارض  
”میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے  
آسمانوں اور زمین کو بیدار کیا ہے۔“ (انعام ۷۹)

ان حضرات سے کہا جانا چاہئے کہ انسان شناسی کیا ہے؟ اس طریقے  
سے درست ہے یا اس طرح سے کہ جس طرح سے تم کہتے ہو؟ تفسیر میزان کا  
مطالعہ کیجئے تو اس کے مطابق آیت ”ذر“ بھی اسی مسئلے کی نشان وہی کرتی ہے:  
و اذ اخذربک من بنی آدم من ظہور هم ذریتهم و  
اشهد هم على انفسهم الست بر بکم قالوا بلى  
(اعراف ۲۷۱)

قرآن کہتا ہے کہ یہ امر تعلیم و تربیت سے مربوط نہیں ہے۔ پہلے زمانے  
کا درمیانے کا اور آخری زمانے کا، گویا ہر زمانے کا انسان اس میں شامل  
ہے اور یہ بات انسان کی فطرت میں سے ہے:

## الست بر بكم

”کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟“

یعنی انسان احساس کرتا ہے کہ وہ خود اور ہر وہ چیز جو اس کی سی خصلت و کیفیت رکھتی ہے، ان میں سے ہر کسی کا ایک رب ہے کہ جو مر بوب نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی رب خود مر بوب ہوگا تو وہ بھی دوسرا مر بوبوں میں سے ہے۔ جب یہ موضوع ایک منطقی بنیاد رکھتا ہے، یعنی منطق اس امر کے لئے کافی ہے کہ انسان کو اس تک پہنچا دے تو یہ کیا بیماری اور عارضہ ہے کہ انسان ایسے دلائل اور ایسی تاویلات میں پڑے؟ یہ بات تو کچھ ایسی ہے جیسے کسی ہال کا دروازہ کھلا ہو اور وہاں ایک نشست کا آغاز ہو چکا ہو، پھر کسی آدمی کو ہم ہال کے کمرے میں دیکھیں اور کہیں کہ یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ کیا وہ ایرلنڈ یا سن والے سوراخ میں سے آیا ہے؟ کیا وہ دیوار میں نقب لگا کر آیا ہوگا؟ یا کیا جھٹت پھاڑ کر آیا ہو گا؟ کہیں کے ارے بھائی، دروازہ کھلا ہے، وہاں سے آیا ہے، اگر دروازہ بند ہو، پھر کوئی اجنبی دکھائی دے تو ادھر ادھر دیکھنا چاہئے کہ کہاں سے آیا ہے؟ لیکن جب دروازہ کھلا ہو تو پھر یہ عارضہ ہی ہے کہ انسان سوچنے لگے کہ یہ کس سوراخ سے آ گیا ہے۔

قرآن کی منطق قوی ہے یا ان کی منطق؟ قرآن خاص طور پر حضرت ابراہیمؑ کی مثال کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ابراہیمؑ جو سولہ (۱۶) برس کی عمر تک ایک ایسی جگہ پر تھے، جہاں سے وہ دنیا کو نہ دیکھ سکے، اتنا عرصہ وہ بس ایک غار ہی میں رہے۔ کہتے ہیں کہ شروع شروع کا انسان یعنی ابتدائی ترین انسان کہ جس کی

فطرت بالکل بے آلاش اور ہر طرح کے خارجی اثرات سے محفوظ تھی، اپنی فطرت کے ذریعے اس طرح کے فیصلے پر پہنچتا ہے یعنی یہ تو سادہ ترین مسائل میں سے ہے۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ کا ایک پہلو۔

دوسرا پہلو یہ کہ کیا شروع شروع کا انسان اس کائنات میں اس حرمت انگیز نظم کو نہیں دیکھ پاتا تھا؟ کیا شروع شروع کا انسان درخت نہیں اگاتا تھا؟ جب وہ دیکھتا تھا کہ ایک سادہ سائج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر اس پر اس قدر پھول پتے اور پھل لکل آتے ہیں۔ کیا یہ بات اسے ورط جیرت میں نہ ڈال دیتی تھی؟ کیا وہ اپنے جسم کے نظام کو نہ دیکھتا تھا؟ کیا یہی نظم و نسق انسان کو حیران نہ کر دیتا تھا کہ ہم کہہ سکیں کہ یہی امور انسان کے خدا اور مذہب کی طرف رہجان کا سبب بن گئے؟ اب آپ چاہیں تو اسے غلط کہہ لیں۔ میں کہوں گا، کیا یہ چیزیں انسان میں اس فکر کے پیدا کرنے کے لئے کافی نہ تھیں؟ جب فکر انسانی کے لئے یہ سب بنیادیں فراہم ہیں اور جب منطقی اور فکری دروازے کھلے ہیں تو پھر ہم کیسے ان سے آنکھیں پھیر لیں اور پھر کہیں کہ خوف انسانی فکر میں تصور خدا کی پیدائش کا سبب بنائے ہے؟ (ہم کہہ چکے ہیں کہ فکر انسانی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرنے چاہے غلط ہو جیسے زمین کی حرکت اور سورج ساکن ہونا)۔ کیا جہالت اور واقعات کے اسباب کو نہ پہچانا سبب بن گیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے مردؤں کو خواب میں دیکھا اور روحوں کی دوئی تک پہنچا؟ جب ایک سارا دروازہ کھلا ہے، تو پھر یہ کیا جوں ہے اور یہ کیا سبب ہے کہ انسان ایسی چیزوں کا مبتلاشی ہو؟ جبکہ اسے نہیں ہونا چاہئے، جبکہ اس

کے پاس فکری اور منطقی بنیاد موجود ہے۔ اولاً ابتدائی انسان کے لئے بھی اسی قدر کافی ہے کہ خدا کا تصور اسے حاصل ہو۔ ثانیاً تاریخ شاہد ہے کہ جس دور کو یہ لوگ ماقبل تاریخ زمانہ کہتے ہیں، اس کے جس قدر تاریخی آثار موجود ہیں، ان سے بھی اس بات کا سراغ مل جاتا ہے کہ اس دور میں بھی بہت سے مفکر لوگ موجود تھے۔ اب ہمارے بقول وہ پیغامبر تھے اور ان کے بقول وہ فلسفی تھے کہ جو اس امر کے لئے کافی تھے کہ اس سلسلے میں انسان کی رہنمائی کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ ”ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان چونکہ واقعات و امور کی بنیادوں اور اصول سے بے خبر تھا، لہذا اس جہالت والا علمی کی وجہ سے انسانی فکر بھٹک گئی ہے۔“

گویا ایک جہالت اور دوسرا اولادت پر فطری اعتقاد کیونکہ اگر علیت پر اعتقاد نہ ہو تو فقط جہالت (کسی عقیدہ کے اختیار کرنے کیلئے) کافی نہیں ہے۔ میں نے اسے پہلا قدم اور دوسرا قدم کا نام دیا ہے۔

### پہلا قدم

یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ واقعہ بغیر کسی علت و سبب کے نہیں ہو سکتا۔ انسانی ذہن یہاں تک کہ ایک تین یا چار سال کے بچے کا ذہن بھی جب کسی واقعہ یا مسئلہ کا تسامنا کرتا ہے تو سبب اور علت کو جاننے کا خواہش مند ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک تین چار سال کا بچہ جب کہیں سے کوئی آواز سنتا ہے، اب آپ چاہے اسے ایک مفہوم سے دوسرے کی طرف ذہن کے سفر کا نام دیں یا کچھ اور بہرحال وہ

ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ وہ اس کی علت اور سب کو جانتا چاہتا ہے، یعنی اس کا ذہن اس بات کو نہیں مانتا کہ آواز خود بخود پیدا ہو گئی ہے، یعنی ابتدائی انسان ہمیشہ علت کا مثالیٰ رہا ہے۔

### دوسرा قدم

میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوسرا قدم ایک انتہائی سہل و آسان قدم ہے۔ یہ کوئی ایسا قدم نہیں ہے کہ بیسویں صدی آن پہنچے تب انسانی فکر اس تک رسائی حاصل کرے، تب وہ کہتے کہ خود علت کیسے وجود میں آئی ہے؟ اسے علت کی علت کا مسئلہ کہتے ہیں اور پھر یہ مسئلہ پیش آئے کہ کیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان تمام چیزوں کی علت ہو یا ایسا کوئی وجود نہیں ہے؟ یہ سوال بہت جلد انسان کے ذہن میں ابھر آتا ہے، جب یہ سوال ابھرے وہی بات جو قرآن کہتا ہے یعنی جو انسانی فطرت میں ہے کہ

”جب انسان مربوبیت کے پہلو کو دیکھتا ہے، یعنی تغیر و تبدل کا مشاہدہ کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ چیزیں تغیر اور تبدل کا شکار ہوتی ہیں اور اپنی خواہش کے بغیر آتی جاتی ہیں، تو پھر وہ تغیر و تبدل کے عامل کی جستجو کرتا ہے۔“

”شبات صرف تغیر کو ہے زمانے میں،“ وہ دیکھتا ہے کہ تمام اشیاء تغیر و تبدل کے قانون کی پابند ہیں، یعنی محسوس کرتا ہے کہ ان سب کی سرشت میں یہ بات سماں ہوئی ہے، یعنی یہ سب تغیر پذیر چیزیں ہیں کہ جن پر کوئی ایک طاقت یا

کئی قدر تین حکم فرما ہیں اور یہ سب کسی اور کی تابع فرمان ہیں، ملکوم بھی ہیں اور مریوب۔ اس کے ذہن میں اچانک یہ بات ابھرتی ہے کہ کیا کوئی ایسی طاقت و قدرت موجود ہے جو فقط حاکم ہو ملکوم نہ ہو، تغیر دینے والی ہو اور خود متغیر نہ ہو؟ ایسے سوال کا ذہن میں ابھرنا مکمل طور پر ایک طبیعی اور فطری امر ہے۔

منطقی فکر سے یہاں میری یہ مراونہیں ہے کہ منطقی فکر ہمیشہ درست ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور یہ کہ منطق نے انسان کی رہنمائی کی ہوئی ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ منطق کبھی تو انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اگرچہ وہ رہنمائی غلط ہو، لیکن بہرحال فکر ہے کہ جس نے انسان کی رہنمائی کی ہے، یعنی انسان کو خود اس کے اندر سے ہدایت ملی ہے، یعنی وہ اس کی قوت اور اک ہے کہ جس نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے۔ قوت اور اک سے ماوراء کوئی عامل نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ زمین کے ساکن ہونے اور اس کے گرد سورج کی گردش کا نظریہ ایک غلط نظریہ تھا، لیکن یہی انسان کے اور اک کی قوت تھی کہ جس کے باعث انسان کی ہزار سال تک اس غلط نظریے پر قائم رہا۔ اس نے ماوراء کوئی عامل نہ تھا کہ جس کی بناء پر ہم یہ کہیں کہ چونکہ اب یہ غلط ثابت ہو گیا ہے، لہذا آئیں دیکھیں کہ کہیں اس کی عملت کوئی خواب تو نہ تھا یا اس جیسی کوئی اور چیز؟ نہیں بلکہ انسان حس رکھتا ہے، فکر کرتا ہے، اپنی حس کی بنیاد پر وہ سوچتا اور فکر کرتا ہے۔ آنکھ بظاہر دیکھتی تھی کہ زمین حرکت نہیں کرتی اور سورج متحرک تھا، کچھ اور پر کو امتحنا اور پھر مزید اور پر کو امتحنا تھا، اسے دیکھا تو انسان نے خیال کیا کہ اس کی اس حس نے کوئی غلطی نہیں کی، لہذا اس مسئلے کے اور اک اور فکر سے ماوراء کوئی

علم نہیں ہے۔

لہذا ہم جو کہتے ہیں کہ ان مسائل کے لئے ہمیشہ منطق اور ادراک سے ماوراء کی علمت کی جستجو آخر کیوں کی جاتی ہے؟ ہمیں اس صورت میں ادراک اور فکر کی قوت سے ماوراء کی علمت کی کھوج میں نکلا چاہئے کہ جب دیکھیں کہ ہم ادراک اور فکر کے حوالے سے اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، لہذا اس کا کوئی غیر ادراکی عامل موجود ہے جسے یہ لوگ جہل کہتے ہیں، وہ اس جہل سے مختلف ہے کہ جس کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے فکر و استدلال کیا ہیں؟ لیکن وہ اپنے استدلال میں غلطی کر بیٹھا۔ یہ وہی جہل ہے کہ جس کا ایک فلسفی اپنے فلسفے میں اور ایک عالم اپنے علم میں مرتب ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک جہل سے مراد ایسا جہل ہے کہ جو ایک وہم کے سوا کچھ نہیں۔

مثال کے طور پر انسان نے ایک خواب دیکھا، خواب میں اس نے اپنی دولی کو محسوس کیا۔ پھر سوچنے لگا کہ سب چیزیں روح رکھتی ہیں، مثلاً اگر بارش ہوئی تو فوراً اس نے اسے کسی چیز سے منسوب کر دیا اور پھر اس کا نام خدار کہ دیا۔

یعنی لوگ حقیقی مادی اسباب و عمل سے لालی کی بنا پر فوراً اسے ایک ماوراء طبیعت (فطرت یا مادیت) عامل سے منسوب کر دیتے ہیں۔

ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اصول دلالت کو بالکل قبول نہ کرتے ہوں، بلکہ کسی حد تک قبول کرتے ہیں، یعنی ان کے بیانات میں بھی۔ خاص طور پر اگر کائنات کے قول کے مطابق انسان نے شروع شروع میں علمت دریافت کرنا چاہی،

لیکن وہ بات کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فکر انسانی یہیں رک گئی اور توہات کے پیچھے چل پڑی، یعنی فکر انسانی نے اس سے ایک قدم آگے نہ بڑھایا ایسا صرف اصول علیت کو قبول کر لیا اور پھر اس سے آگے نہ بڑھ سکی۔ گویا انسان اس سے آگے نہ سوچ سکا اور یہیں رک گیا اور چونکہ فکر انسانی اس مسئلہ کو حل نہ کر سکی لہذا انسان نے مفروضے بنالئے اور صرف توہات کو اپنا لیا، جو کسی بھی فکر و منطق سے ہم آہنگ نہیں ہیں، یعنی انسان نے کوئی منطقی غلطی نہیں کی بلکہ ہم اور مفروضہ کا شکار ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ آغاز سے انجام تک یہ انسان کی منطقی فکر تھی کہ جس نے اس مقام تک پہنچا یا۔ اگر فرض کریں کہ اس نے غلطی بھی کی ہو تو اس کی یہ غلطی منطقی نوعیت کی ہے۔ (شہید مطہری کی موجودہ تقریر کے آخری چند منٹ کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا، جو افسوس کا باعث ہے)

باب هشتم

دین فطری ہے

کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے یہ چاہا ہے کہ یہ ظاہر کریں کہ یہ بیان دین کی مختلف توجیہ و تعبیر ہے (استاد شہید کے خطاب سے قبل حسب معمول مذکورہ مقالے کے جائزے کا سلسلہ جاری رہا)، جبکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ تینوں مختلف تعبیریں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک نظریے اور مفروضے کے کسی پہلو کا بیان ہے۔ انہوں نے درحقیقت اجتماعی عامل کی طرف توجہ نہیں کی، وہ نظریہ اور ان کی توجہ انفرادی عامل کی طرف رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے نفیاتی توجیہ کی ہے نہ کہ معاشرتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا انہی مذکورہ دلائل کی بناء پر یعنی اپنی جہالت یا کسی اور سبب سے دین کی طرف میلان پیدا ہو گیا۔ ان کے حساب سے اس زمانے میں کہ جس کا نام ان کے بقول طبقات اور مالکیت کا کوئی نام و نشان نہ تھا، پھر بھی دین موجود ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اعتبار سے دین کا سرچشمہ ایک شخص کا انفرادی اور نفیاتی پہلو ہے۔

### مارکسزم اور پیدائش دین

مارکسزم کے نظریے کے مطابق یوں نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک حتیٰ قبول کرنا پڑے گا کہ دور اشتراک اولیٰ میں دین ہرگز موجود نہ تھا۔ دین تو اس وقت پیدا ہوا کہ جب مالکیت پیدا ہوئی اور معاشرہ، لوشنے والے اور لٹنے والے دو طبقوں میں تقسیم ہوا، جب امیر اور غریب پیدا ہوئے۔ ان کے نظریے کا ایک فرق تو یہ ہے کہ جو ذکر ہوا، اس نظریے کے مطابق دین حاکم طبقے نے وضع کیا۔ ان کے نظریے کے مطابق ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ شروع شروع میں دین کو گھرنے

والے خود حکمران طبقے کا حصہ تھے، لیکن گزشتہ نظریات میں طبقات کا کوئی ذکر نہ تھا، بلکہ وہ حاکم طبقے اور محروم طبقے میں تینیں نہیں کرتے اور ان میں فرق رواں نہیں رکھتے تھے۔ لہذا اگر تاریخ یہ ثابت کرے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی اگر تاریخ کہے کہ سارے دین یا اکثر ادیان معمول طبقات میں ظاہر ہوئے تو ان کا نظریہ لازمی طور پر درہ جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کو حاکم طبقے نے بنایا ہے، تاکہ انہیں حاصل مراعات محفوظ رہ سکیں۔ کہتے ہیں کہ اس طبقے کو کچھ مراعات اور امتیازات حاصل تھے، جبکہ دوسرے طبقے کے پاس محرومیاں تھیں۔ ان امتیازات کی حفاظت کے لئے ان لوگوں کو روحانی اور داخلی عامل کی بھی ضرورت تھی اور وہ عامل لازمی طور پر معمول طبقے میں ایمان اور اعتقاد کی صورت میں ہونا چاہئے۔ ناگزیر ہے کہ اس طریقے سے حاکم طبقہ خود بے عقیدہ ہو، کیونکہ خود ہی تو انہوں نے یہ دین گھڑا ہوتا ہے، لہذا وہ معمول طبقے کو معتقد بناتے ہیں، لہذا معمول طبقے ہی کو با ایمان، با اعتقاد ہونا چاہئے۔ اس اعتبار سے معمول طبقے کے لئے دین کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اولاً ان کے لئے تسلی کا ذریعہ بتتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں تم سے کھو جائے گا، دوسرا دنیا میں پالو گے، غم نہ کھاؤ اور یہ سب با تیس اس لئے ہیں تاکہ وہ انقلاب برپا نہ کریں، اس لحاظ سے دین کی تمام تر تعلیمات کو تسلی اور تشفی کے لئے ہونا چاہئے۔ قضاء و قدر کا عقیدہ اس لئے ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ قیام کا کیا فائدہ ہے؟ کیا تقدیر سے جگ کی جاسکتی ہے؟ اگر انہیں احساس ہو کہ ان سے کچھ گھوکیا ہے اور لٹ گیا ہے تو ان سے کہا جائے کہ عالم آخرت میں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔

لہذا (ان کے مطابق) دین کی تمام تر تعلیمات ان کے دل کی تسلیں اور

تمکین کے لئے ہیں، جبکہ اسلام جیسے ادیان میں موجود تعلیمات ایسی بھی ہیں کہ جو ایسی باتوں کے خلاف ہیں، یعنی وہ تعلیمات ہیں کہ جو انقلاب کی دعوت دیتی ہیں۔ نہ فقط یہ کہ دین حاکم طبقے سے ظاہر نہیں ہوا بلکہ اس سے بالاتر حقیقت یہ ہے کہ حاکم طبقے سے ظاہر ہوا ہو یا دوسرے طبقے سے، محکوم اور محروم طبقے کے مفاد میں انقلاب اور قیام کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بات ان کے نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ ان کے حساب سے تو بات اس کے برخلاف کچھ نہیں ہو سکتی، ان تعلیمات کے اندر حاکم طبقے کے مفادات کے برخلاف کچھ نہیں ہونا چاہئے۔ مثلاً جن اجتماعی نظاموں کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان میں امکان ہے کہ اخبارات، ریڈیو ٹیلی ویژن جیسے ذرائع ابلاغ سے انسان ایک لفظ بھی ایسا سن سکے جو عوام کو حکمران طبقے کے خلاف تحریک کرنے والا ہو؟ نہیں، حکمران طبقہ جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی وکالت میں کہتا ہے اور ممکن نہیں ہے کہ اس کے برخلاف ہو، لہذا اگر دین کو حاکم طبقہ گھرے تو اس کی تعلیمات میں تقاضہ و قدر جیسے مایوس کن اور عالم آخرت کے وعدوں کی صورت میں تسلی و تشفی دینے والے نظریات ہونے چاہئیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم فرض کریں کہ دیندار طبقہ جاہل بھی ہو؛ کیونکہ اگر وہ جاہل نہ ہو تو ایسی تعلیمات کو قبول نہیں کرے گا۔

اس حوالے سے دیکھیں تو پھر ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس مسئلے میں مختلف طرح کے نظریات پیش کئے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ دین حاکم طبقے کا ساختہ و پرواختہ ہے اور ان کا یہ کہنا کہ اس کے لئے عوام کی جہالت سے استفادہ کیا گیا ہے، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ ایک نظریہ

یہ کہتا ہے کہ عوام چونکہ جاہل تھے، انہوں نے اپنے لئے دین کو اختراع کر لیا اور یہ کہتے ہیں کہ حاکم طبقے نے عوام کی جہالت سے استفادہ کرتے ہوئے دین کو اختراع کیا (ایک نظریے کو جو موجود تو نہیں، ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ محروم طبقے نے اپنی تسلی کے لئے خود سے دین کو گھڑ لیا ہو، مارکسٹوں نے تسلی کو عامل قرار دیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حاکم طبقے نے ان کے لئے تسلی کا سامان وضع کیا ہے)۔

### مارکسزم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ

اس نظریے کے کمزور پہلوؤں میں سے ایک تاریخ ادیان سے مریبوط ہے، یعنی تاریخ ادیان اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب سے انسان اس زمین پر ہے، ان قدیم ترین ایام سے، یعنی اس زمانے میں بھی کہ جسے یہ لوگ اولیں دور اشتراک کہتے ہیں، پرستش کے آثار موجود ہیں۔ بلکہ ماں مول کا نظریہ تو مشہور نظریے کے اس لحاظ سے بھی برخلاف ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پرستش کا سلسلہ عالم طبیعت کی اشیاء ہتوں اور ارباب انواع کی عبادت سے شروع ہوا اور پھر خدا نے واحد تک پہنچا، جبکہ ماں مول کہتا ہے کہ قدیم ایام کی آگاہی نے ثابت کیا ہے اور وہ ثابت بھی کرتا ہے کہ قدیم ترین ایام سے خدا نے واحد کی پرستش موجود ہے۔

لہذا اس نظریے کے مطابق اولاً دور اشتراک اولی میں ممکن نہیں ہے کہ دین موجود ہو (جبکہ یہ بات تاریخ سے ہم آہنگ نہیں ہے)۔ ثانیاً یہ ادوار کے جو طبقائی ہیں، مثلاً دور جا گیرداری میں ہمیں یہ لازماً ماننا پڑے گا کہ تمام ادیان کو

لانے والے اور ان کے اوپرین پیر و کار حاکم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بات بھی ادیان کی مسلم تاریخ سے قطعی مطابقت نہیں رکھتی، یہود اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے اس اعتبار سے ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ اولاً موسیٰؐ اگرچہ خونی اور نسلی اعتبار سے محروم اور پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن طبقاتی لحاظ سے ان کا تعلق استعماری طبقے سے تھا، کیونکہ وہ فرعون کے بیٹے کی حشیثت رکھتے تھے۔ وہ فرعون کے گھر میں بہت ناز و نعمت میں پلے تھے، انہیں درجہ اول کے شہزادے کی حشیثت حاصل تھی، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور یہ ان کے بیٹے کی طرح تھے۔ جبکہ موسیٰؐ نے فرعون کے گھر میں، فرعون ہی کے ہاتھوں پسے ہوئے طبقے کی حمایت میں قیام کیا۔ اس بات کی کوئی اشتراکی تو جیہہ نہیں کی جاسکتی یا ہم اس کی اساس قوی، نسلی اور خونی قرار دیں، جبکہ یہ بھی بہر حال مارکسزم سے مطابقت نہیں رکھتی، چونکہ یہ لوگ تاریخ کا اصل محرك طبقات کو سمجھتے ہیں، نہ کہ خون کو۔ دوسرے لفظوں میں یا تو ہم اسے موسیٰؐ کا نسلی تعصب قرار دیں کہ جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کا اور فرعون کا خون مختلف ہے اور جو اس کے ہم نسل ہیں، ان کی حالت ایسی ہے اور ویسی ہے، لہذا خونی تعصب نے انہیں قیام پر ابھارا کہ جو بہر حال مارکسزم سے ہم آہنگ نہیں ہے اور اگر یہ نہ ہیں تو پھر جو کچھ بھی کہیں ان کی طرز زندگی سے مطابقت نہیں رکھتا۔

ثانیاً فرعون کے گھر میں واقعاً موسیٰؐ نے بنی اسرائیل کی حمایت میں قیام کیا، چنانچہ یہ قیام محروم طبقے کی طرف سے تھا۔ یہ فرعونیوں کا قیام نہ تھا، بلکہ فرعونیوں کے خلاف قیام تھا، یعنی بنی اسرائیل کا قیام تھا اور یہ بات سو فیصد ان کی

باتوں کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ دین حاکم طبقے کا گھڑا ہوا ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق تو یہ کہنا چاہئے کہ یہودیوں کا دین فرعونی مشینزی نے گھڑا تھا، تاکہ بنی اسرائیل میں اطاعت و تسلیم کا احساس ابھارا جائے، جبکہ دین یہود تو اس لئے آیا کہ بنی اسرائیل کو قیام پر ابھارے۔

### قرآن حکیم کے بقول

و تلک نعمة تميها على ان عبدت بنى اسرائيل (شعراء، ۲۲)

یہ بنی اسرائیل کی غلامی پر اعتراض ہے:

يَا قوم ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدُسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  
(ماائدہ، ۲۱)

”اے میری قوم! اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ کہ جو  
اللہ نے تمہارے لئے مقرر کی ہے۔“

یہ سب تحریک ہے۔ ڈروٹیں استقامت اختیار کرو۔ صبر  
کرو۔ اللہ پر توکل کرو۔ اللہ یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔  
اسلام بھی ایسا ہی دین ہے:

و نَرِيدُ أَنْ نَمَنِ عَلَى الَّذِينَ اسْتَغْفَلُوا فِي الْأَرْضِ وَ  
نَجْعَلُهُمْ آثَمَةً وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِثِينَ (قصص، ۵)

”ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں کہ جنہیں  
زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے اور انہیں پیشووا قرار دیں اور

انہیں ہم وارث بنائیں۔“

یہ بھی فرمایا:

وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ افْتَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ

لِيُسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں ضرور جانشین بنائے گا۔ یہ نوید ہے ایسے لوگوں کے لئے کہ جن سے دوسروں نے زمین کی خلافت لے لی ہے۔ نوید اس امر کی ہے کہ ہم تمہیں زمین کی خلافت دیں گے، زمین کو تمہاری میراث قرار دیں گے۔“

ان الارض لله يورثها من يشاء (قص، ۵)

”زمین اللہ کی ہے اس کی مرضی ہے وہ اس کا وارث بنائے۔“

نیز فرمایا:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي السَّدِيرَةِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

يُرِثُهَا عَبَادِي الصَّالِحُونَ (انبیاء، ۱۰۵)

”اور البتہ زیور میں ہم نے ذکر کے بعد یہ لکھا کہ زمین کا وارث ہم اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے۔“

طھیسین نے ایک ولچپ کتاب لکھی ہے جس کا نام ”ال وعد الحق“

جناب احمد آرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے بنام ” وعدہ راست“ اس کتاب ”ال وعدۃ الحق“ کا عنوان یہی آیت ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لِيُسْتَخْلِفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ

اس کتاب میں غلاموں، مستقupoں، محروموں اور زیرستوں سے تعلق رکھنے والے بیس (۲۰) منتخب افراد کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اس قرآنی وعدہ نے حیات نو عطا کی، مثلاً عمار یاسر، ابوذر غفاری اور عبد اللہ بن مسعود۔ یہ بہت اچھی اور قابل مطالعہ کتابیوں میں سے ہے، بچوں اور جوانوں کو اس کے مطالعے کی نصیحت کی جانی چاہئے۔ تاریخ اسلام اصلًا ایسی ہی تاریخ ہے عبد اللہ بن مسعود آتے ہیں اور ابو جہل سے لڑتے ہیں، اپنے آقاوں سے لڑتے ہیں، یعنی یہ غلاموں کا انقلاب ہے، بنیادی طور پر یہ امر اس نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا۔  
یہ تعلیمات تو کہتی ہیں:

لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ

(نباء ۱۳۸)

نیز یہ بھی کہ

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ الْمُتَرَاهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ  
يَهِيمُونَ وَانْهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ  
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا

(شعراء ۲۲۴-۲۲۵)

”اور یہ جو شراء ہوتے ہیں، ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تو نہ نہیں دیکھا کہ یہ ہر وادی میں پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صاحب بجالاتے ہیں۔“

یعنی شعر بھو اور اس طرح کے پر اپنگڈا کے موقع پر اسلام اجازت دیتا ہے (کہ مظلوم فریاد کرے) یا اسی طرح غیبت کو حرام قرار دیتا ہے مگر ایسے موقع پر ایسے امور کوئی ایک دونہیں ہیں یہ تعلیمات اس منطق سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ گویا مارکسزم کا یہ نظریہ ایک ایسی بات ہے کہ جو لکھائی گئی ہے اور ان کے نزدیک اسے قبول کرنا چاہئے اگرچہ یہ کسی حقیقت پر منطبق نہیں ہوتی۔

### کیا دین جہالت کی پیداوار ہے؟

اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی منطق ہے کہ جو دین کو صرف لوگوں کی جہالت کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسے ایک فضیلی مسئلے کے حوالے سے لیتے ہیں۔ مقالہ لکھنے والے نے بھی یہ اعتراض کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر لوگ جو اس قدر عالم ہو گئے ہیں، دین کو خود بخود ختم ہو جانا چاہئے۔

آپ موازنہ کریں، ہر غیر دینی عقیدہ کہ جو گزشتہ دور میں لوگوں کی جہالت کے نتیجے میں تھا، صرف علم کے آنے سے جیسے چنانچہ کے آنے سے ظلمت چھٹ جاتی ہے، خود بخود نابود ہو گیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق علم کی ترقی کے ساتھ دین کو بالکل ناپید ہو جانا چاہئے، یعنی علماء میں وینڈاری کا وجود نہیں ہونا

چاہئے، جبکہ خود رسول کے بقول ہم دیکھتے ہیں کہ جہلاء کے طبقے میں لا دین بھی ہیں اور دین دار بھی اور علماء کے طبقے میں بھی دیندار بھی ہیں اور لا دین بھی۔ (یہی ہمارے ہاں بھی ہے جنہیں مجھترے کرنے کے سوا کچھ سمجھنیں آتا، کیا ان کے درمیان دیندار زیادہ ہیں یا بے دین؟ ان میں دیندار بھی ہیں اور لا دین بھی)۔

شاید ہر زمانے میں علمائے میں عالم ترین شخص دیندار ہوتا ہے، یہاں تک کہ خود ہمارے زمانے میں بھی یہی عالم ہے۔ ان کی منطق کے مطابق تو اصلًا محال ہے کہ آئن شائن دین و مذہب پر اعتقاد رکھتا ہو یا ماسک پلاک یا ولیم جیمز یا برکسن یا ڈارون اور ان جیسے اول درجے میں شمار ہونے والے دانشور دین پر اعتقاد رکھتے ہوں۔ ڈارو نزم میں بہزاد لکھتا ہے کہ اگرچہ گلیسانے ڈارون کی شدید تکفیر کی، اس کے باوجود آخِر عمر تک خدا نے یگانہ پر اس کا ایمان و اعتقاد باقی رہا۔ جبکہ یہی ڈارو نزم مارکسیوں کے ہاتھ میں آج ایک بہت بڑا ہتھیار ہے خود ڈارون کو اس کے علم نے لامدہب نہیں کیا۔ ایک اور جگہ میں نے پڑھا ہے کہ موت کا وقت آیا تو ڈارون نے کتاب مقدس اپنے سینے سے چٹا رکھی تھی اور اسے چھوڑتا نہ تھا، یہ امر ایسی منظقوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔

علاوہ ازیں مارکسیوں کے نظریے کے مطابق آپ طبقاتی تقاضوں کو ختم کر دیں تو دین خود بخود ختم ہو جائے گا، یعنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دین کے خلاف جنگ کریں۔ ان کی منطق یہ ہے کہ طبقاتی اشتیارات کو ختم کر دیں سو شلسٹ معاشرہ تشکیل دیں، دین کا وجود خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جبکہ اس کا غلط ہونا خود سو شلسٹ ممالک میں آشکار ہو چکا ہے، خود سو شلسٹ ممالک اس کے

خلاف بہترین دلیل ہیں۔ یہ جو لوگ ابھی تک سوویت یونین میں دین کے خلاف اس قدر پر اپنیکنڈا کرتے ہیں، کس لئے ہے؟ طبقاتی امتیازات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی گاہے بگا ہے کہتے رہتے ہیں کہ جوانوں میں دین رسوخ پیدا کر رہا ہے، اس کے خلاف کچھ کریں، جب علت ختم ہو گئی ہے تو معلول کو بھی ختم ہو جانا چاہئے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ پیدائش دین کی وجہ طبقاتی امتیازات ہیں، اب جبکہ آپ کا معاشرہ طبقاتی نہیں ہے، پھر دین کی طرف میلان کیوں پیدا ہوتا ہے؟ لہذا ضرور اس کی بنیاد کچھ اور ہونا چاہئے یا دوسرے ممالک میں مثلاً اسلامی ممالک میں، ہمیں یوں فرض کرنا چاہئے کہ جو نبی کوئی اسلامی ملک سو شلسٹ ہو جائے، سب مسجدوں کے دروازے خود بند ہو جانے چاہئیں۔ جبکہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ نہ خود اسلامی ممالک کو اس کی فکر ہے اور نہ ہمیں ان کے بارے میں اندیشہ ہے۔ مختلف ممالک سو شلسٹ ہو رہے ہیں اور ان میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر کچھ لامذہ بہ سو شلسٹ ممالک میں موجود ہیں تو طبقاتی ممالک میں زیادہ ہیں۔ اب طبقاتی ممالک میں دیکھیں کہ کیا دین و مذہب کے خلاف جنگ زیادہ تر حاکم طبقہ کر رہا ہے یا ملکوم طبقہ؟ (ظاہر ہے کہ حاکم طبقہ زیادہ دین کے خلاف تبرداً آزمائے جبکہ مارکسزم کے مطابق مذہب تو حاکم طبقے کا ساختہ و پروانختہ ہے، لہذا اسے تو اس کے خلاف برسر پیکار نہیں ہونا چاہئے)۔ یہ اجتماعی حفاظت ہیں کہ جن کا ہمیں سامنا ہے، ان لوگوں کی منطق سے ان کی کس طرح سے توجیہہ ہو سکتی ہے؟ کیسے ان کی توجیہہ ممکن ہے؟

## ویل ڈیورنٹ کی رائے

ویل ڈیورنٹ اگرچہ خود ایک لامدہ ب شخص ہے، اپنی کتاب ”درہانی تاریخ“ میں ایک بات کہتا ہے کہ جو واضح طور پر ناراضگی و غصہ کی وجہ سے ہے۔ وہ دین کے باڑے میں کی جانے والی توجیہات نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ درست نہیں ہیں اور آخر کار کہتا ہے:

”دین کی سو (۱۰۰) جانیں ہیں، اسے آپ جتنا بھی ماریں گے، پھر زندہ ہو جائے گا اور یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی سو جانیں ہیں؟ اتنا ہی کہہ دیں اور راحت پائیں کہ اس میں جان ہے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ سو جانیں ہیں؟ انسانی فطرت کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔“

وہ کہتا ہے کہ

”مختلف بجھوں پر دین کے خلاف اتنی جنگ کی گئی ہے کہ وہ سمجھنے لگے کہ اب انہوں نے اسے بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، اب ممکن نہیں ہے کہ دوسری نسل میں باقی رہے۔“

کہتا ہے کہ

”اسے جتنا بھی مارا گیا، یہ پھر سے زندہ ہو گیا۔“

سامعین میں سے کسی نے اس موقع پر کہا:

”جب تک تیری جان نہ کل جائے۔“

واقعاً ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ تیری جان نکل جائے، حتیٰ کہ یہی مقالہ لکھنے والا کہ جو ایک مادہ پرست (Materialist) شخص ہے، اس موقع پر خوب کہتا ہے۔ جب اسی طبقاتی نظریے کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے:

”اس نظریے کے مطابق تو پیداواری اور ترقی پسند طبقے مثلاً مزدور طبقہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں (یعنی ذاتاً ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں)، چونکہ ان کا تفکر ان کی زندگی کے تقاضوں کے نتیجے میں ترقی پسند اور سائنسی ہے۔ استعمالی اور غیر پیداواری طبقات کے برعکس کہ جنہیں اپنے مفادات کی حفاظت کے لئے مذہب کی ضرورت ہے۔“

اس کے بعد مقالہ نگار جواب دیتا ہے:

”یہ نظریہ بھی حقیقت سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا، مشاہدات اور اعداد و شمار اس کے خلاف ثابت کرتے ہیں۔ کسان شاید معاشرے کا پیداواری ترین طبقہ ہے اور اس کے باوجود مذہبی ترین بھی ہے۔ روشن فکرلوں کے برعکس کہ جو عموماً غیر پیداوار ہوتے ہیں، لیکن تمام طبقوں کی نسبت مذہب سے ان کا تعلق کم ہوتا ہے (الہذا یہ بات روشن فکر طبقہ وغیرہ سے مربوط نہیں)، برسر کار مزدوروں کی نسبت بے کاروں کی مذہب سے وابستگی کم تر ظاہر ہوتی ہے۔ صنعتی ممالک کے مزدوروں میں

نمہب کی طرف موجود صدی میں رجحان گزشتہ صدی سے زیادہ ہے اور آخری دہائیوں میں گزشتہ دہائیوں کی نسبت زیادہ ہے۔“

سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن اور عوامی جمہوریاوں میں نہب نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس کا نفوذ اور اثر و رسوخ روز افزروں ہے، جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے ہاں طبقاتی تقسیم ختم ہو چکی ہے، ان کے سب لوگ پیداواری ہیں۔ ان کی توجیہ اور استدلال کیا ہے؟ اس کی حیثیت ایک شکست خورده نظریہ کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن یہ لوگ ان باتوں کو اسی پیرائے میں دھراتے رہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کچھ خوبصورت عبارتیں بنالیں ہیں اور اب ان کو دھراتے رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہی باتوں کا بڑی دلنشیں عبارتوں میں تکرار کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اس پر سوچتا نہیں کہ کیا یہ باتیں درست بھی ہیں یا نہیں؟

ماں مولر کا یہ خاص نظریہ کہ توحید کا عقیدہ مشرق سے پہلے موجود تھا، ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو موجود تو ہے، لیکن اس کے ماننے والے زیادہ نہیں ہیں۔ اکثریت کا خیال یہی ہے کہ شرک کا عقیدہ توحید سے پہلے تھا، البتہ دین اسلام کی منطق کی رو سے توحید کا عقیدہ شرک سے پہلے تھا، یعنی شرک ایک محرف شدہ توحید ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ شرک کا وجود توحید سے قبل تھا، لیکن تاریخ حیات تک بھی ہے، انسان کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جہاں بھی انسان کا کوئی نام و نشان ملتا ہے، وہاں عبادت کے آثار موجود ہیں، اشتراک اولیٰ کا مسئلہ علمتوں ہی کے حوالے سے ان لوگوں نے اخذ کیا ہے۔ شروع ہی سے

عبادت کی موجودگی کا نظریہ میں دوسروں کے نقطہ نظر کو نقل کرنے کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ ایک دینی و مذہبی نظریے کے طور پر ذکر کرتا ہوں۔ جہاں جہاں پر بھی انسانی زندگی کا کوئی نشان ہے، چاہے وہ اشتراکی صورت میں ہو، چاہے غیر اشتراکی اور اختصاصی صورت میں، عبادت کے آثار ہیں۔ ابھی تک کسی ایسی انسانی زندگی کا کوئی سراغ نہیں ملا، جس میں عبادت کا وجود نہ ہو (اس موقع پر سائیں میں سے کسی نے سوال کیا)۔

بعض کا کہنا ہے کہ آگ سے پہلے کے زمانے میں عبادت کا کوئی نشان نہیں ملتا؟ جواب میں شہید مظہری<sup>ؒ</sup> نے فرمایا، اس بات کو میں ان خصوصیات کے ساتھ نہیں جانتا ہوں کہ یہ بات عمومی نظریے کے برخلاف ہے، تاہم آپ کا یہ کہنا بھی اشتراک اولیٰ کے مسئلے سے میل نہیں کھاتا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب آگ کا انکشاف ہوا عبادت بھی ظہور پذیر ہوئی، جبکہ ہم نے جس بنیاد پر مارکسٹوں کے نظریے کو رد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان نظریے کے مطابق اشتراک اولیٰ کے دور (البتہ اشتراک اولیٰ کے دور سے پہلے بھی کچھ دور تھے، کہنا چاہئے کہ قبیلوں کی صورت میں سماجی زندگی کے دور تھے، وہی کھیتی باڑی کے دور سے پہلے کہ جوشکار وغیرہ کا دور ہے) میں اور کھیتی باڑی کے دور سے پہلے کہ جس میں ان کے نظریے کے مطابق مالکیت وجود میں آئی، امکان نہیں کہ پرستش موجود ہو۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ آگ سے پہلے کے دور میں عبادت کا کوئی نشان نہیں ملتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، علاوہ ازیں ”کوئی نشان نہ ملتا“، اس کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔

## باب نهم

دین کے نقطہ آغاز کے بارے میں ڈور کھیم  
کے نظریے کا جائزہ

چھٹا نظریہ کہ جو دین اور مذہب کی پیدائش کے سرچشمہ کے بارے میں  
مذکورہ مثال میں بیان کیا گیا ہے، اس کا عنوان ہے ”بازگشت بہ از خود بیگانی“۔  
اس عنوان کے تحت فرانس کے ایک مشہور ماہر عمرانیات ڈور کہیم کا ذکر کیا  
گیا ہے۔ پیدائش مذہب کے بارے میں اس وقت ڈور کہیم کا نظریہ دنیا کے مشہور  
ترین نظریات میں سے ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مذکورہ مقالہ کے مصنف نے  
اسے بیان کرنے میں اپنے کچھ خاص نظریات بھی اس میں مخلوط کر دیئے ہیں، یعنی  
یہ ہے کہ ہم ڈور کہیم (Mr. Emile Dur Kheim) کے نظریہ کو ایک طرح  
کی ”بازگشت بہ از خود بیگانی“، قرار دیں، شاید اس مقالے کے مصنف کی اپنی  
مخصوص اصطلاح ہے، میں نے کسی اور جگہ یہ اصطلاح نہیں دیکھی۔ جہاں تک مجھے  
ڈور کہیم کے نظریات کا علم ہے، وہ ”اصالت اجتماعی“ (Socialism) کا قائل،  
یعنی معاشرے کے لئے اصالت کا قائل ہے اور درحقیقت فرد کے لئے اصالت کا  
قابل نہیں (Individualism)۔ اس معنی میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ معاشرہ  
افراد کی ”ترکیب حقیقی“ کا نام ہے، نہ کہ ترکیب اعتباری کا۔

### مرکب اعتباری اور مرکب حقیقی

(فرکس اور کیمسٹری کے طلبہ کے لئے آمیز (Mixture) اور مرکب  
(Compound) کی اصطلاحوں میں جو فرق ہے، وہی فرق مرکب اعتباری اور  
مرکب حقیقی کے مفہوم میں اپنے مقام پر پایا جاتا ہے)۔

ایک لحاظ سے مرکب کی دو تسمیں ہیں، اعتباری اور حقیقی۔ مرکب اعتباری

یعنی چیزوں کا ایسا مجموعہ کہ جن کے درمیان ایک طرح کی وابستگی موجود ہوتی ہے البتہ بغیر اس کے کہ کوئی شے اپنی انفرادیت کھو دے اور اپنے تینیں کل میں حل کر دے۔ مثلاً ہم کسی ایک جگہ پر موجود درختوں کے مجموعہ کو باغ کہتے ہیں، ایک درخت کو باغ نہیں کہتے، ان سب کو ملا کر باغ کہتے ہیں، لیکن باغ کا ہر جز اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے، یہ درخت بھی اپنی انفرادیت رکھتا ہے اور دوسرا درخت بھی۔ یہ درخت اگر اس باغ میں نہ ہوتا تو بھی یہی درخت ہوتا اور اگر یہاں تھا ہوتا تو بھی یہی ہوتا اور اگر باغ میں ہونے سے اس میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے تو بھی بالکل سطحی ہے، گہری نہیں ہے۔ مثلاً اس باغ میں خوبی کے ایک درخت کی "انفرادیت" درختوں کے مجموعہ میں شامل نہیں ہے، بلکہ علیحدہ ہے، اسی طرح سے یہی کیفیت دوسرے درختوں کی بھی ہے۔ ایسے مجموعے اور مرکب کو ہم مرکب اعتباری کہتے ہیں۔

لیکن مرکب حقیقی میں ہر چیز کی انفرادیت کل میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کسی چیز کی سابقہ حالت باقی نہیں رہتی، ہر چیز اس میں اپنی ماہیت کھو دیتی ہے اور نئی ماہیت اختیار کر لیتی ہے، وہی ماہیت کہ جو کل کی ماہیت ہوتی ہے جیسے (کیمیائی اور طبیعی مرکبات Chemical & Physical Compounds) عالم طبیعت (Nature) میں موجود ہر مرکب اسی طرح کا ہوتا ہے۔ مثلاً پانی کو اگر ہم مرکب کہتے ہیں تو وہ دو مختلف عنصر (Elements) کے باہمی ملاپ سے تعمیر شدہ صورت ہے اور اس میں ان دونوں کی ماہیت تبدیل ہو چکی ہے، یعنی نہ اب آکسیجن پانی میں آکسیجن کی

صورت میں موجود ہے اور نہ وہ اپنی خاصیت رکھتی ہے، اسی طرح اب ہائیڈروجن بھی ہائیڈروجن کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ ان دونوں نے آپس میں مل کر ایک مرکب کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ایک تیسری ماہیت اختیار کر لی ہے اور حقیقت میں ایک نئی ماہیت وجود میں آگئی ہے کہ جو پانی کی ماہیت ہے۔ ہاں پانی کا پھر سے تجربہ گر کے اسے انہی ابتدائی عناصر میں تبدیل کیا جاسکتا ہے، لیکن اس وقت یہ وہ نہیں ہے اور یہی حالت دیگر طبعی مرکبات کی ہے۔

### انسانی معاشرے کی ترکیب کی نوعیت

اب ہم انسانی معاشرے کی ترکیب کا جائزہ لیتے ہیں، کیا یہ ترکیب حقیقی ہے یا اعتباری؟ اس میں شک نہیں کہ اگر ہمارے نزدیک معیار انسانی بدن اور جسم ہو تو انسانی معاشرہ ایک مرکب اعتباری ہے، اس لحاظ سے اس میں اور کسی باغ کے درختوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ فرد جن خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوا تھا، آج بھی انہی خصوصیات کے ساتھ موجود ہے وہ فرد بھی بالکل اسی طرح ہے اور یوں ہی سارے افراد ہیں۔ اگر کوئی شخص جیسے ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، ہم اسے کسی غار میں لے جا کر اس کی پرورش کریں، یا بیولوچیکل (Biological) اعتبار سے یہاں اس کی نشوونما میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ معاشرے میں رہتا ہے تو وہاں بھی یا بیولوچیکل اعتبار سے اس کی نشوونما ایسی ہی ہوتی یہ نہیں ہے کہ ہرگز کسی حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری مراد ہے کہ ماہیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا بدن کوئی اور بدن ہو جائے۔

گا۔ لیکن حیوانات کے برخلاف انسان کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، حیوان کی خصوصیت اس کے بدن سے مربوط ہے، اس کی نفسیاتی حیثیت بھی تقریباً اس کے بدن کی خصوصیت کی طرح ہے، یعنی وہ ان دوسروں کے زیراث نہیں ہوتا۔ نفسیاتی بدن سے اس کی جملت میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ دوسرے حیوانوں میں ہو یا نہ ہو، اس سے اس حیوان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ انسان کا ایک معاشرتی پہلو بھی ہوتا ہے یا اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو انسان ایک روحانی پہلو کا بھی حامل ہے اور یہ وہ پہلو ہے جو اس کی شخصیت سے مربوط ہے، نہ کہ فرد سے۔ ایسا کس طرح سے ہے؟ پچھلے زمانے کے فلسفی بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ حیوانات کے جو آمادہ اور مستعد جملت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، انسان ان کے برخلاف مکمل اور تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ ہم نے جہاں فقرات کے بارے میں گفتگو کی ہے، وہاں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو انسان کے لئے فطرت کے قائل نہیں ہیں، ان کے قول کے مطابق روح انسان اس کی پیدائش کے وقت ایک کورے کاغذ کی سی ہوتی ہے، یعنی اس پر کوئی نقش نہیں ہوتا، اس پر جو کچھ لکھیں وہی ثابت ہو جائے گا، جبکہ اس کے برعکس حیوانات کی کیفیت ایک لکھے لکھائے صفحے کی سی ہوتی ہے۔ اگر ہم فطرت کے بھی قائل ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان صلاحیتوں کا سلسلہ کہ جو مکمل طور پر اور بالقوۂ انسان میں موجود ہے وہ کسی بچل یا اس کے درخت کے شیج کی استعداد کی مانند ہے۔ جو لوگ فطرت سے انکاری ہیں، ان کے مطابق پیدائش کے وقت انسان ایک خالی صفحہ کی مانند ہے کہ جس پر جو بھی لکھا جائے وہی نقش ابھر آئے گا، اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس پر آپ قرآن

کی کوئی آیت لکھ دیں یا کوئی گالی لکھ دیں۔ جو لوگ فطرت کے قائل ہیں، ان کے مطابق انسان ایک بیج کی طرح ہے اور جب وہ نیچ ہوتا ہے تو عملاء و درخت نہیں ہے، پتا نہیں ہے، شاخ نہیں ہے، پھل نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ بننے کی صلاحیت اس کی ذات میں موجود ہے۔ اگر ہم اسے جلا کر خاکستر کر دیں تو گویا ہم نے اس کی صلاحیتوں کو عملی صورت اختیار نہیں کرنے دی۔ لہذا بات اتنی ہے کہ انسان ایک مکمل اور تمامتر صلاحیتوں اور تو انسائیوں سے بھرپور موجود ہے، جسے معاشرہ سرگرمی بخشتا ہے، یعنی معاشرہ ہے کہ جو انسان کو روحانی شخصیت عطا کرتا ہے۔ انسان معاشرے سے زبان سیکھتا ہے، اس سے آداب، رسوم، افکار اور عقائد حاصل کرتا ہے۔ یہ معاشرہ ہے کہ جو اس کے ظرف روحانی کو پر کرتا ہے اور اس کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اس طرح وہ بھی اپنی باری پر دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ فقط ایک مستقل اور اثر پذیر وجود نہیں ہے بلکہ تاثیر بخش ہے اور فعال بھی ہے، یعنی ایک ہاتھ سے لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے دیتا ہے۔ ایک فرد کے لحاظ سے متعلم و طالب علم اور دوسرے کے اعتبار سے معلم و استاد ہے، بلکہ جب وہ معلم ہوتا ہے تو اس وقت وہ استاد بھی ہوتا ہے اور شاگرد بھی، سکھا بھی رہا ہوتا ہے اور سیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ شخص اپنی فکر سے اپنی روحانی خصوصیتوں سے (اور جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے) یا اپنی تعلیمی مہارت سے اسے سکھاتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے، یعنی انسان ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ معاشرے کے افراد نفسیاتی، روحانی اور ثقافتی لحاظ سے پانی کو تشکیل دینے والے عناصر کی مانند ہیں، یعنی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آسیجن اور ہائیڈروجن ایک

دوسرے سے مل کر ایک نئی ترکیب اختیار کر لیتی ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ افراد کے ایک مجموعے کے باہم میل ملاپ سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے سے ایک مرکب حقیقی وجود میں آتا ہے کہ جسے قوم یا ملت کہتے ہیں، لہذا شفافی اعتبار سے انسان کے دو خود (Self) ہیں، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ پانی میں ہائیڈرجن اور آسکیجن بھی ایک خاص حد تک ایک دوسرے سے اتفاقی رکھتی ہیں، ایک دوسری حد کے لحاظ سے اور ایک سطح پر دونوں پانی ہیں اور پانی ہونے میں انہوں نے آپس میں وحدت ”یکتاں“ پیدا کر لی ہے اگر وہ اپنی ”میں“ کا احساس کرتیں تو ہر کوئی اپنے آپ میں یہ محسوس کرتی کہ میں پانی ہوں۔ پانی کو جو آسکیجن اور ہائیڈروجن کی مشترک ”میں“ ہے، اس اعتبار سے ہر فرد میں دور ”میں“ موجود ہیں، ایک انفرادی اور دوسری اجتماعی یا ”نمایجی“۔

### دین کی پیدائش کا سرچشمہ ڈور کہیم کی نظر میں

ایک اصول ڈور کہیم کی باتوں میں موجود ہے۔ اگرچہ جس انداز سے میں نے بات بیان کی ہے، ان حضرات کی کتابوں میں اس طرز پر نہیں ہے۔ ہم نے اپنی مشرقی اصطلاحات کے قالب میں بیان کی ہے، لیکن بات یہی ہے اور ڈور کہیم کے کلام سے مجموعی طور پر جو بات مخلوقی ہے وہ بھی ہے کہ اس کا انحراف اسی بات پر ہے، لیکن ڈور کہیم ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے کچھ اور مسائل کی رو سے اس نظریے کا اظہار کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے اور اس سے پہلے ماہرین نے جو گزشتہ ابتدائی قبائل کا مطالعہ کیا، وہ قبائل کہ جو بالکل ابتدائی

تھے ویسے ہی قائل کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان جیسے قائل ہمارے زمانے میں اٹھا رہوں صدی تک موجود رہے ہیں اور شاید اب بھی موجود ہوں، یعنی انہوں نے بزعم خود جو ابتدائی انسانوں کے ادیان کا مطالعہ کیا۔ اس کے مطابق آپ ان کی کتابوں میں دیکھتے کہ وہ لکھتے ہیں اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کے ابتدائی ترین حالات میں بھی ایک طرح کی عبادت موجود رہی ہے۔ مظاہر طبیعت (Nature) کی پرستش البتہ انہیں ایک طرح کا قدس دینے کے ساتھ مثلاً کہتے ہیں کہ بعض غاروں میں ایسے آثار مثلاً ایسے پتھر ہیں اور سجدہ گاہوں اور تسبیحوں کی مانند چیزوں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی انسان ان کے لئے ایک طرح کے قدس کا قائل رہا ہے، انہیں چوتھا تھا اور ان کے لئے غیر معمولی احترام کا قائل تھا۔ اس سلسلے میں کہ کیا کوئی دو طرح کا مذہب تھا یا ایک ہی طرح کا؟ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دو چیزوں ہیں۔ ایک اور بات جو انہوں نے ابتدائی اقوام کے بارے میں کہی ہے وہ ”توتم“ (Totem) اور توتم پرستی (Totemism) ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ گزشتہ ابتدائی اقوام اور بعض ہمارے زمانے کے نزدیک کی اقوام بھی ایک طرح کے حیوان کی پوجا کرتی رہی ہیں، کیونکہ ان کا ایک اعتقاد یہ تھا کہ وہ خود اور یہ حیوان ایک ہی نسل سے ہیں۔ حیوان سے انسان کے وجود میں آنے کا عقیدہ کہ جس کی سائنسی صورت ڈارو نزم (Darwanism) ہے، کی غیر سائنسی صورت پہلی قوموں میں رہی ہے۔ مثلاً کسی قوم نے سمجھا کہ وہ گائے کی اولاد یا نسل ہے، لہذا ان کا نظریہ یہ ہے کہ گائے پرستی کا سرچشمہ اور ہندوستان میں گائے

کا تقدس اسی وجہ سے ہے کہ بہت قدیم ہندی اقوام کا توتم گائے ہے، البتہ اس میں بعدازال تبدیلی پیدا ہوئی اور وہ افکار ختم ہو گئے، لیکن گائے کا تقدس باقی ہے۔ یا اس طرح بعض نے فلاں پر ندہ کو اپنا توتم سمجھا (توتم ازم) (Totemism) بعض قدیم قبائل اپنی نسل کی بنیاد کسی نہ کسی حیوان یا درخت سے منسوب کرتے تھے اور جس حیوان سے اپنے آپ کو منسوب سمجھتے تھے اس حیوان یا درخت کی پوجا کرتے جس سے اپنے آپ کو منسوب کرتے، مثال کے طور پر ہندوؤں میں گاؤ (پرسی کی رسم) یا اس طرح بعض نے فلاں پر ندے کو اپنا توتم سمجھا۔

یہ فکر لوگوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ہم فلاں حیوان کی نسل سے ہیں، پھر وہ اس حیوان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اس حیوان کے تقدس اور غیر معمولی طاقت کے قابل ہو جاتے ہیں، اس حیوان کو قوم و قبیلہ کا محافظ سمجھنے لگتے ہیں اور ایسے ہی عقائد اپنائیتے ہیں؟

اس امر کے استدلال میں کہتے ہیں کہ ڈور کہیم کا نظریہ تھا کہ یہ وہی انسانوں کی روح اجتماعی کا ظہور ہے۔ اس اعتبار سے کہ چونکہ واقعاً ہر انسان اپنے اندر دو ”میں“ محسوس کرتا ہے، ایک ”میں“ اس جہت سے کہ میں زید بن عمر وہوں، یہ وہ ”میں“ ہے کہ جس کے مقابلے میں دوسرے فرد کا ”میں“ ہوتا ہے۔ یہ میرا مال ہے نہ کہ تیرا اور دوسری ”میں“ کہ جو اجتماعی ہے (مثلاً ہم کہ جو ایرانی ہیں، ہمارے لئے ”ایرانی میں“ ایک مشترک ”میں“ ہے) ہاں چونکہ ایسا ہے، یہ قبائل کے جو اس حیوان کی پوجا کرتے رہے ہیں، درحقیقت اجتماع کو پوجتے رہے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اس قبیلے کے سب لوگ اس کی اولاد ہیں، بعد میں اگر اس

کی پرستش کرتے تھے تو یہ فقط اس اعتبار سے نہ تھا کہ ہمارا نسب اس تک پہنچتا ہے بلکہ اس لئے بھی کہ وہ اس معاشرے کا مظہر ہے، یوں درحقیقت وہ اپنے ہی اجتماع "سماج" کی پرستش پر عمل پیرا تھے۔

اب وہ شکل کہ جو بلند تر ہے اور زیادہ جدید (Modern) ہے، جس میں ڈو رکھیم کی باتوں ہی کی تقلید کی گئی ہے، یہی ہے کہ جو مقالہ نگار نے بیان کیا ہے۔ اس نے خود پرستی وغیرہ کی بات نہیں کی، اس نے وہی پہلا حصہ بیان کیا ہے کہ جو میں عرض کر چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک طرح کی "خود بیگانگی سے واپسی" ہے (خود بیگانگی یعنی اپنی ذات کو اجنبی سمجھنا)، انسان میں درحقیقت دو "خود" موجود ہیں، ایک انفرادی "خود" اور دوسرا اجتماعی "خود"۔ انسان اپنے بہت سارے کام اجتماعی "خود" اور "میں" کے لحاظ سے کرتا ہے، مثال کے طور پر انسان کسی جگہ اشار کرتا ہے، آپ ایثار کا یہ معنی کرتے ہیں کہ یہ غیر کو اپنے پر ترجیح دینے سے عبارت ہے، پھر آپ اس سلسلے میں دلائل پیش کرتے اور تجویز کرتے ہیں کہ انسان کو فنظر تا اپنے لئے کام کرنا چاہئے۔ انسان کے اندر کیا احساس ہے کہ دوسرے کو اپنے آپ پر مقدم کرنے لگتا ہے؟ یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ جو منطقی محسوس نہیں ہوتا، لیکن بہر حال انسان ایسا کرتا ہے اور ایسا کرنے کو اپنی ذات کے لئے کے جانے والے کام سے بر ترجیح سمجھتا ہے اور اسے ایک مقدس کام خیال کرتا ہے۔

کہتا ہے کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ ایثار کو سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کو اپنے پر ترجیح دینے سے عبارت ہے، بلکہ ایثار کرنے والا خود ہی کو خود پر مقدم کر رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے دو "خود" ہیں، ایک اجتماعی اور دوسرا انفرادی۔ اب یہاں

دوسرے خود نے ظہور کیا ہے، لہذا خود ہی نے خود کے لئے کام کیا ہے، لیکن انفرادی خود کے لئے نہیں، بلکہ اجتماعی خود کیلئے۔ چنانچہ اخلاق کی بھی اس صورت میں توجیہہ ہو جاتی ہے، قومیت اور قوم پرستی کا احساس اور قوم و ملت کے لئے ایثار اور معاشرے کے لئے قربانی کی بھی توجیہہ کی جاسکتی ہے۔ اس سے مراد دوسرے کے لئے کچھ کرنا نہیں، خود کے لئے کام کرنا ہے کہ جو اجتماعی خود ہے۔ مضمون نگار نے یہ "نکنگو" از خود گرنشنگی، "ایثار یا جاں ثماری" کے عنوان کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تعبیر خود اپنی ہے (دوسرا احباب سے خواہش ہے کہ وہ خود وقت نکالیں اور متعلقہ کتب میں جہاں بھی مفصل تر ہو ڈور کہیم کاظمیہ تلاش کریں اور اس مسئلے پر بھی تحقیق ہو تو اچھا ہے، اس جگہ سے تقریر کا کچھ حصہ ریکارڈ نہیں ہو سکا)، اپنی اجتماعی خود گنو بیٹھا ہے، اسے "غیر" سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ سے اسے جدا کر لیتا ہے۔ اپنے آپ میں دو "خود" محسوس کرتا ہے، انفرادی خود کہ جس میں "میں" ہے، "نفس" ہے، "خود" ہے، انفرادیت ہے اور ایک "میں" اور ہے کہ جس میں اجتماع ہے، معاشرہ ہے۔ پھر یوں وہ کام بھی دو طرح کا کرتا ہے، وہ کام کہ جو اجتماعی "میں" انجام دیتا ہے (اور وہ کام کہ جو انفرادی "میں" انجام دیتا ہے)، رفتہ رفتہ اس اجتماعی "میں" کو بھول جاتا ہے۔ بلاشبہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے اللہ کے بارے میں قرآن میں تعبیرات آئی ہیں کہ انسان درحقیقت اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اور نیچتا وہ خود کو بھی بھلا دیتا ہے، پھر خوبیوں کے ایک سلسلے پر اس کی نظر پڑتی ہے، خیال کرتا ہے کہ خود تو انفرادی خود ہی میں منحصر ہے۔ بعد ازاں جو کام اجتماعی "میں" کے ساتھ انجام دیتا ہے، ان کے لئے موضوع تلاش کرتا ہے، اب اس

موضوع کو اپنی ذات سے باہر فرض کر لیتا ہے، اسے ”ماوراء طبیعت“۔ ایک معلوی جہت سے ایسی بہت سی باتیں ایک عرفانی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

سالہا دل طلب جام جم ازمی کرد

آنچہ خود داشت زیگانہ تمنا می کرد

(دل جام جم کا برسوں تقاضا کئے رہا)

خود پاس تھا جو اس کی تمنا کئے رہا)

یہ بھی کہتا ہے کہ جناب ایہ وہی آپ کی خود ہے، وہی آپ کی اجتماعی خود ہے، ہاں البتہ آپ اسے کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ آپ اسے کھو بیٹھتے ہیں، اس لئے اب اسے اپنے غیر میں اور اپنے آپ سے باہر تلاش کر رہے ہیں اور یہ ہے ”از خود بیگانی“ (خود کو فراموش کر دینا یا بھلا دینا)، یعنی انسان اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھتا ہے، ”غیر“ کو ”خود“ کی جگہ سمجھتا ہے اور وہ غیر (ماوراء الطبیعہ ہے)۔

اب ان صاحب نے جو مختلف اقوال و آراء نقل کی ہیں، جب اس نظریے کو نقل کرتے ہیں تو زیادہ رد نہیں کرتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ البتہ یہ نظریہ بھی شکوک و شبہات اور اعتراضات سے خالی نہیں ہے، لہذا ذور کھیم کے پیروکاروں نے گویا اس کی اصلاح کر دی ہے (یعنی ذور کھیم کے پیروکاروں کا اصلاح شدہ نظریہ غلطیوں سے پاک ہے)۔ تقریباً یہ وو رائے ہے کہ جو خود ان صاحب نے انتخاب کی ہے اور اس سے انہوں نے نتیجہ بھی اخذ کیا ہے اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس نظریے کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ دین کی پیدائش کا سبب جہالت ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جہالت کے دور ہونے سے دین ختم ہو جاتا ہے۔

کیونکہ علت کے خاتمے سے معلول کا خاتمہ ہو جاتا ہے، حالانکہ عملاً ایسا نہیں ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ یہ نظریہ باطل ہے۔ وہ نظریہ کہ جو کہتا ہے کہ ”دین کی پیدائش کا سب طبعی قتوں کا خوف ہے“، اس کے مطابق جس دین طبعی قتوں سے انسان کا خوف ختم ہو جائے دین کو بھی ختم ہو جانا چاہئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً ایسا نہیں ہے اور دین ختم نہیں ہوتا، غربت، امارت اور طبقاتی اختلاف کی بھی یہی صورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی طبقات ختم ہو گئے ہیں اور مساوات قائم ہو گئی ہے، وہاں بھی دین ختم نہیں ہوتا، ایسے ممالک میں بھی یہ معرکہ اب بھی موجود ہے، جبکہ ان ممالک میں جہاں نام نہاد مساوات قائم ہو گئی ہے، پھر بھی وہ پریشان ہیں کہ دین کے خلاف پیکار کیسے کی جائے؟ پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز جوانوں کا دین کی طرف رہنا اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک خود رو سیوں کے بقول روس میں بھی۔ لیکن اگر اس نظریے کو منتخب کریں تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک ایسا اصول ہے جو بہیشہ انسان کے ساتھ ہے۔ مذہب کی بنیاد یہی ہے اور اسی دلیل کی بناء پر یہ انسانی معاشرے سے ختم نہیں ہوگا، لہذا یہ وہ واحد نظریہ ہے کہ جو مذہب کے لئے کسی ماورائی والی بنیاد کا قائل نہیں اور اس کے باوجود اس امر کا اعتراض کرتا ہے کہ مذہب ختم ہونے والی چیز نہیں، ایسی بات کی جاتی ہے اور یہ بھی ایک بے بنیاد بات ہے۔

### ڈور کہیم کے نظریے کا تقيیدی جائزہ

اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ ایک حقیقی اکائی ہے، نہ کہ

اعتباری۔ ”تفسیر المیز ان“، میں بھی اور مختلف جگہوں پر اس امر پر گفتگو کی گئی ہے کہ معاشرہ ایک وحدت رکھتا ہے اور اپنی ایک مخصوص انداز زندگی کا حامل ہے اور چونکہ اس کی اپنی ایک وحدت اور مخصوص حیات ہے لہذا اس کی ایک موت بھی ہے۔ اس میں قوت ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے، ایک مشترک انجام ہوتا ہے، وغیرہ۔ ایک کتاب پر کہ جو حال ہی میں میں نے ”قیام و انقلاب مہدی علیہ السلام از دیدگاه فلسفہ تاریخ“، (امام زمانہ کے قیام کے بارے میں فلسفہ تاریخ کا نظریہ) کے نام سے شائع کیا ہے، میں نے کچھ اس مسئلے کی طرف مختلف مقامات پر اشارہ کیا ہے۔ تفصیل اس لئے نہیں دی، چونکہ یہ چھوٹا سا کتاب پچھے ہے وہاں بھی میں نے حاشیے میں تفسیر المیز ان کی طرف رجوع کرنے کو کہا ہے۔ قرآن میں اس طرح کی تعبیرات ہیں:

لَكُلَّ أُمَّةٍ أَحْلٌ، إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (یوسف: ۲۹)

”ہرامت کے لئے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔“

قرآن بنیادی طور پر اپنے کسی حکم کا پوری قوم پر اطلاق کرتا ہے، مثلاً بعض اقوام فلاں راستے پر تھیں اور ایسی تھیں اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، قرآنی نکتہ رگاہ سے مختلف اقوام کا اپنے لحاظ سے کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے، یعنی سب کا انجام ایک جیسا ”مشترک“ نہیں ہوتا، لہذا اگر کسی قوم کے درمیان کوئی

نیک گروہ موجود ہو تو وہ اپنی قوم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور اس مسئلہ کو اگر معنوں انداز میں لیں، اس کا بھی مصدق ایسا ہی ہو گا۔ اب چونکہ قوم اور ملت ایک ہی سمجھی جاتی ہے تو اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ معاشرہ یا نماج ایک حقیقی نہ کہ اعتباری اکائی ہے۔

مذکورہ نظریے کے بارے میں جو کچھ اب تک بیان کیا گیا، مکمل طور پر درست ہے، لیکن معاشرے کی ساخت و ترکیب کی کیا نوعیت ہے؟ ہم نے اس موضوع پر جو بحث کی تھی، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ انسانی معاشرے کی ساخت و ترکیب تیری نوعیت کی ہے، یعنی نہ تو اس کی اعتباری ترکیب ہے، کیونکہ واقعہ وہ ایک حقیقی ترکیب ہے اور نہ ہی اس کی کیمیائی یا طبیعی ترکیب ہے، کیونکہ ان دونوں ترکیبوں میں اکائیوں کا تشخص کسی صورت میں مستقل نہیں ہوتا اور یہ امن ناممکنات میں ہے جبکہ معاشرے میں افراد کے تشخص کا باقی رہتا، اس حد تک ناممکن نہیں ہے، جبکہ ڈور کہیں اور وہ لوگ جو اس حد تک اجتماعی اصلاح (یعنی معاشرے کو بنیاد سمجھتا ہے کہ فرد کو) کے نظریے کے قائل ہیں، کے مطابق ایسی صورت میں فرد کا معاشرے میں کوئی اپنا ذاتی تشخص باقی نہیں رہتا، یعنی کہ جب معاشرے کا کوئی فرد کسی ہات کو محسوس کرتا ہے یا یہ فرد کوئی ارادہ کرتا ہے، درحقیقت اس کا معاشرہ محسوس کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے۔ اس طرح سے فرد کی معاشرے میں کوئی مستقل حیثیت کا حامل نہیں ہوتا، جبکہ حقیقت میں معاشرہ اپنے مقام پر ایک حقیقی ترکیب ہونے کے ساتھ ساتھ، فرد بھی اپنے استقلال اور تشخص کو اپنے معاشرے میں ایک تعین حد تک حفظ رکھتا ہے، لہذا فرد اپنے معاشرے پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور

اسے تبدیل کر سکتا ہے (جگہ ان کے نظریے کے مطابق فرد جو معاشرے میں ایک مجبور محض ہوتا ہے، ناممکن تمام معاشرے کو تبدیل کر سکے)۔ کیمیائی یا طبیعی ترکیب میں کوئی ناممکن الوجود حصہ تمام ترکیب کو مکمل طور پر بدل سکے، لیکن فرد معاشرے کے دھارے کا رخ بدل سکتا ہے اور معاشرے کے بہاؤ کے خلاف سمت میں بھی حرکت کر سکتا ہے، اسی طرح اس کے بہاؤ میں تیزی بھی لاسکتا ہے اور سستی بھی اور ایک بہاؤ کو روک بھی سکتا ہے اور نتیجتاً تاریخ کے دھارے کو بھی بدل سکتا ہے اور یہ وہی مسئلہ ہے کہ انسان آزادی اور اختیارات کا حال ہے اور معاشرے کے جر کے مقابلے میں اپنی اس کی آزادی اور استقلال ایک حد تک محفوظ ہوتا ہے۔

### انسانی ”انا“، ”خودی“، ”میں“ کے کئی مدارج ہیں

یہ بات واضح رہے کہ اس شخص کے کہنے کے مطابق کہ انسان اپنے اندر دو ”انا میں“ رکھتا ہے، درست نہیں ہے، یعنی ایک افرادی اور ایک سماجی ”انا“۔ انسان کی افرادی انا معاشرے کے مطابق تشکیل پاتی ہے، اس کی پروش ہوتی ہے اور قالب میں ڈھلتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا استقلال، آزادی اور ذاتی تشخّص کی حد تک محفوظ رہتا ہے، لیکن انسان حقیقی طور پر دو ”اناوں“ کا حامل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جب وہ جانشیری اور جانشناشی کرتا ہے، وہ کوئی اور ہے اور جب اپنا ذاتی کام کرتا ہے تو کوئی اور ”انا“ ہوتی ہے، یعنی یہ کہ اس میں دو ”انا میں“ وجود رکھتی ہوں، جب ہم اپنا ذاتی کام کرتے ہیں تو ہم اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً برائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنی

ذات کو دوسرے پر مقدم کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں وہ ”انا“ کرتی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور جب ہم معاشرے کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، جانشنازی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو یہ سب کام ایک اور ”انا“ جو ہمارے اندر موجود ہے کرتی ہے۔

یہ کیسی باتیں ہیں! ان مسائل کہ ان لوگوں نے لینبارٹریوں میں ثابت نہیں کیا ہے، یہ تمام مسائل استدلالی ہیں۔ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد جب وہ کوئی اچھا اور نیکی کا کام انجام دیتا ہے وہ حقیقت یہ دونوں کام ایک ہی انسان انجام دیتا ہے، یعنی یہ دونوں فعل ایک ہی انسان سے سرزد ہوتے ہیں، لہذا یہ ایک ہی شخص کے مختلف درجے ہیں نہ کہ دو اشخاص کے۔ ایک ہی چیز کے کئی درجات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک درخت میں تباہوتا ہے اور اس کی کئی شاخیں اور پر کی جانب اور دائیں باسیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ حقیقت مجموعی طور پر ایک ہی چیز ہے، یقیناً ایک ہی کے مختلف درجات اور دو چیزوں کے درجات میں فرق ہے۔ نتیجتاً یہ بات واضح ہے کہ یہ تمام ”انا“ ایک ہی چیز کے مختلف درجات ہیں، نہ کہ کئی چیزوں کے۔

### قرآن کا نظریہ

یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو قرآنی مطلق کی گہراً سمجھ آتی ہے۔

قرآن حکیم ان تمام تر مسائل کو اٹھائے تعمیر کرتا ہے:

”نفس اهارہ“، ”نفس لوامہ“، ”نفس مطمئنہ“

فلسفی اس کو وحدت کثرت میں کثرت وحدت میں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس بات کا کوئی وجود نہیں کہ انسان متعدد ”انا وَ اُن“ کا حامل ہو، یعنی ایک کام نفس امارہ سے سرزد ہوتا ہوا اور دوسرا کام نفس لواحہ انجام دیتی ہو اور تیسرا کام نفس مطمئنہ۔ حقیقت یہ نہیں بلکہ انسان جب اپنی عقل کے خلاف چلتا ہے یا اس کی حکم عدوی کر رہا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر وہ انتہائی چھوٹے کام انجام دیتا ہے۔ ایسے موقع پر وہ نفس امارہ کے زیر فرمان ہوتا ہے، یعنی نفس امارہ جب بلند تر درجے پر ہوتی ہے تو اس کی بصارت تیز ہو جاتی ہے اور زیادہ ہوشمند ہو جاتی ہے، یہاں پر وہ نفس لواحہ بن جاتی ہے، یعنی وہ خود ہی خود کو ملامت و سرزنش کرنے لگتی ہے۔ اس امر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ان کے دوالگ الگ وجود ہوتے تو ملامت یا سرزنش بے معنی ہو جاتی ہے۔ اسی نفس نے برے فعل کا ارتکاب کیا، بعد میں اپنے آپ کو زیر عتاب قرار دیا (انسان جب بھی کسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے تو یہ بات اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ آخر کار قرآن اس کا حل پیش کر دیتا ہے)۔

اس طرح سے یہ نفس ایک وقت میں منصف، انصاف طلب اور ملزم بن جاتا ہے اور اپنے ہی خلاف فصلے سنا دیتا ہے، نفس کا محاسبہ اسے ہی کہتے ہیں:

لَا اقْسُمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اقْسُمُ بِالنَّفْسِ اللَّوْاْمَةِ

(قیامت: ۲۴)

”میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔“

یہ آیت روز قیامت کے باب میں آتی ہے، جس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کا

حساب کرے گا۔ اللہ نے انسان کو روح اور ضمیر کا ایک درجہ عطا کیا ہے، جس کے ذریعے انسان کا دنیا میں ہی حساب ہوتا رہتا ہے:

یا ایتها النفس المطمئنة ارجعني الی ربک (بقر ۲۷)

”اے نفس مطمئنا! اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا۔“

ان تمام دلائل سے واضح ہوتا ہے، جس انسان کا ایک ہی وجود ہے اور ایک ہی ذات ہے، یہ تمام درجات و مراحل طے کرتا ہے۔ ”نفس امارہ“، وہی ”نفس لواحہ“ ہے اور ”نفس لواحہ“، وہی ”نفس مطمئنة“ ہے، لیکن ان سب کے مدارج مختلف ہیں۔ اس کے مدارج میں توجہ آگاہی ”تذکر“، ”یادداہی“، ”صفای باطن“، ”حجا بول کا نہ ہونا اور ایمان و یقین کا زیادہ ہونا شامل ہے۔

### خلاصہ

ڈورکنیم کا نظریہ جو ایک معاشرہ شناسی یا ”معاشرتی آگاہی“ کا نظریہ ہے، ایک نفیات شناسی کا بھی نظریہ ہونے کے مدعا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، انسان دو جدا گانہ اور دو مستقل بالذات شخصیتوں کا حامل نہیں ہے، انسان میں ایک ہی ”انا“ ہے جو تمام متصاد کاموں کو بیک وقت انجام دیتی ہے، لہذا یہ بات کہ انسان میں دو ”انا“ کیسی ہیں، ایک ”انا“ اپنے آپ کو بھول گئی ہے اور وہ ”انا“ جو کام بعد میں انجام دیتی ہے وہ کوئی اور ”انا“ ہے اور جسے ذاتی انا کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے اور جس کا تعلق عالم ماوراء سے ہے، درست نہیں ہے۔ کسی بھی لحاظ سے اس شکل میں دو ”اناوں“ کا وجود نہیں ہے۔

ثانیاً اگر آپ کی بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو مذہبی لوگوں اور دیندار طبقے کا شمار آپ کے قول کے مطابق زیادہ اپنے آپ سے بیگانہ یعنی جو افراد اجتماعی روح یا جوہر سے غافل ہو چکے ہوں اور ان میں یہ روح مرچکی ہو اور ان میں اجتماعی اور سماجی احساس کم ہوتے، میں شمار ہونا چاہئے اور ایسے ہی لوگوں کو زیادہ دیندار اور مذہبی ہونا چاہئے، حالانکہ بات اس کے عکس ہے کیونکہ جو لوگ حقیقت میں مذہبی اور دیندار ہوتے ہیں، انہیں معاشرتی یا اجتماعی احساس دوسروں سے بدر جہا زیادہ ہوتا ہے۔ کیا حضرت علی علیہ السلام زیادہ دینی احساس رکھتے تھے یا معاویہ؟ کیا حضرت علی علیہ السلام زیادہ معاشرتی احساس نہیں رکھتے تھے کہ آپ فرماتے تھے اگر نیری مملکت کے کسی دور افتادہ حصے میں بھوکا ہوئے مجھے اس کا رنج اور دکھ ہوتا ہے۔ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی معاشرتی اور اجتماعی احساس کا حائل ہو سکتا ہے؟

### و حسبک داء ان تبیت ببطنة

وحو لک اکباد تحن الی القد (معجم البلاعه، خط ۲۵)

”تمہارے گرد پچھے لوگ شدید بھوک سے دوچار ہوں اور تم سیر ہو کر سو جاؤ!“

کیا امیر المؤمنین (علیٰ) جن کے فرمانیں ایسے ہوں، زیادہ معاشرتی احساس رکھتے تھے یا معاویہ؟

یہی لوگ جن میں معاشرتی احساس شدت کے ساتھ پایا جاتا ہوئے مذہبی اور دین دار ہوتے ہیں، چنانچہ جو لوگ اپنی سماجی ”لنا“ کو بھول چکے ہوں اور صرف

اپنی ذاتی انداز میں محصور ہو چکے ہوں، کس طرح دوسروں پر اپنی فوکیت ظاہر کرتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے جن لوگوں میں انسانی احساسات زیادہ ہوتے ہیں، وہی لوگ زیادہ مذہبی اور دیندار ہوتے ہیں۔ نتیجتاً وہ شخص جو دلیل پیش کر رہا ہے، اس کی خواہش دراصل یہ ہے کہ لادین افراد کو مزید مضبوط بنائے اور یہ وہ بات ہے جس کی بناء پر ان لادینی لوگوں نے رٹ لگا رکھی ہے، یعنی دین ختم ہوا، مذہب رخصت ہوا اور یہ دونوں رو بہ زوال ہیں اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے اور دنیا کے حالات سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین عنقریب رخصت ہو جائے گا، علم کی روشنی آنے کے بعد مذہب ختم ہو گیا، سماجی انصاف آنے کے بعد مذہب اضحاک کا شکار ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ دین و مذہب کے آثار سے ظاہر ہوتا ہے، ان کی باقی میں غلط ثابت ہو رہی ہیں، ان کے اندازے غلط ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دین موجود ہے اور یہ لوگ مطمئن رہیں، ختم ہونے والی چیز نہیں بلکہ باقی رہے گا۔ اب یہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین باقی ہے اور ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی بنیادی الہی نہیں۔ آخر میں یہ بات کرتے ہیں کہ نظریات عمومی طور پر اور دین یا مذہب بالخصوص سماجی زندگی کے بنیادی مظاہر ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور علم کی ترقی کے بعد دین و مذہب کا خاتمه ہو جائے گا، درحقیقت انہوں نے تو سماجی ساخت کو اور نہ ہی دینی نظریات کی مابہیت کو سمجھا ہے۔

یہ لوگ اس قسم کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان سے یہ کہتا چاہئے کہ اگر آپ کی بات درست ہے تو ڈور کہیم کی معاشرہ شناسی یا معاشرتی آگاہی کی ترقی کے ساتھ ساتھ دوسرے ادیان کا خاتمه ہو جانا چاہئے، کیونکہ ڈور کہیم کے کہنے کے

مطابق مذهب پر اعتقاد ایک قسم کی جہالت ہے اور یہی بات فویریا خ نے بھی کہی تھی، لیکن اتنے فرق کے ساتھ کہ وہ انسان کے لئے انفرادیت کا قائل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان فطرتاً خوبیوں اور برا بیوں کے ایک سلسلے کا حامل ہے اور چونکہ معاشرتی زندگی میں اپنے آپ کو بری سر شست میں زیادہ گرفتار پاتا ہے تو وہ اپنی پاک اور نیک سر شست کو اپنے آپ سے جدا کرتا ہے اور اسے ایک خیالی اور فرضی چیز تصور کرنے لگتا ہے۔

باب دهم

دین کی پیدائش کے بارے میں  
قرآنی نظریہ

متعدد نشتوں میں ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ مذہبی عمارات کے لحاظ سے انسان کے دین و مذہب کی طرف رجحان یادیں و مذہب کی پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات کیا ہیں؟ خاص طور پر ان حضرات کی باتوں کی روشنی میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جس نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ چند مفروضوں کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کی علمی لحاظ سے حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک مفروضے کی ہے۔

کسی ایسے نظریے کی حیثیت نہیں کہ جو ایک مفروضے کے بعد ثابت ہو چکا ہو۔ نظریے اور مفروضے میں فرق ہے، کبھی انسان کسی چیز کے بارے میں ایک فرض کرتا ہے یعنی اسے اس کا اختال ہوتا ہے، یہ اختال پہلے مرحلے میں ایک عنوان کے طور پر ہوتا ہے، تاکہ بعد ازاں ہم دیکھیں کہ کیا دلائل اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں، لیکن نظریہ جب ہوتا ہے کہ دلائل بھی اس کی تائید کریں، بذات خود مفروضوں کا مختلف ہونا اس امر پر دلیل ہے کہ یہ نظریہ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے بھی اپنی بات کی تائید میں کوئی دلیل ذکر نہیں کی، جس کا کہنا ہے کہ انسان اپنی ذات میں ایک طرح کی دوگانگی رکھتا ہے۔ ایک اس کا وجود عالی و متعالی ہے اور ایک وجود دنی و پست آہستہ آہستہ وہ اپنے عالی وجود سے غافل ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس کے لئے اپنے آپ میں ہوتا ہے، اسے اپنے سے غیر کی طرف نسبت دیتا ہے۔ اس نظریے کے حامل سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی حیثیت ایک مفروضے سے بڑھ کر کچھ نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دلیل اس کے برخلاف موجود ہے۔ ہماری ایک دلیل کہ

متعدد نشتوں میں ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ مذہبی عمرانیات کے لحاظ سے انسان کے دین و مذہب کی طرف رجحان یادیں و مذہب کی پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات کیا ہیں؟ خاص طور پر ان حضرات کی باتوں کی روشنی میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جس نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ چند مفروضوں کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کی علمی لحاظ سے حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک مفروضے کی ہے۔

کسی ایسے نظریے کی حیثیت نہیں کہ جو ایک مفروضے کے بعد ثابت ہو چکا ہو۔ نظریے اور مفروضے میں فرق ہے، کبھی انسان کسی چیز کے بارے میں ایک فرض کرتا ہے یعنی اس کا اختال ہوتا ہے یہ اختال پہلے مرحلے میں ایک عنوان کے طور پر ہوتا ہے تاکہ بعد ازاں ہم دیکھیں کہ کیا دلائل اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں، لیکن نظریہ جب ہوتا ہے کہ دلائل بھی اس کی تائید کریں بذات خود مفروضوں کا مختلف ہونا اس امر پر دلیل ہے کہ یہ نظریہ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے بھی اپنی بات کی تائید میں کوئی دلیل ذکر نہیں کی؛ جس کا یہ کہنا ہے کہ انسان اپنی ذات میں ایک طرح کی دو گانگی رکھتا ہے۔ ایک اس کا وجود عالی و متعالی ہے اور ایک وجود دنی و پست آہستہ آہستہ وہ اپنے عالی وجود سے غافل ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس کے لئے اپنے آپ میں ہوتا ہے اسے اپنے سے غیر کی طرف نسبت دیتا ہے۔ اس نظریے کے حامل سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی حیثیت ایک مفروضے سے بڑھ کر کچھ نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دلیل اس کے برخلاف موجود ہے۔ ہماری ایک دلیل کہ

جس سے ہم ہمیشہ استثناء کرتے ہیں، یہ ہے کہ دین کے طرفدار و حامی، یعنی دین کی طرف رہجان رکھنے والے کن گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا یا ایسے لوگ ہیں، طبیعاً ابتدائی ساخت، نہ ساخت آپ اس کا جو بھی نام رکھیں، کے لحاظ سے نحیف و شریف ہیں؟ یا کیا ایسے لوگ کہ جو اپنی بزرگی اور مقام کا احساس رکھتے ہیں، وہ دین کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، صرف وہ لوگ جو اپنی حیثیت و مقام گنوچکے ہیں اور فراموش کر چکے ہیں، دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ اعتراض بھی ایک بات ہی ہے کہ آپ جنہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ”مومن“ ہیں۔ یہ اس قدر پاک لوگ ہیں کہ دین نے انہیں یوں پاکیزہ نہیں بنایا، یہ تو پہلے ہی پاک تھے، بعد میں دین کی طرف آئے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح سے اعتراض کرے تو قبولیت سے کچھ نزدیک تر ہے، اس صورت کے مقابلے میں کہ کہا جائے کہ جو افراد پاکیزگی، مقام و شرافت اور دیگر تمام خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں فراموش کر دیتے ہیں اور چونکہ انہیں گواہیتھے ہیں، ان بزرگیوں اور خوبیوں کو کسی اور طرف منسوب کر دیتے کہ جسے خدا کہتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ قرآن کے لطیف نکات کیسے ہیں، ایک مسئلہ زیر سوال ہے۔ زیادہ تر کہتے ہیں کہ قرآن ایسا کیوں کہتا ہے کہ

**ذلک الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين**

”یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں،

متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔“

اور ایسی آیات قرآن میں بے شمار ہیں، یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔

سوال کیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر فرض کیا گیا ہے، پہلے لوگ متقی ہیں، بعد میں قرآن متقیوں کو ہدایت کرتا ہے۔

یا سورہ مبارکہ ”لیں“ میں ہے:

یس. والقرآن الحكيم. انک لمن المرسلين. علی  
صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لشذره فوما  
ما انذر آبائو هم فهم عافلون. انما تذر من اتبع  
الذکر و حشی الرحمن بالغیب (لیں ۱۱)

میرا مقصود آخری آیت ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے:

”تم تو بس اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت مانے اور بے  
دیکھے خدا کا خوف رکھے۔“

میرا خیال ہے کہ تفسیر المیز ان میں بھی یہ بات ہے کہ انسانوں کے لئے دو طرح کی ہدایت ہے، ہدایت فطری اور ہدایت اکتسابی۔ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ جب تک کسی کی ہدایت فطری کی قدریل روشن نہ ہو تو ہدایت اکتسابی کا اس کے لئے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب درحقیقت یہی ہے کہ جب تک کسی شخص کی فطری انسانیت موجود نہ ہو (انبیاء کی تعلیمات کا اس کیلئے) کوئی فائدہ نہیں، یعنی انبیاء کی تعلیمات سُنّخ شدہ افراد اور اپنی انسانیت گنوائے بیٹھے لوگوں کے لئے مفید نہیں۔ یہ بات ان کے نظریے کے بالکل بر عکس ہے، تخبرے اور واقعیت نے بھی یہی بات ثابت کی ہے۔ مثلاً سورہ ماعون سے میں نے اخذ کیا:

ار ایت الذی یکذب بالدین (الماعون ۱)

”کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جو دین کو جھلاتا ہے۔“

پہلے تو تعجب کی صورت میں بات کی گئی ہے کہ انسان، انسان ہو اور دین کو جھلاتے؟ اس کے بعد اس کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ چونکہ یہ شخص انسانیت سے نکل گیا ہے، اس لئے دین کی تکذیب کرتا ہے:

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيمَ (الْأَعْوَنُ، ٢)

”یہی وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھنکارتا ہے۔“

یعنی یہ امر انسانیت کی شرط ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو یتیم سے ہمدردی ہو:

وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ (الْأَعْوَنُ، ٣)

”یہی وہ شخص ہے کہ جو مسکین کو کھلانے اور بھوکوں کو سیر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔“

اس میں تاکید و ترغیب نہیں ہے، یعنی اس نے پہلے اپنی انسانیت گناہی ہے اور جو شخص اپنی انسانیت گناہ بیٹھے لازمی طور پر اپنی اسلامیت بھی پہلے ہی گناہ بیٹھا ہے، یعنی اب وہ ایک معمول کا انسان نہیں ہے، ایک مسخ شدہ انسان ہے۔ ہم اصل موضوع سے ایک بار پھر دور ہو گئے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی باتیں نہ صرف بے دلیل مفروضے ہیں بلکہ ایسے مفروضے ہیں کہ دلیل ہمیشہ ان کے خلاف ہوتی ہے۔ کمیونٹیوں کا مفروضہ کہ ”دین استعماری طبقے کی ایجاد ہے“، مکمل طور پر تصورات پر بنی ایک مفروضہ ہے۔ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، تاریخی اور موجودہ حقائق اس کی مکمل طور پر نفی کرتے ہیں اور سب

دلیلیں اس کے خلاف ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی اساس اور بنیاد کے بارے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ کبھی ہم دین کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کی طرف سے عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے؟ واضح ہے کہ اس کی اساس اور سرچشمہ وحی ہے لیکن کیا اس وحی کی اساس اور سرچشمہ بھی انسانوں کے اندر موجود ہے؟ جبکہ یہ وحی کچھ معارف کو معارف دین کے طور پر پیش کرتی ہے، اخلاق اور نظام تربیت کو پیش کرتی ہے، قانون اور قاعدے کو پیش کرتی ہے اور مجموع طور پر یہی وحی انسانی فکر و عمل کے ایک راستے کا تعین کرتی ہے۔

قرآن کی خصوصی تعلیمات سے قطع نظریہ امر طبیعت دین کے خلاف نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ دین فقط ایک الٰہی چیز ہے جسے اللہ نے وحی کے ذریعے انسان کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے پیش کئے جانے سے پہلے انسان دین اور لادینی کے بارے میں ایک لاپرواہی اور لاتعلقی کی حالت میں تھا۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ اس صورت میں انسان کی مثال ایک دیوار کی سی ہو جائے گی جیسے ایک سفید صفحہ اور ایک کورے کا نذر کا تعلق ان نقوش سے ہوتا ہے کہ جو اس پر کھینچ جاتے ہیں، اس لحاظ سے کہ اس کاغذ کی حالت ایک قابلیت و امکان کی ہے، گویا وہ لاتعلق ہوتا ہے۔ اس کاغذ میں یہ استعداد اور قابلیت ہے کہ کچھ اس پر لکھا جائے یا اس پر کچھ نہ لکھا جائے، یعنی لکھا جانا اور نہ لکھا جانا اس کے لئے برابر ہے۔ اب جو کچھ دیکھا جائے چاہے وہ قرآنی آیت یا خلاف قرآن کوئی چیز ہو کاغذ کے لئے مساوی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ انسان اپنی سرشت کے اعتبار

دلیلیں اس کے خلاف ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی اساس اور بنیاد کے بارے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ کبھی ہم دین کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کی طرف سے عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے؟ واضح ہے کہ اس کی اساس اور سرچشمہ وحی ہے لیکن کیا اس وحی کی اساس اور سرچشمہ بھی انسانوں کے اندر موجود ہے؟ جبکہ یہ وحی کچھ معارف کو معارف دین کے طور پر پیش کرتی ہے، اخلاق اور نظام تربیت کو پیش کرتی ہے، قانون اور قاعدے کو پیش کرتی ہے اور مجموعی طور پر یہی وحی انسانی فکر و عمل کے ایک راستے کا تعین کرتی ہے۔

قرآن کی خصوصی تعلیمات سے قطع نظریہ امر طبیعت دین کے خلاف نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ دین فقط ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے وحی کے ذریعے انسان کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے پیش کئے جانے سے پہلے انسان دین اور لادینی کے بارے میں ایک لاپرواہی اور لاتعلقی کی حالت میں تھا۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ اس صورت میں انسان کی مثال ایک دیوار کی سی ہو جائے گی، جیسے ایک سفید صفحہ اور ایک کورے کاغذ کا تعلق ان نقش سے ہوتا ہے کہ جو اس پر کھینچے جاتے ہیں، اس لحاظ سے کہ اس کاغذ کی حالت ایک قابلیت و امکان کی ہے، گویا وہ لاتعلق ہوتا ہے۔ اس کاغذ میں یہ استعداد اور قابلیت ہے کہ کچھ اس پر لکھا جائے یا اس پر کچھ نہ لکھا جائے، یعنی لکھا جانا اور نہ لکھا جانا اس کے لئے برابر ہے۔ اب جو کچھ دیکھا جانے چاہے وہ قرآنی آیت یا خلاف قرآن کوئی چیز ہو کاغذ کے لئے مساوی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ انسان اپنی سرشت کے اعتبار

سے دین کے لئے صرف ایک امکانی حالت اور ایک لائقی کی کیفیت کا حامل ہے۔

اللہ نے صرف انبیاءؐ کو مبعوث کیا، وہ آئے اور انہوں نے اس دین کی لوگوں کو دعوت دی کہ جس کے بارے میں وہ لائقی کی کیفیت کے حامل تھے، اگر کوئی یہ بات کرے تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ منکر ادیان ہو گیا ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔

لیکن دوسرا نظر یہ ہے کہ انبیاءؐ نے جو کچھ پیش کیا ہے، ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں انسان لائقی کی حالت میں تھا اور ایک مساوی کیفیت کا حامل تھا، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی آرزو انسان کی سرشت اور ذات کے اندر موجود ہے یعنی اس کی طلب، اس کی خواہش اور اس کی جستجو انسانی طبیعت اور سرشت میں موجود ہے۔ اس صورت میں انبیاءؐ کی حیثیت ایک باغبان کی سی ہو جائے گی کہ جو کسی پھول یا پودے کی پروردش کرتا ہے کہ خود اس پودے یا پھول میں ایک صلاحیت، یعنی ایک خاص چیز کی طلب موجود ہے۔ اگر خوبانی کی گھٹلی کو زمین میں بویا جائے تو یہ کھجور خوبانی یا آلو بخارا بننے سے لائق نہیں ہوتی۔ باغبان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آ کر خوبانی یا آلو بخارا یا کھجور بنانے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کچھ چاہے بنانے۔

انسان کے اندر بھی خواہش اور آرزو اور طلب کے معنی میں ایک فطرت موجود ہے، انبیاءؐ کی بعض ایسی ضرورت کا جواب ہے کہ جو انسانی سرشت میں

موجود ہے۔ درحقیقت انسان اپنی سرشنست کے لحاظ سے جس چیز کی جتوں میں تھا اور ہے اور رہے گا، وہی چیز انبیاء نے اس کے سامنے پیش کر دی ہے اور پیش کرتے ہیں، یہی فطرت کا معنی ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معارف اسلامی میں مسئلہ فطرت کی طرف کوئی صراحة یا اشارہ موجود ہے یا نہیں؟ اس میں شک نہیں کہ اسلام میں فطرت کا مسئلہ بڑے شد و مد سے ذکر کیا گیا ہے، البتہ فطرت کی تعبیر میں ممکن ہے کہ علماء کے استنباطات مختلف اور متعدد ہوں، مگر اس اصل نظریے میں علماء اسلام میں چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، کوئی اختلاف نہیں کہ فطرت کا کہ جسے فطرت دین، فطرت اسلامیت، فطرت توحید، غرض مختلف ناموں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، انسانی سرشنست میں موجود نہیں۔ اب ہم اس کی طرف کچھ اشارہ کرتے ہیں:

ان میں ہے ایک وہی سورہ مبارکہ روم کی مشہور آیت فطرت ہے:

فاقم و جهک للدين حنیفا

”اینار خ مضبوطی سے دین کی طرف کر لے۔“

یعنی دین کو مضبوط رکھ کر اسے پائیدار رکھ، اپنی توجہ اس کی طرف رکھ ”حنیف“ یعنی حنیف ہونے کی حالت میں ہم کہہ چکے ہیں کہ شاید ”حنیف“ کا نزدیک ترین ترجمہ ہے، ”حق کی طرف رجحان رکھنے والا“، یعنی اس حالت میں کہ تو مائل بحق اور مائل بحقیقت ہو:

فطرة الله التي فطر الناس عليها

یعنی تجھے فطرت الہی عطا کی گئی ہے، یعنی یہی دین تجھے دیا گیا ہے کہ جو

فطرت الٰہی ہے۔ یہ خلقت (ہم کہہ چکے ہیں کہ فطرت سے مراد ایک خاص طرح کی خلقت ہے) یہ دین تخلیق کی وہ خاص نوعیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو جس پر پیدا کیا ہے:

لا تبدیل لخلق الله

اس میں ثبات اور استقلال ہے اور تغیر اور تبدل سے بالاتر ہے، انسانی سرشت کا حصہ ہے، جب تک انسان دنیا میں ہے اور جب تک انسان، انسان ہے، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اسی سرشت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی سرشت کو نہیں بدلا جاسکتا، اسے کسی دوسرا چیز میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا:

ذلک الدين القيم (روم ۳۰)

”یہ ہے صحیح دین، غیر معمولی طور پر درست اور مستقیم۔“

یہ آیت کمال صراحة سے دین کو سب انسانوں کے لئے ”فطرة الله“، قرار دے رہی ہے۔ اگر ضروری ہوا تو ہم بعد ازاں اس مسئلے پر مزید گفتگو کریں گے۔

اسی طرح سورہ مبارکہ پیشین میں فرمایا گیا ہے:

الْمَعْهُدُ إِلَيْكُمْ يَا بْنَى آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَّ إِنْ أَعْبُدُوْتُمْ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَّ

لَقَدْ أَصْلَى مِنْكُمْ جَبَلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

(پیشین ۷۶-۷۴)

ان آیات میں ایک عہد و پیمان ہے: اے بنی آدم! اے اولاد آدم

(یہاں کسی ایک شخص، دو شخص، ایک امت یا دو امتوں کا ذکر نہیں) کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ کہتا ہے کہ کیا میں نے اور تم نے پہلے ایک دوسرے سے عہد نہیں کیا ہے اور پیمان نہیں باندھا کہ تم شیطان کی پوجانہ کرو گے؟ یہاں شیطان کی پستش سے مراد یہ نہیں کہ ایک محرب میں چلے جائیں، شیطان کا مجسمہ ذیث بنائیں بلکہ مراد شیطان کی پیروی ہے ”وَ انْ اعْبُدُونِي“ ہم نے ایک دوسرے سے پیمان باندھا ہے (سمجھو تو کیا ہے) کہ تم شیطان کی پوجانہ کرو گے بلکہ میری عبادت کرو گے۔ ”هذا صراطٌ مستقیم“ تمہارے لئے راستہ کہ جو تمہیں کمال و سعادت تک پہنچاوے یہی ہے۔

ایک اور آیت بھی ہے کہ جو ”آیہ ذر“ کے نام سے مشہور ہے:  
 واذ اخذر بک من بني آدم من ظہور هم ذريتهم و  
 الشهد هم على انفسهم السنت بربكم قالوا بلى  
 شهدنا ان تقولوا يوم القيمة انا كنا عن هذا غافلين او  
 تقولوا انما اشرك آباءونا من قبل و كنا ذرية من  
 بعد هم افتهلكنا بما فعل المبطلون (اعراف ۱۷۳، ۱۷۴)

یہ ایک عجیب آیت ہے، اس کی تفصیل رہنے دیجئے۔ دو تین حصے دیگر بیان کرلوں، پھر اس آیت کی مفصل ترقییر کروں گا۔ کچھ اور بھی آیتیں قرآن میں ہیں، لیکن شاید اتنی صراحة نہ ہو، اگرچہ ان میں سے بعض کی صراحة کم بھی نہیں ہے، جیسے یہ آیت:

اَفِي اللَّهِ شَكْ فاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (ابراهیم ۱۰)

”آیا اللہ میں شک ہے؟ وہ اللہ کہ جو آسمانوں اور زمین کا  
خالق ہے۔“

یعنی انسان اور اللہ کے رابطے کی صورت ایسی ہے کہ شک و تردید کی گنجائش ہی نہیں۔ گویا مسئلہ استدلالی و نظری نہیں کہ کوئی ایک نظریہ اپنالے اور کوئی دوسرا، بلکہ مسئلہ اگر اپنی صحیح صورت میں پیش کیا جائے تو کوئی شخص شک نہ کرنے لہذا اگر کوئی شک کرے تو مسئلہ اس کے لئے صحیح صورت میں سامنے ہی نہیں آیا اُسے دراصل غیر اللہ کے بارے میں شک ہوا ہے کہ جس کا نام اس نے ”اللہ“ رکھ دیا ہے یا پھر اسے شک نہیں ہے بلکہ عناواد اور ہدایت دھرمی سے کام لے رہا ہے۔ اس آیت کو بھی ہم آیات فطرت میں سے شمار کر سکتے ہیں۔

ایک اور بھی آیت ہے کہ جس کے بارے میں کچھ زیادہ ہے۔ اس آیت میں مخصوص کونیات اور اشارے کی صورت میں "Symbolic" بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

اَنَا عَرَضْتُ الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ

فَإِنْ اَنْ يَحْمِلْنَاهَا وَالشَّفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمِلْنَاهَا الْاِنْسَانُ

اَنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (ازاب ۲۷)

”ہم نے وہ امانت (کہ جس کا قرآن نام نہیں لیتا) سب

موجودات کو پیش کی۔ آسمان، زمین، پھاڑ (گویا بڑی بڑی

چیزوں کے نام لیتا ہے، مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو پیش کیا) سب

نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا (ایک موجود نے

اسے اٹھانا قول کر لیا) اور وہ انسان تھا (اس کے بعد فرماتا ہے) یہ انسان ظلوم و جھوٹ تھا۔“

اس آیت کے بارے میں کافی بحث ہے۔ اب اس بارے میں بھی بحث ہے کہ کیا یہ آیت مسئلہ فطرت سے مربوط ہے یا نہیں؟ مجھے بس اتنا ہی اشارہ کرنا تھا۔

قرآن میں کچھ اور بھی آیات کہ جو اس قدر صریح نہیں ہیں، لیکن بعض مفسرین نے ان کے لفاظ سے تفسیر کی ہے، جیسے یہ آیت:

ولَئِن سَلَّمُهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ

الله (لقان: ۲۰)

”اگر آپ ان لوگوں (کافروں اور مشرکوں) سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو کہیں گے اللہ نے۔“

اس آیت کی دو طرح سے تعبیر کی گئی ہے، بعض کہتے ہیں کہ مقصود قرآن یہ ہے کہ خالقیت الہی پر ان کا کامل ایمان ہے، یعنی یہ اللہ کو خالق سمجھتے ہیں اور بتوں کو خالق اور خالقیت الہی میں شریک نہیں سمجھتے۔ خرابی ان میں یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ کو خالق مطلق جانتے ہیں، پھر بھی عبادت میں غیر خالق قرار دیتے ہیں، اگر ایسا ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا متعارف اور مروج اعتقاد تھا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پست عقائد کے اعتبار سے نہیں کہ شرک پر ان کا اعتقاد ہے بلکہ اس

اسے اٹھانا قبول کر لیا) اور وہ انسان تھا (اس کے بعد فرماتا ہے) یہ انسان ظلوں و جہول تھا۔“

اس آیت کے بارے میں کافی بحث ہے۔ اب اس بارے میں بھی بحث ہے کہ کیا یہ آیت مسئلہ نظرت سے مریوط ہے یا نہیں؟ مجھے بس اتنا ہی اشارہ کرنا تھا۔

قرآن میں کچھ اور بھی آیات کہ جو اس قدر صریح نہیں ہیں، لیکن بعض مفسرین نے ان کے لحاظ سے تفسیر کی ہے، جیسے یہ آیت:

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ  
الله (لقمان: ۲۰)

”اگر آپ ان لوگوں (کافروں اور مشرکوں) سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو کہیں گے اللہ نے۔“

اس آیت کی دو طرح سے تعبیر کی گئی ہے، بعض کہتے ہیں کہ مقصود قرآن یہ ہے کہ خالقیت الہی پر ان کا کامل ایمان ہے، یعنی یہ اللہ کو خالق سمجھتے ہیں اور بتوں کو خالق اور خالقیت الہی میں شریک نہیں سمجھتے۔ خرابی ان میں یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ کو خالق مطلق جانتے ہیں، پھر بھی عبادت میں غیر خالق قرار دیتے ہیں، اگر ایسا ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا متعارف اور مروج اعتقاد تھا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پست عقائد کے اعتبار سے نہیں کہ شرک پر ان کا اعتقاد ہے بلکہ اس

اے اٹھانا قبول کر لیا) اور وہ انسان تھا (اس کے بعد فرماتا ہے) یہ انسان ظلوم و جہول تھا۔“

اس آیت کے بارے میں کافی بحث ہے۔ اب اس بارے میں بھی بحث ہے کہ کیا یہ آیت مسئلہ فطرت سے مربوط ہے یا نہیں؟ مجھے بس اتنا ہی اشارہ کرنا تھا۔

قرآن میں کچھ اور بھی آیات کہ جو اس قدر صریح نہیں ہیں، لیکن بعض مفسرین نے ان کے لحاظ سے تفسیر کی ہے جیسے یہ آیت:

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ

الله (لقمان: ۲۰)

”اگر آپ ان لوگوں (کافروں اور مشرکوں) سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو کہیں گے اللہ نے۔“

اس آیت کی دو طرح سے تعبیر کی گئی ہے، بعض کہتے ہیں کہ مقصود قرآن یہ ہے کہ خالقیت الہی پر ان کا کامل ایمان ہے، یعنی یہ اللہ کو خالق سمجھتے ہیں اور بتولوں کو خالق اور خالقیت الہی میں شریک نہیں سمجھتے۔ خرابی ان میں یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ کو خالق مطلق جانتے ہیں، پھر بھی عبادت میں غیر خالق قرار دیتے ہیں، اگر ایسا ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا متعارف اور مروج اعتقاد تھا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پست عقائد کے اعتبار سے نہیں کہ شرک پر ان کا اعتقاد ہے بلکہ اس

سلسلے میں انہوں نے غور تک نہیں کیا، لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ خالق کون ہے؟ تو ان کی فطرت جواب دے گی، ”اللہ“۔

یہ آیات بھی اس حوالے سے ذکر کی گئی ہیں، لیکن فی الحال آیات کا ذکر رہنے دیتے ہیں۔ تین جملے میں آپ کے لئے نقل کرتا ہوں، ایک حضرت رسول اللہ سے، ایک شیخ البلاغہ سے اور ایک صحیفہ سجادیہ سے۔ البتہ ان کا ذکر میں نہونے کے طور پر کر رہا ہوں، وگرنہ فطرت کے بارے میں ہمارے پاس ان سے زیادہ احادیث و روایات ہیں۔ رسول اللہ سے منقول حدیث معروف (اس حدیث کو زیادہ تر اہل سنت نے روایت کیا ہے، البتہ شیعوں نے بھی اسے نقل کیا ہے، ان کے ہاں متعدد ہیں، جبکہ شیعوں کے ہاں میں نے ایک جگہ سے زیادہ یہ حدیث نہیں دیکھی) یہ ہے:

**کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یہودانہ او**

**ینصرانہ او یمجسانہ**

”جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت الہی اور فطرت اسلامی پر دنیا میں آتا ہے، اس کے ماں باپ ( واضح رہے کہ ان کا ذکر خارجی عوامل کے نمونے کے طور پر کیا گیا ہے) اسے بدلتے ہیں۔ اگر وہ یہودی ہوں تو اسے یہودی بنادیتے ہیں، عیسائی ہوں تو اسے بھی عیسائی کر دیتے ہیں اور خود مجوسی ہوتے ہوں تو اسے بھی مجوسی بنادیتے ہیں۔“

(شیخ بخاری، کتاب الجہاۃ، باب م۸۵ و ۹۳)

گویا وہ جس گروہ سے ہوں، اسے اس گروہ میں لے جاتے ہیں۔

یہ حدیث اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری میں ہے اور شیعوں کے ہاں ”کافی“ میں البتہ میں نے قبل از اسے بخار میں دیکھا تھا، لیکن بخار میں موجود احادیث (جو اس مضمون کی ہیں) کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ سب اہل تسنیں کے مآخذ سے تھیں۔ کبھی میرا یہ خیال تھا کہ شیعوں نے اپنی معتبر کتب میں یہ حدیث نقل نہیں کی چونکہ بخار نے بھی اسے ابن ابی جہور احسانی کی کتاب غواص الالیامی سے نقل کیا ہے کہ جو حدیث کی معتبر کتاب ہرگز نہیں ہے، لیکن بعد میں تفسیر الحمیزان میں اُنہیں کہ اسے ”کافی“ سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس وقت مجھے یاد نہیں کہ میں نے اسے ”کافی“ میں خود بھی دیکھا ہے یا نہیں، البتہ تفسیر الحمیزان میں اسے اسی آیت ”فاقہم و جھک للذین حنیفاً“ کے ذیل میں ”کافی“ سے نقل کیا گیا ہے۔

اہل تسنیں کے ہاں متعلق اس حدیث کے ذیل میں بھی ایک بات ہے وہ یہ کہ رسول اکرمؐ نے یہ جملہ کہنے کے بعد ایک مثال ذکر فرمائی، یہ مثال بھی اہم ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

”کیا کبھی آپ نے کسی الیٰ گوسفند کو دیکھا ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے کان کئی پیدا ہو؟ یا یہ کہ گوسفند ماں کے پیٹ سے سالم کان کے ساتھ دنیا میں آتی ہے بعد میں انسان حیوان کے کان کاٹ دیتے ہیں۔“

اسلامی فطرت کی مثال آپؐ نے سالم کان سے دی ہے اور یہی انسانی

سرشت و طبیعت کا متقاضی ہے اور غیر اسلام کو آپ نے کئے کان سے تشبیہ دی ہے کہ جسے ایک خارجی عامل کسی چاقو، چھری سے کاٹ دیتا ہے، یہ تو ہوئی ایک حدیث۔

نجح البلاغہ کے خطبہ اول میں عالم اور آدم کی خلقت کے بارے میں اشارہ کرنے کے بعد بعثت رسول کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے:

**بعث فيهم رسلاه**

”اللہ نے لوگوں کے درمیان اپنے رسولوں کو مبعوث کیا۔“

**وواتر اليهم النبیاء**

”اور اس کے لیکے بعد دیگرے اپنے نبیوں کو بھیجا۔“

یعنی اس نے ایک ہی پر اکتفا نہ کی بلکہ ایک کے بعد دوسرا کو بھیجا۔ اس طرح سے کہ جو بھی آیا اس نے پہلے کی تائید و تاکید کی۔ کیوں؟

لیستا دوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و

**يتحجو عليهم بالتبليغ و يشيروا لهم دفائن العقول**

فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے انہیاء کو لیکے بعد دیگرے بھیجا (یہاں وہ دو نظریے واضح ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ کیا انہیاء اس نے آئے ہیں کہ ایسی چیز لوگوں کو دیں جس کا پہلے کچھ نام و نشان نہیں یا پھر وہ اس لئے آئے ہیں کہ جس چیز کا پیمان ان کی سرشنست میں موجود ہے وہ انہیں یاد دلائیں؟) ”لیستا دوهم میثاق فطرته“ تاکہ لوگ سے کہیں کہ جو عہد تمہاری فطرت میں ہے اسے وفا کرو۔ وہ آئے تاکہ لوگوں سے کہیں کہ اے انسان! تیری

فطرت کی گھرائی میں اپنے خدا سے تیراباندھا ہوا بیان موجود ہے، ہم آئے ہیں تاکہ تجھ سے اس عہد کے ایفاء کا تقاضا کریں، یعنی بغیر کسی بنیاد کے ابتداء نہیں ہے ایک چیز موجود ہے۔ انبیاء آئے ہیں تاکہ اسے عملی شکل دیں جیسے کبھی یہ صورت ہے کہ آپ بعض افراد سے کسی کام کے لئے قول لیں اور آپ کہیں کہ ہم آئے ہیں تاکہ تم سے اس قول کے پورا کرنے کا تقاضا کریں۔

امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اس لئے آئے تاکہ لوگوں سے اس عہد کے ایفاء کا تقاضا کریں جو ان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔

و يذكروهم منسى نعمته

”انہیں وہ نعمتیں یاد دلائیں کہ جن سے وہ غافل ہو چکے ہیں۔“

یعنی انبیاء متوجہ کرنے والے اور یاد دلانے والے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ بشر کو وہ چیز یاد دلائیں جس سے وہ غافل ہو چکا ہے، یعنی وہ مذکر (یاد دلانے والے اور تذکر دینے والے) یہاں معلم نہیں کہا، البتہ انبیاء معلم بھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نبی کو ”مذکر“ بھی کہا گیا ہے اور ”معلم“ بھی، جو چیز لوگوں کی فطرت سے مربوط ہے اس کے لئے نبی ”مذکر“ ہے، یعنی یاد دلانے والا۔

و يحتجوا عليهم بالتبليغ

انبیاء لوگوں کے لئے مذکر ہیں۔ عوام کو تبلیغ کرتے ہیں، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں پر اتمام جنت کرتے ہیں، لوگوں کے لئے دلیل لاتے ہیں، لوگوں کو مطمئن اور قانع کرتے ہیں اور لوگوں کا اعذرختم کر

دیتے ہیں۔

بعد کی تعبیر ان سب سے عمیق تر ہے۔

ویشیرواللهم دفائن العقول

”دفائن“ یعنی ”خزانے“، ”فینے“، ”گنجینے“۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں خزانے کو زیر زمین دفن کر دیتے تھے، اس لئے نہیں کہ خراب نہ ہو جائے، بلکہ اس لئے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ پہل جائے، لہذا لازماً اس پر مٹی ڈال دیتے تھے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ یہاں خزانہ ہے۔ جو کوئی بھی اس پر سے گزرتا، اسے پتہ نہ چلتا کہ اس کے زیر پا کوئی خزانہ ہے۔ انبیاء آئے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ تمہاری روح کی گہرائی میں تمہاری عقول کی تہوں میں اور تمہارے ضمیر باطن کے نہایا خانوں میں خزانے موجود ہیں اور تم ان سے غافل ہو۔ وہ آئے ہیں کہ خزانوں کے اوپر جو کچھ پڑا ہے اسے ہٹا دیں تاکہ انسان حیرت سے دیکھے کہ اس قدر خزانہ میرے اندر موجود تھا اور میں بے خبر تھا۔

سالہا دل طلب جام جام ازمی کرد

آنچہ خود داشت زیگانہ تمنا می کرد

لبی دلی در ہمہ احوال خدا با او بیو

او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد

”سال ہاسال دل ہم سے جام جم کا تقاضا کرتا رہا جو چیز خود

اس کے اپنے پاس موجود تھی اس کی دوسرے سے تمنا کرتا رہا،

یقیناً سب حالتوں میں خدا اس کے ہمراہ تھا، وہ اسے دیکھنہیں

پاتا تھا اور ”خدا یا خدا یا، پکارتارہا تھا۔“

یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ہمیں دو طرح کی آیات نظر آتی ہیں، آیات آفاقتی اور آیاتی نفسی۔ آیات آفاقتی یعنی جو انسانی وجود سے باہر ہیں، دیگر انسانوں کی خلائقیت، آسمان، زمین، ستارے پہاڑ، سمندر، بنا تات، حیوانات وغیرہ۔ لیکن آیات نفسی یعنی جو خود وجود انسانی میں موجود ہیں۔ قرآن کے نزدیک آیات نفسی کی اہمیت آیات آفاقتی سے زیادہ ہے، نیز آفاقت و نفس کی اصطلاح بھی خود قرآن سے حاصل کی گئی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے:

سُنْرِ يَهُمْ آيَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ

لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (م ج ۵۳)

اور جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ بعد ازاں یہ جو آفاق و نفس کی اصطلاح علماء اسلام نے استعمال کی ہے، اس کا مآخذ قرآن ہی ہے۔

آپ دیکھیں کہ اسلام انسان کے لئے کس قدر اصالت کا قائل ہے۔  
انسان ایک فطری ضمیر یا باطن کا قائل ہے۔

وَ يَشِرُّوا لِهُمْ دُفَائِنَ الْعُقُولِ

اور قرآن حکیم میں ہے:

وَ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقَنِينَ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِفْلَا

تبصرون (الزمر ۲۰-۲۱)

”اور یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں اور خود ان کے تفوس میں ثانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور کیوں دیکھتے

نہیں ہو؟“

یہ تو ہو گئی نوح البلاغہ میں موجود ایک جملے کے بارے میں گفتگو۔ ایک جملہ صحیفہ سجادیہ میں ہے، اتفاق کی بات ہے کہ جملہ بھی صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا میں ہے کہ جو ساری کی ساری حمد ہے۔ اس کے ابتداء میں چند جملے ہیں:

ابتداع بقدر نہ الخلق ابتداعا

”اس نے اپنی قدرت سے خلقت کی تخلیق کی۔“

ہم کہہ چکے ہیں کہ ”ابداع“ کا معنی ہے ایسی تخلیق کہ جو پہلے سے موجود کسی مثال اور تقلید کی بناء پر نہ ہو۔ نیز ہم عرض کر چکے ہیں کہ انسان بھی اپنے عالم میں ایک طرح کی تخلیق کا حامل ہے، لیکن انسانی تخلیق کا نام اگرچہ ”ابداع“ رکھ لیں، تاہم وہ طبیعت و خلقت کی مثال کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہ جو خالق کائنات ہے اس سے پہلے کوئی چیز ہی نہ تھی کہ جسے وہ دیکھ کر تخلیق کی منصوبہ بندی کرتا (الہذا صحیفہ سجادیہ میں بعد کا جملہ یوں ہے):

و اخترعهم على مشیته اختراعا

”اس نے انہیں اپنی مشیت کے مطابق اختراع کیا۔“

”اختراع“ کے معنی بھی ”ابداع“ والے ہی ہیں، یعنی صرف اللہ کی طرف سے اختراع ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ٹیپ ریکارڈ کو اختراع ”ایجاد“ کیا۔ اس کے بعد اسے لوگوں نے بنایا تو اسے اختراع نہیں کہا جا سکتا۔ (اس کے بعد ہے):

ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ ارَادَتِهِ وَيَعْثِمُ فِي سَبِيلِ

محبته ("سلک") سلوک کرنا یعنی راہ چلنا اور حرکت کرنا، جب سلوک باع  
سے متعدد ہو تو اس کا مطلب ہے راہ چلنا)

"ان کی تخلیق کے بعد انہیں اس نے اپنے ارادے کے  
راستے پر چلایا۔"

بعد کے جملے کو قرینہ قرار دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا، جس راستے میں  
اس نے خلق کیا اس کا ارادہ کریں، اس راستے میں نہیں کہ جس کا اس نے ارادہ  
کیا۔ جس راستے میں وہ اسے چاہیں، انہیں اس پر ڈال دیا اور اس پر انہیں حرکت  
دی۔ بعد کا جملہ مطلب کو زیادہ واضح کرتا ہے:

### و عثہم فی سبیل محبته

"اس نے مخلوق کو اپنی محبت کے راستے میں اٹھایا۔"

یہ جملہ بہت عجیب ہے، یعنی اصلاً مخلوق کی یہ تمام تحریکیں اور جنبشیں،  
چاہے خود کوئی سمجھے یا نہ سمجھے محبت خدا کے راستے پر ہیں۔ مسئلہ عشق میں ہم نے  
کچھ بحث کی ہے، ہم نے وہاں کہا ہے کہ حتیٰ کہ جو غیر خدا کی تلاش میں ہے، اس کا  
محرك حقیقی اللہ تعالیٰ کی جستجو ہی ہے، اس نے مصادق کی شاخت میں دھوکہ کھایا  
ہے۔ اب جملے کی ابتداء میں جو لفظ "خلق" آیا ہے، "ابدیع بقدرته الخلق" ہو  
سکتا ہے اس کا مقصود مطلق خلق و آفرینش ہو کہ لازمی طور پر انسان بھی جس میں  
 شامل ہو جاتا ہے، اس صورت میں جملے کا معنی یہ ہو گا کہ ہر موجود محبت الہی کے  
راستے پر رواں دوال ہے۔ یہ نباتات کہ جو حرکت کرتے ہیں ان کی اس حرکت  
میں عشق الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں،

محبته (”سلک“ سلوک کرنا یعنی راہ چلنا اور حرکت کرنا، جب سلوک باء  
سے متعدد ہو تو اس کا مطلب ہے راہ چلنا)

”ان کی تخلیق کے بعد انہیں اس نے اپنے ارادے کے  
راستے پر چلایا۔“

بعد کے جملے کو قرینہ قرار دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہو گا، جس راستے میں  
اس نے خلق کیا اس کا ارادہ کریں، اس راستے میں نہیں کہ جس کا اس نے ارادہ  
کیا۔ جس راستے میں وہ اسے چاہیں، انہیں اس پر ڈال دیا اور اس پر انہیں حرکت  
دی۔ بعد کا جملہ مطلب کو زیادہ واضح کرتا ہے:

### و عثہم فی سبیل محبته

”اس نے مخلوق کو اپنی محبت کے راستے میں اٹھایا۔“

یہ جملہ بہت عجیب ہے، یعنی اصلاً مخلوق کی یہ تمام ٹرھ رکنیں اور جنبشیں،  
چاہے خود کوئی سمجھے یا نہ سمجھے محبت خدا کے راستے پر ہیں۔ مسئلہ عشق میں ہم نے  
کچھ بحث کی ہے، ہم نے وہاں کہا ہے کہ حتیٰ کہ جو غیر خدا کی تلاش میں ہے، اس کا  
محرك حقیقی اللہ تعالیٰ کی جستجو ہی ہے، اس نے مصدقہ کی شناخت میں دھوکہ کھایا  
ہے۔ اب جملے کی ابتداء میں جولفظ ”خلق“ آیا ہے، ”ابتداع بقدرته الخلق“ ہو  
سکتا ہے اس کا مقصود مطلق خلق و آفرینش ہو کہ لازمی طور پر انسان بھی جس میں  
شامل ہو جاتا ہے، اس صورت میں جملے کا معنی یہ ہو گا کہ ہر موجود محبت الہی کے  
راستے پر رواں دواں ہے۔ یہ نباتات کہ جو حرکت کرتے ہیں ان کی اس حرکت  
میں عشق الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں

قوتِ ثقل کی وجہ سے حرکت کرتا ہے، درحقیقت ذات حق کی جگہ میں ہے اور اس کی ذات میں اس کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس ضمن میں آیات بھی ہیں:

وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكُنْ لَا تَفْقَهُونَ

تسبیح حهم (بنی اسرائیل، ۲۳)

”اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد (ثنا) کی تسبیح نہ کرتی ہو،  
مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔“

نیز یہ کہ

أَفَغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ (آل عمران، ۸۳)

”تو کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے  
ہیں، حالانکہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، خوشی  
یا زبردستی سے خدا کے فرمابندار ہیں۔“

نیز یہ کہ

وَ لَهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (آل عمران، ۱۵)  
”اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا  
زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔“

یا یہ کہ

سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (حدیث)  
”جو جملوں آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے۔“

نیز یہ بھی:

سبح لله ما في السموات وما في الارض (حثرا)

”جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں  
سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں۔“

ان آیات کی روشنی میں تو دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، یعنی قرآن ہمیں ایک نہایت عجیب اور وسیع تصور کائنات دیتا ہے۔ عارف مسلم شعراء نے اس ضمن میں بہت سچھ کہا ہے مثلاً مشہور اشعار کہ جو ظاہر انظامی کے ہیں:

خبرداری کہ سیاحان افلک

چرا گردند گرد مرکز خاک

چہ می خواہند از این منزل بریدن

کہ می جو یند از این محمل کشیدن

در این محراب گه معبد شان کیست

از این آمد شدن مقصود شان چیست

”یعنی کیا تجھے خبر ہے کہ افلک کے سیاح اور گردش کرنے

والے مرکز خاک (زمین) کے گرد کیوں گردش کنان ہیں؟

اس منزل سے وہ کیا لے جانا چاہتے ہیں کہ اس محمل سے جسے

وہ نکال لانا چاہتے ہیں؟ اس مقام محراب میں ان کا معبد

کون ہے؟ اس رفت و آمد سے ان کا مقصود کیا ہے؟“

اُن کے بعد کہتا ہے:

ھمہ ہستند سرگردان چو پرگار  
 پدید آرندہ خود را طلب کار  
 ”یہ سب کے سب پرکار کی مانند اپنے خالق کے مثالی  
 ہیں۔“

اسی طرح حافظ کا وہ معروف شعر جو اس مشہور غزل میں ہے کہ جو اس  
 شعر سے شروع ہوتی ہے

ما در این دار نہ پی حشمت و جاہ آمدہ ایم  
 از بد حادثہ انجیحا به پناہ آمدہ ایم  
 ”هم یہاں پر جاہ و جلال قائم کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں،  
 بلکہ ایک افتاد کے نتیجے میں یہاں پناہ لی ہے۔“

اس کے بعد کہتا ہے

رہرو منزل عشقیم ز سرحد عدم  
 تابہ اقیم وجود این ہسہ راہ آمدہ ایم  
 ”هم ملک عدم سے عشق کی منزل کے راہی ہیں اور ہم اسی  
 نتیجے میں چلتے چلتے عالم وجود میں آ گئے ہیں یعنی راز آفرینش  
 محبت ہے۔“ (بہت عمدہ غزل ہے)

آبرو می رو د ای اگر خطا شوی ببار  
 کہ پہ دیوان عمل نامہ سیاہ آمدہ ایم  
 ”مے خطاؤں کے دھونے والے ابادل تو یہنہ برسا، کیونکہ

ہمارا نامہ اعمال سیاہ کارنا موس سے پڑ ہے اور منہ دکھانے کے  
قابل نہیں ہیں۔“

اس ضمن میں حافظ نے بہت کچھ کہا ہے، کوئی ایک دو شعر نہیں ہیں، اس  
کی جو غزل کچھ واضح ٹرھے اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔

روشن از پرتوی رویت نظری نیست کہ نیست  
منت خاک درت یہ بصری نیست کہ نیست  
”کہنا چاہتا ہے کہ کوئی نہیں یہاں تک جو مفکر بھی ہے کہ جس  
کی نظر تیرے رخ کے پرتو سے روشن نہ ہو، لیکن خود نہیں جانتا  
اور نہیں سمجھتا۔“

(پہلی بات کی تاکید اس انداز سے کر رہا ہے)

ناظر روی تو صاحب نظر ان آری  
سر گیسوی تو دریچ سری نیست کہ نیست  
”کچھ صاحبان نظر ایسے ہیں کہ جو تجھے دیکھتے ہیں اور جانتے  
بھی ہیں کہ تجھے دیکھ رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ دیکھ تو  
رہے ہیں لیکن خود نہیں جانتے کہ دیکھ رہے ہیں۔“

مصلحت نیست کہ از پرده بروں افتدر از

ورنه در مجلس رندان خبری نیست کہ نیست

”یہ کہ راز سے پرده اٹھایا جائے مناسب نہیں ہے اور خلاف  
مصلحت ہے و گرنہ رندوں کی محفل میں (عرفاء) نہ جانئے اور

نہ سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہر چیز واضح اور عیاں  
ہے۔“

جناب سبزداری صاحب کتاب منظومہ حکیم، فلسفی، عارف اور ایک غیر  
معمولی ترقی شخص ہیں، اگرچہ ان کی شہرت علم کی وجہ سے ہے، لیکن ان کا مقام عمل  
ان کے مقام علم سے بالاتر ہے۔ شعر بھی کہتے ہیں فارسی میں بھی اور عربی میں بھی،  
البتہ ان کا شمار صرف اول کے شعرا میں نہیں ہوتا، تاہم ان کے اچھے شعر بھی بہت  
ہیں، ان کے بعض اشعار واقعاً بہت عمدہ ہیں۔ حافظ کی اس غزل کا انہوں نے  
استقبال کیا ہے، ایک دو شعراں میں ایسے ہیں کہ تقریباً حافظ کے پائے کے ہیں  
اوہ انہوں نے شہرت بھی بہت پائی ہے۔ کہتے ہیں۔

شورش عشق تو در بیچ سری نیست کہ نیست

منظر روی تو زیب نظری نیست کہ نیست

”تیرے عشق کا چرچا برپا ہے اور تیرے چہرے کا پرتو ہر نگاہ و

نظر میں ہے، لیکن کوئی جانتا اور سمجھتا نہیں ہے۔“

وہی حافظ کی بات کو اس انداز سے کہتے ہیں۔

نیست یک مرغ دلی کش نکندی بے قفس

تیر بیداد تو تا پر بہ پری نیست کہ نیست

نہ ہمیں از غم او سینہ ما صد چاک است

ذاغ او لا لہ صفت بر جگری نیست کہ نیست

وہ شعر جو بہت مشبور ہے اور جو حاصل غزل ہے یہ ہے

موگی ای نیست کہ دمبوی انا الحق شنود

ورنه این زمزمه اندر شجری نیست کہ نیست

چشم ما دیدہ خفاش بود ورنہ تو را

پر تو حسن بہ دیوار وری نیست کہ نیست

گوش اسرار شنو نیست و گر نہ اسرار

برش از عالم معاشر خبری نیست کہ نیست

(اسرار جناب بزرگواری کا تخلص ہے)

بہر حال صحیفہ سجادیہ کا یہ جملہ غیر معمولی طور پر عجیب اور پر معنی ہے۔ اب

اگر ہم "ابتدا ع بقدرته الخلق" میں "خلق" مطلق خلقت کے معنی میں لے

لیں تو پھر یہ جملے تمام تر خلقت کے لئے ایک عمومی فلسفے کی حکایت کرتے ہیں کہ

جس میں انسان بھی شامل ہے اور اگر "خلق" سے مراد صرف انسان لیں تب بھی

واضح ہے کہ انسان تو شامل ہی ہیں۔

یہ وہ چیزیں تھیں کہ جنہیں میں مدارک اسلامی میں موجود ایسے

موضوعات کے نمونے کے طور پر عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک بات کو مقدمتاً عرض

کرنے کے بعد آیت فطرت اور آیت ذر کی شرح کروں گا۔

فطرت دو طرح کی ہو سکتی ہے اور یہ دونوں باہم مانعہ اجمع نہیں ہیں

(یعنی ایسی نہیں کہ آپس میں جمع نہ ہو سکیں)، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔

ایک فطرت اور اکی ہے اور دوسری فطرت احساس، احساس سے مراد وہی ہے جس

کی جمع ہم محسوسات کرتے ہیں۔ فطرت اور اکی سے مراد یہ ہے کہ دین یا خاص

طور پر توحید اور اک کی نظر سے یعنی فکری حوالے سے انسان کے لئے فطری ہے۔ دین یا خاص طور پر توحید کے حوالے سے ہم ”فاقم و جھک للدین حنیفا“ پر گفتگو کے ضمن میں سچھ کہیں گے۔ فطرت اور اک کی، یعنی ایک ایسی فکر ہے کہ عقل انسانی فطرتی طور پر اسے قبول کرتی ہے اور اسے قبول کرنے کے لئے اسے تعلیم و تعلم اور مدرسے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جسے ہم اور اک کی نظر سے فطری کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اسے دلیل کی ضرورت نہیں یا وہ ایک کلیہ ہے یا اس کا تعلق ایسے امور سے ہے کہ جنہیں اگر دلیل کی ضرورت ہو بھی تو ان کی دلیل ہمیشہ ان کے ہمراہ ہوتی ہے ”قضایا قیاساتہا معها“، یعنی وہ امور جن کے دلائل ان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔

چونکہ ان کی دلیل ہمیشہ ان کے ہمراہ ہوتی ہے، لہذا ان کے لئے بھی کسی ایسے معلم کی ضرورت نہیں کہ جو انسان کو مدرسے میں ان کی تعلیم دے، اسے ہم اور اک فطری کہتے ہیں کہ جو فکر اور اک اور عقل کی دنیا سے مربوط ہے۔

اب ہم اس کے لئے بھی حدیث سے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں:

تفیر صافی میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک مفصل حدیث لفظ ہوئی ہے۔ اس حدیث کی سند اگرچہ بالکل معتبر نہیں ہے، لیکن اس کے معانی کچھ ایسے ہیں کہ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اس کے مطالب سے اس کی درستی اور صحبت کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، حدیث ہے بھی بہت جاذب فکر۔ یہ حدیث اس آیت کے ذیل میں ہے:

وَمِنْهُمْ أَمْيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا امَانِيٌ (بقرۃ ۲۸)

”ان میں سے ایک گروہ امی اور ان پڑھ لوگوں کا بھی ہے کہ

آرزوؤں اور تصورات کے علاوہ تورات کی کچھ خبر نہیں۔“

جیسے آج کے مسلمان عوام ہیں۔ یہ امی لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ تورات ہے، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ تورات کیا ہے؟ تو انہیں کچھ پتہ نہیں۔ بعض چیزوں کے بارے میں ممکن ہے خیال کریں کہ یہ تورات میں ہیں کہ جو تورات میں نہ ہوں اور جو چیزیں تورات میں ہیں ان کا انہیں علم نہیں، یہ ایسے بے خبر ہیں۔ مذکورہ حدیث کچھ یوں ہے:

”ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ عوام کا کیا قصور ہے، خود قرآن تسلیم کرتا ہے کہ یہ لوگ تو جاہل ہیں اور بے معرفت ہیں، جو کچھ بھی انہیں نصیب ہوا وہ تو علماء کا کیا دھرا تھا، لہذا سب مذمتوں کا رخ علماء کی طرف ہونا چاہئے۔ عالم لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں، انہیں تو عند اللہ معدود ہونا چاہئے، قرآن ان پر کیوں تقید کرتا ہے؟“

اس سوال کے جواب میں امام نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اس حدیث کا تقریباً پندرہ برس قبل ایک تقریر میں ذکر کر چکا ہوں، جب ماہانہ دینی اجتماعات میں تقریروں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا (مذکورہ تقریر کتاب ”دہ گفتار“ میں ”اصل اجتہاد در اسلام“ کے زیر عنوان درج کی گئی ہے) اس میں میں نے حدیث کے بہت سے حصے ذکر کئے تھے۔ اس میں امام نے ایک نہایت عمدہ موضوع اٹھایا ہے، آپ نے علماء کی تقسیم بندی کی ہے کہ وہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں، اور یہ

کہ علماء سوء ایسے ہوتے ہیں اور علماء غیر سوائیسے اور جو علماء برے ہوتے ہیں ان کا ضرر و نقصان اسلام کے لئے یزید بن معاویہ کے اس لشکر سے زیادہ ہے کہ جو حسین بن علی علیہ السلام پر حملہ آور ہوا۔

غرض امام گفتگو کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتے ہیں، رہی بات عام

لوگوں کی، امام باقر فرماتے ہیں:

”منہیں، ایسا نہیں ہے، بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کے لئے حصول تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں کہ چونکہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، لہذا ان کا عذر قابل قبول ہے۔ بعض مسائل میں عوام کا عذر قابل قبول ہے، بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کے لئے حصول علم ضروری ہے، انہوں نے اگر ان کے لئے تعلیم حاصل نہیں کی، کیونکہ بعض لوگ ان کے حصول علم میں حائل ہو گئے ہیں تو یقیناً ان کا عذر قابل قبول ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کے لئے حصول تعلیم کی ضرورت نہیں، انسان کا دل انہیں معارف فطری ہونے کی وجہ سے خود سے مجبوراً سمجھ لیتا ہے۔“

اس کے بعد امام مثال ذکر کرتے ہیں، کتنی عمدہ مثال ہے، فرماتے ہیں:

”یہودی عوام یہودی علماء کو دیکھتے تھے کہ وہ انہیں تقویٰ اور پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں، انہیں سخورناہ کھانے کا حکم دیتے ہیں، لیکن خود اس پر عمل پیر انہیں ہوتے، بلکہ اس کے برخلاف عمل

کرتے ہیں، عوام اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے تھے۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

و قد اضطروا بِمَعْارفٍ قلوبَهُمْ

”انسان خود سر شست و قلب کے معارف کے زیر حکم سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک حکم دے اور خود عمل اس کے برعکس کرے تو اس کی بات پر اعتناد نہیں کرنا چاہئے اور ٹھکرا دینا چاہئے، اس کے لئے حصول تعلیم کی ضرورت نہیں کہ کہا جائے کہ کس یونیورسٹی نے عوام کو یہ بات سکھائی ہے کہ اگر تم نے دیکھا کہ کوئی عالم تمہیں تقویٰ کا حکم دیتا ہے، لیکن خود اس میں تقویٰ نہیں ہے تو اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے لئے کسی یونیورسٹی یا مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر کسی کی فطرت اتنی بات سمجھ لیتی ہے۔“

انہیں ہم ابتدائی فطری ادراکات کہتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی شخص بھی

انسان کو تعلیم نہ دے تو تبھی انسان فطری طور پر سمجھ لیتا ہے۔

لہذا فطرت کا ایک معنی فطرت اور اکی ہے ”دین فطری ہے“، اس معنی

میں ہے ”توحید فطری ہے“ کا یہ مطلب ہے، یعنی ادراک کی نظر سے فطری ہے (جیسا کہ استاد شہید مطہریؒ کی اپنی عبارت سے واضح ہے، بحث فطرت بالخصوص آیات قرآنی کے حوالے سے ابھی جاری تھی لیکن ظاہراً یہ نشیشیں بیکیں پر تمام ہو

گئیں اور حزیرید جاری نہ رہ گئیں۔ ”ناشر فارسی“)

دوسری نظرت احساس ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ بلکہ یہاں تک کہ دینی احکام کی طرف توجہ سے یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے احساسات اسے اللہ اور دین کی طرف کھینچتے ہیں، یہ دو جدا جدا باتیں ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً اللہ کو سمجھتا ہے اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر اللہ کی طرف رجحان رکھتا ہے، اس کی طرف کھینچتا ہے اور جذب ہو جاتا ہے۔

اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ قرآن نوح البلاغہ صحیفہ حجاجیہ اور آئندہ اطہار کے کلمات و اقوال میں جو کچھ دین کے فطری ہونے اور جمیعی طور پر توحید کے بارے میں آیا ہے، کیا مقصود یہ ہے کہ دین و توحید اور اس کی حوالے سے فطری ہیں، اور اسکے فطری صورت میں موجود ہیں یا مقصود یہ ہے کہ یہ ایک فطری رجحان اور فطری کشش کی صورت میں انسان میں موجود ہیں یا پھر یہ دونوں باتیں ہیں؟ آئندہ نشت سے کہ جب ہم آیات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس بارے میں بحث کریں گے اور شاید لازمی طور پر انہی عبارتوں کی مزید تفصیل کی طرف پلٹ آئیں۔ ہم اس موضوع پر بحث کریں گے کہ کیا دین یا توحید فطری ہے؟ بذات خود یہ مسئلہ بھی قابل بحث ہے کہ کیا دین مجموعی طور پر فطری ہے؟ یا خاص طور پر توحید ہی فطری ہے کہ جو اصول دین کی بنیاد ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا دین یا توحید انسان میں ایک اور اسکے فطری کی حیثیت سے ہے یا ایک فطری احساس اور رجحان کی صورت میں؟

## فہرست کتب

ادارہ منہاج الصالحین لاہور

120	تلاش حج	
100	ذکر حسین	
100	برزخ پند قدمی	
100	اسلامی معلومات	
100	محمد علی	
100	محمد علی	
120	سورت یا اول کی اوت میں	
100	شہید اسلام	
50	قیام عاشورہ	
100	قرآن اور اہل بیت	
45	دینی معلومات	
35	نوجوان پوچھتے ہیں کہ شادی کس تک کریں؟	
15	ظالم خاں کیوار سخاںی امام	

200	توشیح ۱۶	
100	تیری سو رفتار	
100	مشعل بدایت	
125	ام اسٹریم	
225	سوئیں مال مجز	
225	انکار شریعت	
125	جیت آں مجز	
135	مناظر۔	
240	آسان مسائل (چار جلد)	
100	تاریخ جنت اربع	
100	بندوق اپنائیں	
35	حقوق زوجین	
20	ارشادات امیر المؤمنین	
50	حدایت مظلوم	
35	مرا امتحنی، فخرات بولن	
35	لڑکی سوار کا چاندنی	
30	اسلامی ہمیلیاں	

15	فکر حسین اور ہم	
40	پیام عاشورہ	
35	محضو میں کی آہنیاں	
35	ارشاداتِ مصطفیٰ و مرتضیٰ	
10	آزادیِ مسلم	
55	نقابِ بیت	
100	سمینہ پختن	
100	حرفِ احساس	
100	حسین میرا	
150	جامِ نذری	
100	زندو تحریریں	
60	شبکار رسانات	
130	محش خاموش	
200	اسلام اور کائنات	
120	غريبِ زندہ	
125	فطرت	
50	جستجوی حق	

250	خطبات محسن (جلد ۲)	
125	صدائے محسن	
100	انکار محسن	
375	شیم الجاہل (جلد ۳)	
125	ریاض الجاہل	
125	نشیر الجاہل	
250	بہشت	
150	آفتاب والایت	
150	تبذیب آل محمد	
150	تو پسخ المسائل	
200	عصر ظہور	
100	جدید فقیہی مسائل	
150	کر بنا سے کر بنا تک (جلد ۲)	
60	معجزہ مسیہ	
135	نماخ	
150	بنت	
135	اولی الامر کوں؟	

135	فخر اخ طابت	
135	معيار صداقت	
60	صہدی حدیث کی روشنی میں	

## ائشاعی عزائم

نحو شمس	
کربلا میں اصحاب کا کردار	
چودہ ستارے (جدید)	
سردار کربلا	
نهر المصائب (5 جلد)	
بحر المصائب	
محامی المدرس (3 جلد)	
علیؑ سے مشہور فضیل	
علیؑ کی مشہور حکیمیں	
بیت الحزن	
سوال کیجیے جواب بھیجیے	

# خبر خوش

ہم نے قارئین کرام کی سہولت کے پیش نظر  
 ادارہ کی ایک براچ اردو بازار لاہور میں کھول لی ہے۔  
 یہاں پر ادارہ بندگی شائع کردہ کتب کے علاوہ تمام  
 شیعہ اداروں اور پبلیشرز کی کتب دستیاب ہیں۔  
 ترویج و تبلیغ علوم محمد و آل محمد کی خاطر  
 قیمتیں نہایت مناسب ہیں۔

لٹرگا پڑھ

ادارہ منہاج الصالحین  
 الحمد مارکیٹ، فرسٹ فلور، دکان نمبر 20،  
 غزنی سٹریٹ اردو بازار، لاہور فون: 7225252